

„ *IAZIDUS BEN ABDELMALEK* ad
 Imperium evectus, totum se volu-
 pratibus tradidit: ita ut cum puella
 quadam, nomine *Salama*, consuesce-
 re non dubitaverit. Huic successit
 „ *HESHAMUS BEN ABDELMALEKUS* ejus
 frater, ingenti avaritiâ Princeps. Hic
 multa construxit ædificia, immensas
 coegit opes, virosque arma docuit.
 „ Tantum studiû & curæ educandis
 Equis tractandisque impendit, ut qua-
 tuor Equorum millia in stabulis ad
 usum aleret. (a)

„ *ALVALIDUS BEN IAZID*, qui Im-
 perator creatus fuit, otio ac de-
 liciis plus æquo indulgit. Ad hæc ac-
 cessit summa contumacia & in Deum
 impietas, quâ eò insolentiæ pro-
 cessit, ut Alcorani volumine pro sco-
 po inter jaculandum uteretur. Huic
 demortuo successit *IAZIDUS BEN ALVA-
 LID ABDELMALEKI* filius, Princeps mu-
 nificentiam eximius, *Imminutor* inde di-
 ctus, quòd bonam exercitûs partem
 dimisisset. Regnavit is menses quin-
 que & dies duos. In cuius locum
 statim successit illius frater *ABRA-
 HAMUS* filius *ALVALIDI*, qui haud diù
 in imperio vixit. (b)

„ Etenim *MARUANUS BEN MO-
 HAMAD BEN ALHAKEM* è Mesopota-
 mia in Syriam profectus, *ABRAHAMUM*

„ occidit, ejusque corpus cruci jussit
 „ affigi: quæ acta sunt mense, post-
 „ quàm imperare cœpit, quarto. Erat
 „ profectò *MARUANUS* animi fortitudi-
 „ ne & Historiæ peritiâ insignis, per-
 „ inde ac rei militaris usu exercitatissi-
 „ mus: cuius & jussu Pontifex *ABRA-
 „ HAMUS* è medio sublatus est; non qui-
 „ dem ille de quo supra, verùm Pon-
 „ tifex alter, à quo *Abbasidite* postea
 „ sunt denominati, *ABRAHAMUS* videli-
 „ cet *BEN MOHAMAD BEN ALI EBN
 „ ABDALLA EBN ALABBAS*. Quæ sanè cæ-
 „ des effecit, ut *Abbasidite* ad arma con-
 „ citati, imperio potiti sint. Nam *MA-
 „ RUANUS*, cui exercitus *Abbasidarum*
 „ nigram vestem veluti in tesseram in-
 „ dutus, occurrit, fusus fugatusque,
 „ in urbem *Muselam* se recipere co-
 „ ctus est. Incolæ, nigris vexillis sub-
 „ latis, aditum illi præclusere: adeo ut
 „ cum omnibus domesticis, familiari-
 „ busque aliò migrandum statuerit.
 „ Quem fugientem insequutus cum
 „ *Abbasidarum* exercitu *ABRAHAMI* ne-
 „ cis ultor fortissimus *SALEHUS BEN ALI
 „ BEN ABDALLA BEN ABBAS* ad civita-
 „ tem usque *Ægypti*, nomine *Busir*,
 „ interfecit anno *Egræ* 132. Christi
 „ 749. fetiâ 1. die 3. mensis *Dilha-
 „ giat*: quicum *Ommiaditarum* Impe-
 „ rium eversum est. Laus ergo Deo,
 „ qui

(a) وقام من بعده يزيد بن عبد الملك وكان الغالب عليه اللهو وملاكت نرمام نفسه
 جاريتته سلامة وتولي بعده اخوه هشام بن عبد الملك وكان ملكا حازما قطا جمع
 الاموال وعمر الارض واصطنع الرجال وكان موثرا للخيل بلغت الحلبة في مرتبة
 اربعة الاف فرس

(b) ثم الوليد بن يزيد وكان صاحب شراب ولهو وبطالة وقضى كان جبارا عنيدا
 فجعل المصحف غرضا لنشابة ثم تولى بعده يزيد بن الوليد بن عبد الملك وكان
 خيرا ولقب بالناقص لكونه نقص الجند فكانت ولايته خمسة اشهر وليتين ثم
 ولي بعده اخوه ابراهيم بن الوليد ولم تطل مرتبة

„ qui Regum superstes , tempora ver-
„ fat superbosque debellat. (a)

„ *IMPERATORUM*
„ *ABBASIDITARUM*
„ SERIES.

„ Primus eorum Imperator fuit
„ *ALSAPHAHUS* , aliàs dictus *ABDALLA*
„ *BEN MOHAMAD BEN ALI BEN ABD-*
„ *ALLA BEN ABBAS* , qui , sublati infi-
„ gnibus nigris , summo Ordinum con-
„ sensu Calipha in *Khorasana* declara-
„ tur anno Egiræ 132. feriâ 4. die 11.
„ Rabii posterioris. Ei demortuo suc-
„ cedit *ALMANSOR* frater , *ABU GIAPHA-*
„ *RUS ABDALLA BEN MOHAMAD BEN*
„ *ALI*. Hunc inter & *ABU MUSLEMAM* ,
„ gente *Khorasanensem* , & præcipuum
Tom. II.

„ *Abbasiditarum* fautorem , quippe quo
„ duce *MARUANI* exercitus profligatus
„ fit , dissidium exortum est : unde fa-
„ ctum ut *ALMANSOR* arte & dolo il-
„ lum ad necem conquirere cœperit :
„ quæ re verâ tandem aliquando con-
„ tigit mense Schabano , anno Egiræ
„ 136. *ALMANSOR* autem diem obiit
„ anno 158. die 6. mensis Dillhagiat. (b)

„ Ejus filius *ALMOHADI MOHA-*
„ *MAD* Regni gubernacula fuscipit , cu-
„ jus res præclare gestæ summis laudi-
„ bus celebrantur. Obiit anno Egiræ
„ 169. die 23. Moharami. Huic in
„ Regnum successit filius *MOISES ABU*
„ *GIAPHAREUS* , aliàs *ALHADI* nuncupa-
„ tus , cujus extant scripta adversus
„ *Manichæos* præclarissima. Fato fun-
„ ctus est anno Egiræ 170. atque eo-

Aa dem

(a) مروان بن محمد بن الحكم أقبل من الجزيرة فدخل دمشق وقتل ابراهيم
وصلبه لاربع اشهر من ولادته وكان مروان شهما مجربا عارفا بالسير والخبار
فقتل الامام ابراهيم ليس الذي تقدم ذكره انما هو الامام الذي دعت اليه دعاة العباسية
وهو ابراهيم بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عباس وبعد قتله انهال عليه كثير
الدعوة العباسية ولقي جمع المسودة فكانت عليه الهزيمة ومضي الي الموصل فمنعه
اهلها واظهر اشعار السواد فرحل باهله وسائر بني امية وتبعه صالح بن علي بن
عبد الله ابن عباس فلحقه ببوصير فهجم عليه وناذي العباسيون بالثارات ابراهيم فقتل
مروان تلك الليلة ليلة الاحد لثلاث بقين من ذي حجة اثنتين وثلاثين ومائة وانتهى
امر بني امية سبعان وارث الدول ومردل الايام وقاهر الجبابرة

ذكر دول الخلفاء من بني العباس

(b) اول املاكهم السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ظهرت
دعوته بخراسان وابدت شعار السواد وصار الامر اليه يوم الاربعاء لحدري عشرة ليلة
خلت من ربيع الاخر سنة ثنتين وثلاثين ومائة وما بعده المنصور اخوه ابو جعفر
عبد الله بن محمد بن علي ولما تم الامر وقعت بين المنصور وابو مسلم الخراساني
كبير دعاة الخلفاء العباسيين وهو الذي اوقع بجيش مروان تلك الوحشة ولم ينزل
يطيبة ويخدره الي ان وقع به في شعبان سنة ست وثلاثين ومائة توفي المنصور سنة
خلون من ذي حجة من سنة ثمان وخمسين ومائة

dem ipso tempore illius frater *ALRASCHIDEUS* Calipha renunciatus est, qui ad alia animi ornamenta non vulgarem adjunxit & Poëtices & Historiæ peritiam. Eo Rege, *Barmacida*, qui supremi Viziri munus apud ipsum obibant, penitus, ut fama est, everfi sunt. Sui successorem designat filium *MOHAMEDUM ALAMINUM*, otio voluptatibusque planè deditum; quippe qui amicitia Poëtæ *ABA NAVAS ALHOSAIN BEN HANI*, amorum ea tempestate lusoris, maximè usus est. Testantur id hujus carmina in *ALAMINI* laudes. (a)

„ Itaque *ALMAMUNUS* ut spem in regnum succedendi ab *ALAMINO* fratre per summam injuriam sibi ademptam esse animadvertit, illum & imperio & vita spoliare coactus fuit. Quare urbe *Bagdado* annum unum & sex menses circumfessâ, cum fumum, turpiterque fugatum interfecit. Hinc

„ *ALMAMUNUS*, quem eruditio, simulque munificentia quàm maximè commendabant, Regnum adeptus, expeditione suscepta, bellum gessit in *ABRAHAMUM ALMAHADI* filium *BEN MOHAMAD BEN ALMANSOR*, qui Regnum affectabat; tempusque idoneum nactus, Caliphatus insignia unius anni spatio in urbe *Bagdado* gessit. At hic etiam victus, in *ALMAMUNI* potestatem venit. *ALHASSANUS BEN SAHAL*, quid de eo agendum consultus, respondisse fertur: si illum è medio sustuleris, Regum sanè qui te, ò Fidelium Imperator, antecesserunt, exemplum hac in re sequaris: quòd si ei velis ignoscere, facinus memoriâ dignum edideris, quod à Rege nullo editum esse legatur. His dictis, *ALMAMUNUS ABRAHAMUM* reum, datâ veniâ, dimisit. *ALMAMUNUS*, bello *Græcis* indicto, in itinere moritur anno *Egira* 218. feriâ 5. die 17. *Ragebi*. (b)

„ *AL-*

(a) وصير الامر الي المهدي ابن المنصور محمد وله اخبار حسان وامداح توفي لسبع بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة وولي الامر بعده ابنه موسى الهادي ابو جعفر وله في ثبات الملوك حديثه مع البخاري وتوفي سنة سبعين ومائة وولي الامر هارون اخوه الملقب بالرشيد واخباره في المعرفة بالشعر والخبر واوقع بني جرمك ونراية واستاصلهم بما هو مشهور وعقد لبيعته لولده محمد الامين وكان مايل الى البطالة وهو الذي نادى ابا نواس الحسين ابن هاني وامداح فيه مذكورة

(b) وذكث عهد اخيه المامون المعقود له بعده بما كان داعية خلعه وقتله وكان مهلكه ببغداد بعد حصار سنة كاملة ونصف سنة وولي بعده اخوه عبد الله المامون وكان ملكا عالما كريما وثار ابراهيم نجل المهدي بن محمد بن المنصور ودعا لنفسه ببغداد فخرج عنها المامون الي بعض حرورية واقام خليفة سنة ثم اظفره الله به في خبر طوبل ووقف بين يديه واستشار في امره الحسن بن سهل فقال يا امير المؤمنين ان قتلته عملت ما عمله الملوك قبلك وان عفوت عنه عملت ما لم يعمله ملك غيرك فعفي عنه توفي المامون غانريا ارض الروم في يوم الخميس لثلاث عشرة بقين من رجب سنة ثمانين وعشرين

„ *ALMAMUNI* frater *MOHAMAD*, *HARUN* filius, magni vir animi & corporis, adeo ut pondus mille librarum tollere valeret, at planè litterarum rudis, Imperator declaratur, nomine *ALMOTASSEMUS*. Is omnium primus Cohortem Prætorianam, ex Turcica gente conflata, ad quatuor militum milia auxit. Anno *Egira* 223. captâ urbe *Ammoriâ*, (de qua videsis *GOLIUM* in *Notis*, pag. 296.) bellum adversus Imperatorem *Constantinopolitanum* paravit. *APHSCHINUM* Turcam, supremum Regiæ militiæ Præfectum, repugnare ausum, debellavit; tandemque patibulo affigi iussit. Mortuo *ALMOTASSEMO*, ejus filius *HARUN*, morum integritate ac ingenii magnitudine clarus, Caliphatum occupavit, nuncupatusque fuit *ALVATHECUS*. (a)

„ Post cujus obitum Imperium delatum est ad fratrem *GIAPHARUM ABUELPHADHL*, *ALMOTASSEMI* filium, cognomento *ALMOTUAKELUM*. Hic fanè tot tantisque nominibus inclaruit, ut eum *ABU OBADA ALBOHTARI* Poëta summis laudibus extulerit. Anno *Egira* 247. die 3. mensis *Scheuali* *ALMONTASERUS* filius, immisissis quibusdam Turcis, patrem interemit: hinc Imperium occupat, in quo non nisi menses sex vixit, curis vigiliisque confumtus ob assiduam paternæ cæ-

Tom. II.

„ dis conscientiam. *Turcarum* adnitente factione, ad solium evectus est *AHMEDUS BEN MOHAMAD*, *ALMOTASSEMI* filius, aliàs *ALMOSTAINUS* vocatus, cujus partes animis armisque *Turcæ* semper foverunt. Cæterùm ab iisdem, non multis post annis abdicato Caliphatu, interemtus. In illius locum successus *ALMOTAZZUS*, *GIAPHARI ALMOTUAKELI* filius, *ZOBERUS* dictus, qui etiam & Regno & vita exutus est. Imperii gubernacula suscepit *ALMOHTADÆUS*, *ALVATEKI* filius, videlicet *MOHAMAD BEN HARUN*, Princeps adeo justitiæ tenax, legumque defensor, ut si Scriptoribus fides habenda, sese in omni virtutum genere fuisset exerciturus, modò longior ei vita suppetiisset; *Mamlucis* enim ab eo dissidentibus, *Turcis*que jam infestis, immaturus interiit. Regno potitur *AHMAD ABULABBAS BEN GIAPHAR*, *ALMOTUAKELI* filius, qui & *ALMOTAMEDUS ALALLA* nuncupatus est. Eo Imperatore, rebellis quidam *JACOBUS BEN ALLITH*, vulgò *ALSO-PHAR*, prodiit, homo rerum civilium prudentia egregiè instructus ac militibus percarus: ita ut illius res gestæ haud tenuem Scriptoribus narrandi materiam præbuerint. *ALMOTAMEDUS* tandem obiit anno *Egira* 279. (b)

„ Ad Regnum pervenit *ABULAB-*

Aa 2

„ BAS

(a) وقام بالامر اخوه المعتصم هو محمد بن هارون وكان كبيراً بعيد الهمة شجاعاً شديد البدن يحمل الف رجل الا انه كان امياً وهو اول من تال في الاقتراک فبلغ عددهم اربعة الاف وفتح مدينة عمورية سنة ثلاث وعشرين ومايتين ثم عزم علي غزو صاحب القسطنطينية فخالفه الافشين التركي وظفر به فصلبه ولما هلك المعتصم ولي بعده ولده هارون الملقب بالواثق وكان حسن السيرة واسع المعروف

(b) وولي بعده اخوه جعفر بن المعتصم ابو الفضل الملقب بالمتوكل وكانت دولته نبهة الالقاب متناهية الاحتفال ولابي عبادة البحتري فيه امداح جليلية وواقع به

„BAS AHMAD BEN THALHA, ALMOTVA-
 „HELI filius, necnon ALMOTAMEDI ne-
 „pos, ALMOTADHEDUS dictus: qui in-
 „victo animi robore, ac singulari pru-
 „dentiâ quotquot ab imperio detece-
 „rant, partim fudit, partim subegit.
 „CATHRALNADA filia HAMARUË BEN
 „AHMAD BEN THOLON Ægypti Re-
 „gis, quam sibi matrimonio junxit, tan-
 „tâ erat prædita pulchritudine, tantis
 „opibus, ut in proverbium abierit,
 „posterisque insigne splendoris extite-
 „rit exemplar. ALMOTADHEDO, qui in
 „urbe Bagdad obiit anno Egiræ 289.
 „in regnum successit filius, nomine
 „ALMOKTAPHI BILLA ABU MOHAMAD
 „ALI BEN AHMAD, non avarus minùs
 „quàm pravis moribus. (a)
 „Calipha post ipsum salutatur
 „ejus frater ALMOCTADERUS BILLA, aliàs
 „GIAPHAR BEN AHMAD, consilio &

„rerum administrandarum peritiâ ne-
 „mini postponendus. Quo Rege, per-
 „ditissimi quidam homines, Caramatæ
 „dicti, ex Arabia erumpentes, Mec-
 „cam expugnarunt, direpto Lapide Ni-
 „gro, Mahometanis sacro: quem illi
 „magno pretio post aliquot annos re-
 „demerunt. ALMOKTADERUS, commisso
 „inter ipsum & MUNIS Eunuchum re-
 „bellem certamine, ad Bagdadi por-
 „tas vitam amisit anno Egiræ 320. Im-
 „perat deinde ALCAHERUS, ALMOTADHI
 „filius, MOHAMAD BEN AHMAD dictus,
 „Princeps crudelissimus, proindeque
 „subditis invisus: qui Turcas auctori-
 „tate & viribus maximè pollentes me-
 „tuens, sibique cavens, pugionem affi-
 „duè gerebat. Illorum tamen artificio
 „effectum est, ut candente ferro ocu-
 „lis admoto, visu fuerit orbatus, ac
 „regno juxta exutus. ALRADÆUS ABU-

„ LAB-

وواقع به الترك بتدبير ابنه المنتصر لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومايتين
 ولم تطل مدة ابنه بعده الا سنة اشهر ولازمة الفكر والسهر فمات وهي تجردية
 الفرس فيمن قتل ابيه وولي بعده احمد بن محمد بن المعتصم المستعين وحجبه
 التركمان ولم تطل مدته ان خلع ثم قتل بعد ذلك وقدم المعتز بن جعفر
 المتوكل واسمه الزبير ثم خلع و قتل وولي بعده المهدي ابن الواثق وهو محمد بن
 هارون الواثق وكان له سمت وهدي قالوا كاد يدرك الكمال لولا انه هو كان
 فيه وفسد ما بينه وبين الممالك والاندراك وال امره الي ان قتل وودع بعده المعتمد
 علي الله ابو العباس احمد بن جعفر بن المتوكل وفي ايامه خرج يعقوب بن
 الليث الخارجي المعروف بالصفار وكان غريب السياسة طابع الجند فـ
 لاجله خطوب وتوفي المعتمد سنة تسع وسبعين ومايتين

(a) لما تولي حازرها المعتضد هو ابو العباس احمد بن طلحة بن المتوكل ابن
 اخيه وكان حازرها مجردا فتح له علي كثير من خالفة وعقد الصهر علي فطر
 الندا ابنة حماروبية بن احمد بن طولون صاحب مصر وجلالة جهانها ومنتاعها لكتاب
 الجبل رسايل شهيرة وجرت بها الامثال ثم لما توفي سنة تسع وثمانين ومايتي
 بمدينة السلام ولي بعده المكتفي بالله ابو محمد علي بن احمد المعتضد وكان
 بخيلا سي السيرة

„ LABBAS EBN AHMAD , ALMOCTADERI
 „ filius , qui litteris erat satis instructus,
 „ Calipha renunciatur. Is quoque Tur-
 „ carum imperio subiectus vivere co-
 „ gitur ad obitum usque, qui *Bagdadi*
 „ contigit anno Egræ 329. Imperator
 „ eligitur *ALMOTAKI LILLAH ABRAHAMUS*,
 „ *ALMOCTADERI* filius, qui ob Turca-
 „ rum militum insolentiam nihil regium
 „ præter Caliphæ nomen habuit : qua-
 „ re ad Principes *Hamdanitas* in Ægy-
 „ ptum se ad tempus recepit. Sed ami-
 „ cè postea ab iisdem Turcis invitatus,
 „ inde revertitur ; mox regno exutus,
 „ oculis privatur. Annos tamen XXIV.
 „ post amissum principatum in obscu-
 „ rissimo carcere vixisse traditur. Ad Ca-
 „ liphatum evehitur *ALMOSTAKPHI BIL-*
 „ *LA ABULCASSEMUS* morum elegantia
 „ præstans , quem *Dilamita* , rerum
 „ *Bagdadi* potiti, in carcerem conje-
 „ ctum, oculis orbarunt ; quique ad
 „ annum usque 338. vixit. (a)

„ Calipha creatur *ALMOTHI ABU-*
 „ *ELCASSEMUS ALPHADHL*, *GIAPHARI AL-*
 „ *MOCTADERI* filius. Is *Dilamita* Princi-
 „ pi, vulgò *EBN BUIA*, penès quem
 „ Imperii summa per id temporis erat,
 „ parere compellitur. Hinc, amicitia bre-
 „ vi dirempta, captus, & admoto canden-
 „ te ferro, oculis orbatus est. Quo fa-
 „ ctum, ut Imperii auctoritas & re-
 „ gimen ad Principes *MOEZ ALDAULA-*
 „ *TUM*, *AHMAD BEN BUIA*, ejusque
 „ fratres *ABU ALI* atque *OMADALDAU-*
 „ *LATUM* translata sint. *ALMOTHI* verò
 „ Caliphatum in gratiam filii *ABDELKA-*
 „ *RIMI ALTHAIE* nuncupati abdicavit:
 „ qui tandem omni spoliatus potestate,
 „ decessit die 12. Schabani, anno Egi-
 „ ræ 381. In ejus locum suffectus *AH-*
 „ *MAD ALMOCTADERI* filius, qui post duos
 „ ferè menses morte obiit repentina:
 „ atque hoc in causa est cur ejus men-
 „ tio ab Historicis prætermittatur. (b)
 „ Caliphatus insignia, (adni-
 „ ten-

(a) وولي بعده اخوه المقتدر بالله جعفر بن احمد وكان حانرا ما حسن التدبير
 وظهر في ايامه القرامطة الخوارج وتغلبوا علي مكة واقتلعوا الحجر الاسود وزهبوا
 به حتي افتري منهم بعد سنين ومات في وقبعة كانت عليه لمونس الخادم لما خالف
 عليه بباب بغداد سنة عشرين وثلاث مائة وبويع القاهرة نجل المعتض هو محمد بن
 احمد وكان مرهوبا شديد البطش يحمل حربة بيده حزرا من الترك المماليك
 المتغلبة الي ان اعملت عليه الحيلة وسملت عيناه وخلع وولي بعده الراضي ابو
 العباس ابن محمد بن المقتدر وكان من اهل التحقق بالمعارف وغلبت الترك عليه
 ومات حتق انفة ببغداد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وقام بالامر بعده المتقي لل
 ابراهيم بن المقتدر وغلب عليه الترك فلم يبق بيده شي من الخلافة فدرج الفرار الي
 بني حمدان ثم استلطفه الترك الي ان عاد وخلعوه وسلموه وعاش بعد الخلع اربعة
 وعشرين سنة في الظلام وولي المستكفي بالله ابو القاسم وكان من اهل الظرف والادب
 وتغلب الديلم علي بغداد فسل وتمادي محبوسا مضيقا عليه الي سنة ثمان وثلاثين
 وثلاثمائة

(b) بويع المطيع ابو القاسم الفضل بن جعفر المقتدر وغلب علي الامر ابن بويع
 الديلمي

„tente Principe *MOEZELDAULATO*) fu-
 „mit *ALCADER BILLA ALHASSANUS BEN*
 „*ABILHASSAN BEN ABI ISAC BEN AL-*
 „*MOCTADER*, liberalitatis ac pietatis lau-
 „de præclarus. Is quum regnasset qua-
 „draginta & ultra annos, diem obiit
 „anno Egiræ 422. successorem desi-
 „gnans filium, nomine *ALCAIEM BEMR-*
 „*ELLA*. Qua tempestate crebris *Tur-*
 „*cas* inter & *Dilamitas* commissis præ-
 „liis, quæ narrare longum esset, Im-
 „peratoria dignitas *Obaiditis*, seu *Pha-*
 „*themitis* ad tempus in Ægypto cessit.
 „Turcæ viribus collectis, *ALMOCTADI*
 „*BEMRELLA*, aliàs *ABULCASSEMUM*, *AL-*
 „*CAIEMI BEMRELLA* filium, Imperato-
 „rem salutarunt. Cui postea successit
 „filius *ABULABBAS*, dictus *ALMOSTHA-*
 „*ZHER BILLA*, ad quem *ALI BEN JO-*
 „*SEPH BEN TASCHPHIN Marochi* Rex
 „celeberrimam misit epistolam. Hic
 „mortuus est anno Egiræ 511. (a)

„Ejus filius *ALMOSTARSCEDUS BIL-*
 „*LA* Calipha, nomine *ABU MANSOR*,
 „renunciatur. Eo imperante, *ALMA-*
 „*HADI ABDELUMEN*, *Almohaditarum*

„Primipilus, Regis nomen in Oc-
 „cidente sibi arrogavit. Mortuo *AL-*
 „*MOSTARSCEDO*, ejus filius *ALRASCEDUS*
 „Calipha constituitur; exinde imperio
 „exutus est. Mox regnum adeptus *AL-*
 „*MOCTAPHI*, *MOHAMAD ALMOSTADERI*
 „filius, qui, extincto *SCHANGERO* gen-
 „te *Turca*, classis Præfecto, pristi-
 „num Caliphatus decus reddidit; ac
 „sui juris tandem factus, rempublicam
 „rectè administravit, ut refert *ABU-*
 „*ELPHARAGIUS ALGIOZI* in *Historia Ba-*
 „*gdadensi*, cui titulus *Magnificentia Ba-*
 „*gdadi*. *ALMOSTANGEDUS* patris *ABUL-*
 „*MODHPHER* locum occupat per an-
 „nos XI. Ejus filius *ABU MOHAMAD*
 „*ALHOSSAIN*, aliàs *ALMOSTADHI*, Cali-
 „pha creatur. Eo regnante, obiit *ALA-*
 „*DHEDUS*, postremus *Obaiditarum*, seu
 „*Phathemitarum* Rex die 10. Mohara-
 „mi, anno Egiræ 567. teste Scriptore
 „*ALOAMADO ALASPAHANI*. Calipha au-
 „tem *ALMOSTADHI* vivere desuit anno
 „Egiræ 575. feriâ 7. die 2. mensis *Dil-*
 „*cadat*. (b)

„*ALNASSERUS* ejus filius ad Im-
 „pe-

الرديلمي وتحصل المطبع في جريدة ثم ساء ما بينهما فتمل عينية وتغلبت الريالمة علي
 الامر معز الدولة احمد بن بودة واخوه ابو علي واخوه عماد الدولة وقرك الامر للمطابع
 عبد الكريم ابن المطبع ثم خلع ثاني عشر شعبان احدي وثمانين وثلثمائة وجعل
 بعده احمد بن المقتدر نحو شهرين وتوفي فجأة فاهمل نكرة

(a) ثم ولي القادر بالله الحسن بن ابي الحسن بن ابي اسحق بن المقتدر
 واستمرت خلافته نيفا واربعين سنة وكان سخيا فاضلا وتوفي سنة ثنتين وعشرين
 واربع مائة وخلعه ولده القايم بامر الله وعظمت الحروب بين الترك والريلم الي هذا
 العهد في اخبار بطول نكرها وصرفت الدعوة الي بني عميد الله الشيعة بمصر
 اياما يسيرة ثم تاب الترك وولي المقتدي بامر الله ابو القاسم بن محمد القايم وولي
 ابنة المستظهر بالله ابو العباس وخاطبه من المغرب علي بن يوسف بن قاشقين في
 رسالة شهيرة وتوفي سنة احدي عشرة وخمسمائة

(b) وولي ابنة المسترشد بالله ابو منصور وعلي عهدة كان ظهور دعوة المهدي امام
 بني

„ perium accessit ; vixitque Imperator
 „ annos quadraginta & septem , uno
 „ minus die. Obiit verò anno Egiræ
 „ 622. feriâ 2. die 23. mensis Sche-
 „ vali. Suffectus in ejus locum filius
 „ *ABU NASSERUS MOHAMAD* , cogno-
 „ mento *DHAHERUS* , qui menses no-
 „ vem tantum regnasse fertur. Succes-
 „ sorem habuit filium *ABU GIAPHARUM*
 „ *ALMANSOREM* , dictum *ALMOSTANSER*.
 „ Is ad Regem *ABU ABDALLA BEN HUD*,
 „ qui per id tempus in Hispania in ejus
 „ verba juraverat , Regiæ vestis orna-
 „ mentum , Diploma , & alia pretio-
 „ sissima *Iracæ* munera misisse traditur.
 „ *ALMOSTANSER* moritur anno Egiræ
 „ 640. feriâ 6. die 10. Gemadi poste-
 „ rioris. Patri in regnum successit fi-
 „ lius *ABU AHMAD ABDALLA* , alio no-

„ mine *ALMOSTASEMUS BILLA* , qui
 „ quum annos XV. menses IX. dies
 „ que XX. imperasset , à *Tartaris* in-
 „ terfectus est anno Egiræ 656. feriâ
 „ 7. die 29. Rabii posterioris. Ex quo
 „ tempore *Tartarorum* Rex (*HOLAGU*)
 „ everfo *Abbasidarum* imperio , rerum
 „ *Bagdadi* potitus est. Sit Deo laus , cu-
 „ jus imperium æternum , honor peren-
 „ nis , beneficia nunquam defutura. (a)

„ *AGLABITARUM*

„ *Africa Regum*

„ SERIES.

„ Illorum Princeps *ABRAHAMUS* ,
 „ *ALAGLABI* filius , *SALEMI* nepos , quem
 „ genus , doctrina , eloquentia , mo-
 „ rumque probitas maximè commen-
 „ da-

جني عبد المومن بالمغرب ودويح بعده الراشد ابن المسترشد ثم خلع وولي المقتفي
 محمد بن المستظهر وقارب الاستبداد وقد مات التركي امير الجيوش شنجر وظهر
 العدل حكي ذلك ابو الفرج الجوزي في مناقب بغداد وتولي بعده المستنجد ابو
 المطهر ابن المقتفي احدي عشرة سنة ثم ولي ابنه المستضي ابو محمد الحسين بن
 المستنجد وعلي عهد كانت وفاة العاضد اخر ملوك العبيديين في عاشورا سنة
 سبع وستين وخمسماية ذكره عماد الاصبهاني وتوفي المستضي يوم السبت غرة ذي
 قعدة سنة خمس وسبعين وخمسماية

(a) وولي بعده الناصر ولده وطالت ايامه فبلغت سبع واربعين سنة غير يوم واحد
 وتوفي يوم الاثنين منسلخ شوال سنة ثنتين وعشرين وستماية ثم تولى الامر ولده
 الطاهر ابو نصر محمد تسعة اشهر وتولي الامر المستنصر ابنه وهو ابو جعفر واسمه
 المنصور وهو الذي دعاه بالاندلس الامير ابو عبد الله ابن هود ووصلت اليه الخلع
 والراية وغير ذلك من طرايق العراق وكانت وفاة يوم الجمعة عاشر جمادي الاخرى
 سنة اربعين وستماية وملك بعده المستعصم بالله ابو احمد عبد الله بن المستنصر
 فكانت ايامه خمس عشرة سنة وتسعة اشهر وعشرين يوما وتوفي شهيدا في الوقعة
 التي اوقعها به التطر يوم السبت منسلخ ربيع الاخر سنة ست وخمسين وستماية
 وانقضت الدولة العباسية من بغداد لهذا العهد وسكنها ملك النطر فسبحان من
 لايبين سلطانه ولاينقضي شاناه

„ darunt. Hic , *HARUNO* Imperatore,
 „ Prætor Provinciam obtinuit Africam.
 „ Ibi ea dignitate non contentus , sic
 „ principatum ambiit , ut , *EDRISO BEN*
 „ *ADDALLA* arte decepto , quemadmo-
 „ dum fufius suo loco narratum est,
 „ Regis insignia assumere fit ausus.
 „ Post ejus obitum regnum occupat
 „ filius *ABRAHAMUS ABU ABDALLA* , qui
 „ per insolentiam principatu abusus esse
 „ traditur. Quare eum viri pii , ad me-
 „ liorem frugem revocare frustra cona-
 „ ti , omnino tandem relinquendum
 „ fuifque libidinibus permittendum cen-
 „ suere. Peste tandem tentatus , quin-
 „ to post die deformiter interiit : ita ut
 „ corpus , nativo colore immutato , per-
 „ nigrum , visuque horrendum evase-
 „ rit. Rerum potitus est ejus frater *ZA-*
 „ *IADAT ALLA* , Rex verè inclytus , qui
 „ postquam sacramentum Caliphæ *AL-*
 „ *MAMUNO* , inde *ABRAHAMO BEN AL-*
 „ *MAHDI BEN SCHAKLAT* dixisset (vide-

„ *sis Historiam Saracenicam* , pag. 133.)
 „ diem obiit anno Egiræ 223. feriâ 3.
 „ die 14. mensis Ragebi. (a)
 „ Suffectus in illius locum fra-
 „ ter *ABULACAL* , moribus , rebusque
 „ præclare gestis fratri supra memorato
 „ non abfimilis. Eo mortuo , electus
 „ ejus filius *ABULABBAS BEN MOHAMAD*
 „ *BEN ALAGLAB* , vir omnium rudis. Huic
 „ successit ex fratre nepos *AHMAD BEN*
 „ *ABILABBAS* , bene moratus , animo ge-
 „ nerofus , æquus ac mitis. Inter ejus
 „ monumenta insigne vifitur Suburba-
 „ num , quod ad *Tuneti* portam cum
 „ Templo extruxit. Fato functus est
 „ anno Egiræ 249. Regnum occupat
 „ ejus frater *ABU MOHAMAD ZIADAT*
 „ *ALLA BEN MOHAMAD BEN ALAGLAB* ,
 „ vir sapiens & probatæ vitæ , qui sex
 „ menses regnavit. (b)
 „ Imperium inde ad illius nepo-
 „ tem *MOHAMAD BEN AHMAD BEN MO-*
 „ *HAMAD* delatum est , qui *ABILGORANIC*

ذکر بنو الاغلب ملوک العرب

(a) ابرهیم هو ابن الاغلب بن سالم كان ريسا شريفا عالما فصيحاً حسن السيرة
 قلده هارون امر المغرب فلم يدرع بصقعة ريسا فاحتال علي ادريس بن عبد الله في
 خبر طوبل حتي ملك ثم هلك وولي بعده ابراهيم ابو العباس وذكروا انه احدث
 جوراً وانتدب قوما من الصالحين الي وعظه وقريره فلم يقبل منهم فمات لخمسة ايام
 مطعوناً بعد ان صار كانه عبد اسود لتغير جماله وولي بعده اخوه نريادة الله وكان
 ملكاً جليلاً ودعي في امارته لمامون وابرهيم بن المهدي بن شكلة ثم توفي يوم
 الثلاثاء لاربع عشر ليلة خلت من رجب سنة ثلاث وعشرين ومائتين

(b) وولي الامر بعده اخوه ابو العقال وكان مثله في الفضل وغير حوادث كثيرة
 وتوفي وولي بعده ابنه ابو العباس بن محمد بن الاغلب وكان جاهلاً وتوفي وولي
 بعده ابن اخيه احمد بن ابي العباس وكان حسن الاخلاق ربيعاً مجنباً للمظالم
 بني الماجل الكبير بباب تونس والمسجد بها وتوفي سنة تسع واربعين ومائتين
 وولي بعده اخوه ابو محمد نريادة الله بن محمد بن الاغلب وكان عاقلاً حسن
 السيرة وكانت ولادته ستين اشهر

„ à *gruibus*, quarum venatu valde dele-
 „ ctabatur, postea nomen invenit. Infi-
 „ gnis fuit liberalitatis Princeps: adeo ut
 „ ejus munificentia in ore omnium ver-
 „ faretur, atque in Arabicum etiam pro-
 „ verbum cesserit. Mortuus autem est
 „ anno Egiræ 261. Regni gubernacu-
 „ la suscepit frater *ABU ISAC ABRAHA-*
 „ *MUS BEN AHMAD*, sanguinis & cæ-
 „ dis avidissimus. Nam etsi ille sub ini-
 „ tium regni benignæ indolis Princeps
 „ apparuit; commota tamen repentè
 „ bile, longè alius à se ipso factus, in
 „ omnium capita sævire cœpit. Hinc
 „ furore inflammatus & audaciâ, eò
 „ insolentiæ & crudelitatis processit,
 „ ut non solùm amicos, familiares, &
 „ aulæ principes necaverit; sed etiam
 „ filias octoque fratres, quos habebat,
 „ sua ipsemet manu trucidaverit. Cu-
 „ jusmodi alia de ipso horrenda imma-
 „ nitatis monstra referuntur. Deus illum
 „ ubicunque est gentium, perdat. Pe-
 „ riit tandem die 18. Dilcadat, anno
 „ Egiræ 289. non sine anteactæ vitæ
 „ pœnitentiâ. (a)

Tom. II.

„ In patris locum suffectus filius
 „ *ABULLABAS ABDALLA*, imperante Ca-
 „ liphâ *ALMOTASEMO*, qui rebus Impe-
 „ riî tot malis obruti compositis, pie-
 „ tati ac vitæ austeræ totum se tradi-
 „ dit; donec operâ filii *ZAIADAT ALLA*
 „ nuncupati in carcere interfectus est.
 „ Hinc *ZAIADAT ALLA* rerum potitus,
 „ in paternæ cædis reos pœnâ capitis
 „ animadvertit. Eo regnante, *Agla-*
 „ *bitarum* Principatus in occasum in-
 „ clinare cœpit. Nam fugatis in Afri-
 „ cam *Beni Obaiditis*, qui & *Schaia*
 „ dicti, Regno ille pulsus, in Orien-
 „ tem se recepit: Quæ res fusiùs apud
 „ Scriptores narratur. (b)

„ *O B A I D I T A R U M*,

„ seu

„ *P H A T H E M I T A R U M*

„ *Qui in Africa & Ægypto*

„ *regnaverunt,*

„ SERIES.

„ Prodiit in Africa ex gente,
 „ *Kotama* dicta, quæ montes habi-
 „ Bb tat,

(a) وولي بعده ابن اخيه محمد بن أحمد بن محمد ويلقب بابي العرائيق لشغفه
 بصيدها وكان غاية في الجود وإيامة يضرب بها المثل في اليمن وتوفي سنة احدي
 وستين ومايتين وولي الامر بعده اخوه ابو اسحق اجرهيم بن أحمد وكان في ابتداء
 امره حسن السيرة ثم استحال وقلب عليه خلط سوداوي فتغير واسرف في القتل
 اصحابه وكفاته وحجابه ثم قتل ثمانية اخوة له صبوا بين يديه وقتل بناته ودهكي
 من قسوته عجائب اهان الله مضجعه فمات لاثنتي عشرة بقية من ذي القعدة سنة
 تسع وثمانين ومايتين وقد اظهر النسك

(b) وولي بعده ابنه ابو العباس عبد الله علي عهد المعتصم فرد المظالم وتنسك وليس
 الصوف الي ان قتل بتدبير ابنه نريادة الله وكان في سجنه وبادر بقتل من شارك
 في دمه واظهر التبردي منه وفي ايام نريادة الله هذا ظهر امر بني عبيد ولقبتم جيوشه
 جيوش الشيعة فلم تقم له قايمت ففر الي المشرق وتترك البلاد وفي فراره الي
 المشرق اخبار طويلة

„tat, vir factiosus, nomine *ABU ABD-*
 „*ALLA ALHOSSAIN BEN AHMAD BEN*
 „*MOHAMAD BEN ZACHARIA*, animi for-
 „titudine & audacia instructus, qui
 „per publicæ pacis salutisque speciem,
 „ut famâ apud Arabas *Hagiazitas* per-
 „vulgatum est, arte ac dolo quoddam
 „hominum genus sibi adjunxit, quo-
 „rum deinde signifer factus, bonam
 „Africae partem subegit. Hic ille om-
 „nium primus, ac veluti antecursor,
 „Pontificiæ dignitatis fundamenta jecit:
 „quam postea *OBAIDALLA* Socio ceden-
 „dam existimavit. Is quum res sibi
 „prosperè accidissent, *ABU ABDALLAM*
 „Pontificem interfecit; Imperioque
 „usurpato, rempublicam non sine arte
 „ac prudentiâ moderatus est; denique
 „conditâ suo nomine urbe *Mahadiâ*,
 „obiit in oppido *Racada* anno Egræ
 „322. Cæterum ad illius originem
 „quod attinet, non una Scriptorum
 „est sententia. Qui genus ab *ALI* Im-
 „peratore ducere arbitrantur, ejus Ge-
 „nealogiam sic pertexunt: *OBAIDALLA*
 „*BEN MOHAMAD BEN ALHOSSAIN BEN*
 „*MOHAMAD BEN ISMAEL BEN GIAPHAR*
 „*BEN MOHAMAD BEN ALI BEN ALHOS-*

„*SAIN BEN ALI BEN ABI THALEB.* (a)
 „*ABULCASSEM* ergo filius, *AL-*
 „*CAIEM* nuncupatus, qui patris mor-
 „tem per solidum annum celaverat,
 „rerum potitus est. Is magnus in pri-
 „mis fuit Rex, curru vehi solitus. In-
 „structâ classe, *Genuam* expugnavit;
 „insignemque de *Genuensibus* victoriam
 „reportavit. (Videsis Historiam *WOL-*
 „*FANGI DRECHSLERI* pag. 265.) *Afri-*
 „*câ* ferè totâ *GIAUHARI* ductu subactâ,
 „victor ad oceanum usque pervenit.
 „Illius tamen vires non nihil frangere
 „conatus est infensissimus hostis *ABU*
 „*IAZID MAKHLAD BEN KAIDAD*, quem
 „*Afinarium Equitem* appellabant, quòd
 „*Afino* perpetuò infideret. Resque eò
 „devenit, ut parum abfuisse videretur
 „quin ipse Regnum *Obaiditis* eripe-
 „ret. De eo magna quidem & mira-
 „bilis narratur. *ABULCASSEMUS*, bello
 „inchoato, naturæ concessit die 13.
 „*Scheuali*, anno Egræ 334. Cujus in
 „locum suffectus filius *ABU THAHERUS*
 „*ISMAEL ALMANSOR*, ingens parat bel-
 „lum adversus hostem: quem multi-
 „plici prælio superatum tandem inter-
 „fecit. (b)

„Mor-

دولة ملوك الشيعة من العبيديين جافريقية ومصر

(a) ظهر الشيعي في كتامة هو الرجل الداعي لامام الشيعة في المغرب ابو عبد الله الحسين بن احمد بن محمد بن نكريا وكتامة قوم من سكان الجبال بالمغرب اولوا باس صحة وسلامة تعرف بهم في الحجاز وصحبهم وراس فيهم وغيرهم بمذهبه ورايه فاتبعوه حتي مهد لامامة ملك المغرب وصير الدعوة الي عبيد الله بن محمد اختلف الناس في نسبة الي علي فالزي اثبتة قال هو عبيد الله بن محمد بن الحسين بن محمد بن اسمعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وكان من رجال الكمال ولما استقامت له الامور قتل الشيعي ابا عبد الله وهو الزبي بني مدينة المهديّة وتوفي برقادة سنة اثنتين وعشرين وثلاثماية

(b) وكتام ابنه موقه سنة كاملة هو القايم ابو القاسم وكان ملكا كبيرا يركب بالمظلة وغزا جنوة بالاسطول وكان الفتح عليه جليليا وغزا فتاه جوه المغرب

„ Mortuo *ALMANSORE*, succedit
 „ ejus filius *ALMOEZ ABU TAMIM*, qui
 „ omnes *Phathemitarum* Reges fortitudi-
 „ ne, opibus ac rerum gestarum gloriâ
 „ longè superavit; cujus item laudes ma-
 „ ximè celebrasse fertur egregius Poëta
 „ Hispanus *ABULCASSEMUS BEN HANI*.
 „ Eo Rege, *GIAUHARÆUS* militiæ Dux
 „ ingenti copiarum numero, maximo
 „ instrumenti bellici apparatu, mille in-
 „ super Camelis opibus onustis ad *Afri-*
 „ *cam* expugnandam mittitur. Quam ubi
 „ armis subegit, *Ægyptum* adoriri sta-
 „ tuit; eâque in potestatem redactâ,
 „ anno Egiræ labente 358. novæ ur-
 „ bis fundamenta jecit, quam auspica-
 „ tiori nomine *Alcabera* (id est *Vi-*
 „ *atricem*) appellavit. *GIAUHARÆUS*, Re-
 „ gi læto nuncio delato, *Ægyptioque*
 Tom. II.

„ Regno in tuto posito, *Syriam* per-
 „ domuit. Quare *ALMOEZUS*, quum ex
 „ Africa in Orientem migrare constitui-
 „ set, anno Egiræ 361. iter parat; ibi-
 „ que Præfecto *ABA ALPHETUH JOSEPHO*
 „ *BEN ZIRI BEN MANAD*, *Sanhagita-*
 „ *rum* Duce, relicto, qui postea Im-
 „ perium sibi vindicavit, anno 362.
 „ die 5. *Ramdani Cairum*, seu *Alca-*
 „ *beram* pervenit. Ferunt *ALMOEZUM*,
 „ quum iter ageret, jamque proximè
 „ ad urbem *Sabram* accederet, palatia
 „ contemplatum, dixisse: *Valete, Va-*
 „ *leatque qui vos nunquam est visurus.*
 „ Quum autem supremus *ALMOEZI* dies
 „ advenisset, mors, quæ delicias de-
 „ let spesque præcidit, è vivis eum
 „ eripuit anno Egiræ 365. die 11. *Ra-*
 „ *bii* posterioris, idque in urbe *Cairo*. (a)
 Bb 2 „ Päu-

المغرب ووصل البحر المحيط ثم بلاه الله بالنكار ابو يزيد مغلد بن كيداد
 وكان يركب العمار وله اخبار غريبة شفتي به العبيديون وكاد الامر يدول اليه
 توفي ابو القاسم في عنفوان الفتنة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة اربع وثلاثين
 وثلثمائة فولي الامر ابنه ابو الطاهر اسمعيل المنصور وشمر لجهاد النكار حتي
 قتله بعد وقايح كثيرة

(a) فولي الامراة المعز ابو تميم وهو اعظم هولاء الملوك قدرا وابعدهم صيتا ومدحة
 ابو القاسم ابن هاني بما هو مشهور في قصايد الغالية اغزي بلاد المغرب فناء جوهر
 ثم ديار مصر سنة ثمان وخمسين وثلثمائة بجميع العساكر وكان من جملة
 حملته الف جمل من المال وما لا يوصف من العدة وفي اخريات السنة المذكورة
 ورد البشير بفتح مصر ثم رمي اساس القاهرة في طالع مفترن بالنصر ولما اتشقق
 ملكه بمصر غزا الشام ففتحها وانتقل المعز من افريقية الي المشرق في سنة
 احدي وستين وثلثمائة قالوا ولما اجتاز مشرقا علي صبرة نظر الي قصوره بها وقال
 سلام عليك سلام من لا يراك اجرا وفي الخامس من رمضان سنة اثنتين عبر الي
 القاهرة لما عمل المعز الرحلة الي المشرق واستخلف ابا الفتوح يوسف بن يزيد بن
 مناد الصنهاجي امير صنهاجة وفوض الامور اليه فتوارثها عقبه ولما كمل امر المعز
 اتاه الموت هادم اللذات وقاطع الامال فمات بالقاهرة المعزبة حادي عشر ربيع الاخر
 سنة خمس وستين وثلثمائة

„ Paulò post electus est ejus filius
 „ *NAZAR ABU MANSOR*, aliàs *ALAZIZ-*
 „ *BILLA* nuncupatus : quo Rege tem-
 „ pora nemo unquam vel lætiora, vel
 „ tutiora vidit, aut expertus est. Is fu-
 „ sceptâ expeditione, in urbe *Belbis* in-
 „ teriit anno *Egiraë* 386. Regnum au-
 „ spicatus est ejus filius *ABU ALI MAN-*
 „ *SOR*, alio nomine *ALHAKEMUS*, Prin-
 „ ceptus rebus administrandis impar, ma-
 „ ximè turbulentus, & Tyrannus cru-
 „ delissimus; quippe qui Regni admi-
 „ nistros, aulæ Proceres, cæterosque do-
 „ mesticos per summam impietatem
 „ trucidavit; ac populum sine lege op-
 „ pressit. Accidit intereà ut *ALHAKEM-*
 „ *MUS* anno *Egiraë* 411. feriâ 1. (Le-
 „ ge 6.) die 3. mensis *Dilcadat*, fami-
 „ liaribus aliquot comitantibus, egres-
 „ sus, in Montem (*Almocatham*) seces-
 „ serit, suis hoc prælocutus: *Hic me*
 „ *manete*. At illi longioris moræ impa-
 „ tientes, postquàm eum sollicitè quæ-
 „ sierant, montis demum ascenso cacu-
 „ mine, Asinum solummodò quo in-
 „ federat, strato & fræno instructum,
 „ pedibus tamen anterioribus gladio

„ præcis, invenerunt. Hinc fama est,
 „ quosdam *ALHAKEMUM* ex infidiis in
 „ monte collocatis interfecisse, interfe-
 „ ctumque in Nilum projecisse. (a)
 „ Ad folium evertedus ejus filius
 „ *ABULHASSAIN ALI BEN MANSOR ABA*
 „ *ALASCHBAL*, aliàs *ALDHAHER* dictus,
 „ Princeps justitia & integritate populis
 „ summè carus, qui anno *Egiraë* 427.
 „ vitæ finem implevit. Rerum potitur
 „ *ALMOSTANSER BILLA*, *ABU TAMIM*
 „ ejus filius. Is sexaginta ferè annos re-
 „ gnavit: cujus ætatis spatium ex *Pha-*
 „ *themitis* æquavit nemo. Regnum oc-
 „ cupat *ALMOSTALI*, *ALMOSTANSERI* fi-
 „ lius. Quo mortuo, successit filius
 „ *MANSOR*, *ALMOSTANSERI* nepos, alio
 „ nomine *HASSAN*: quem, animi
 „ gratiâ in Regio viridario deambulan-
 „ tem, agrestes quidam ex gente *Ha-*
 „ *schischia* à latere adorti, trucidavere.
 „ Post hunc Regis insignia induit *ALHA-*
 „ *PHEDUS ABDELMAGIDUS*, eadem stir-
 „ pe Regia fatus, non tamen hæres le-
 „ gitimus. Exinde regnat *ALDHAPHERUS*,
 „ filius *JOSEPH BEN ABDELMAGID AL-*
 „ *PHATEZ*. (b)

„ Tan-

(a) وولي بعده ولده نزار العزير بالله ابو منصور ولم يرا الناس اياما مثل ايامه
 فرحا وامنا ثم توفي ببليبيس غانريا سنة ست وثمانين وثلثمائة وولي ولده ابو علي
 منصور بن العزير ولقبه الحكم واستقل بالامر وكان مضطرب التديبير سفاكا
 للدماء قتل الجملة من قضائه ووزراية وعماله ذبحا وضاق الناس به وفي يوم الاحد
 ثالث ذي قعدة خرج في طابفة من خاصته وامعن في الجبل وامرهم بانتظاره ولما طال
 الامر طلبوه فوجدوا الحمار الذي كان عليه بقنة الجبل وقد ضربت يراه بالسيوف
 وعليه سرجه ولجامه فقبيل ان قوما كمنوا له في الجبل فقتلوه والقوه في النيل

(b) ثم ابنه من بعد ملك هو ابو الحسين علي بن منصور الطاهر يدعي ابا الاشبال
 وكان خيرا توفي سنة سبع وعشرين واربعماية وولي الامر ابنه المستنصر بالله ابو
 قديم ولم يكن في بني عبيد اطول عمرا منه ان ملك نحو من ستين سنة ثم تولى
 الامر المستعلي ومنصور بن المستنصر ولده حسان فتك به في طريق نزهته طابفة من
 الحشيشية

„ Tandem Imperium delatum est
 „ ad *ABDALLAM BEN JOSEPH ALDHA-*
 „ *HER*, cognomento *ALADHED*, egregium
 „ adolescentem. Eo regnante, Vizirus,
 „ (nomine *SCHAVAR*), ut Imperium
 „ Ægyptiacum sibi vindicaret, *Algoz*,
 „ id est *Turcas*, eorumque Ducem *ASAD-*
 „ *ELDINUM* arcessivit: qui primùm re-
 „ nuit; inde occasionem nactus, rerum
 „ summâ potitus est. Hujus nepos *SA-*
 „ *LAHEDINUS JOSEPH BEN AIUB*, *Bag-*
 „ *dadenfis* exercitûs Imperialis Dux,
 „ ad supremam Viziri dignitatem post-
 „ eà evehctus, *ALADHEDUM* Regem à
 „ publico conspectu prohibuit. Qui an-
 „ no Egræ 564. (secundùm *ABULPHA-*
 „ *RAGIUM* 567.) naturæ concessit. Re-
 „ gium funus *SALAHEDDINUS* pedes, ve-
 „ steque abscisâ comitatur. *Obeiditis*,
 „ seu *Phathemitis* extinctis, *Abbasidi-*
 „ *tarum* Caliphatus in Ægypto iterum
 „ obtinuit. (a)

„ *OMMIADITARUM*,
 „ *Qui in Hispaniâ regnarunt*,
 „ SERIES,
 „ *Resque memorabiles.*

„ Everfo *Ommiaditarum* in Orien-
 „ te Imperio, qui mortis periculum
 „ evaserant, in Africam se receperunt;
 „ in his *ABDELRAHMANUS BEN MOA-*
 „ *VIA BEN HESCHAM*, *Ommiadita*, *SA-*
 „ *PHAR* dictus, matre nomine *RAHA*,
 „ ex Barbarorum gente procreatus. Is
 „ Regno pulsus, cum suis ad *Barcen-*
 „ *ses* profugit. Missis deinde ad amicos,
 „ qui ejus partes in Hispania fovebant,
 „ litteris, ex *Barca* in Hispaniam tra-
 „ jecit; ibique collectis suæ gentis vi-
 „ ribus, Hispaniam universam armis
 „ subegit; ac florentissimum sibi suis-
 „ que Regnum est adeptus. Obiit an-
 „ no Egræ 172. die 24. Rabii poste-
 „ rioris, Christi 788. (b)

NO-

الحشيشية وثبوا عليه من قرن بطريقه وقتلوه وولي بعده الحافظ وهو عبد المجيد من
 بيت الخلافة وليس بادن خليفة وبعده الطاهر ولده يوسف بن عبد المجيد ثم الفايض
 (a) ثم قام بالامر العاضد وهو عبد الله بن يوسف الطاهر وكان فتى نبيلاً ثم استدعي
 له وزيره الغز وأميرهم أسد الدين ليستظهر بهم فنافسوا الوزير وتغلبوا علي الدولة
 وصلاح الدين يوسف بن أيوب ابن أخي أسد الدين أمير الغز الوزير قعد بعد عمه
 مقعد الوزارة وحجب العاضد وكان موالياً للخلافة العباسيين ببغداد ثم توفى
 العاضد حتى انقضى فمشي صلاح الدين في جنازته راجلاً مشقوق القبا في آخر سنة
 أربع وستين وخمسماية ونسخ من بعده دعوة بني عبيد وأحكم الدعوة لبني
 العباس

ذكر دولة بني أمية بالاندلس وأخبارهم

(b) ولما كان انقراض دولة بني أمية بالمشرق انتقل من أفلت منهم الي المغرب
 ومنهم عبد الرحمن بن معاوية بن هشام وهو صفر بني أمية وكانت أمه بدرية
 اسمها راح فلما فر لحق بأخواله من جرقة وكتب الي من بالاندلس من صنایعهم
 ثم لحق بهم وملك الاندلس فأقام بها ملكاً كبيراً له ولعقبه وذوفاي لخمس بقين
 من ربيع الآخر سنة اثنين وسبعين ومائة

NOTÆ.

ABDELRAHMANUS Damasci natus est anno Egiræ 113. Hispaniam ingressus anno 138. mense Dilcadat; eodemque anno die 10. mensis Dilhagiat, fufis Prætorè *JOSEPHO ALPHAHRI*, ejusque Collega *SAMIELES*, *Cordubam* occupat. Mortuus est anno 172. Hæc in Codice nostro *ALHOMAIDUS Supplementi* Scriptor. *EBN ALABARUS* autem in *Hispana Chronologia* refert *ABDELRAHMANUM* in Hispaniam advenisse die 10. Rabii prioris, anno 138. & die 9. mensis Dilhagiat ejusdem anni, feriâ 5. *JOSEPHUM ALPHAHRI* debellasse; atatisque suæ anno XXVIII. Regem salutarum; litteris rebusque præclare gestis inclaruisse: cujus non pauca refert ibidem carmina. Addit prætereà eum obiisse anno 171. in urbe *Emeritâ* die 22. Rabii posterioris, feriâ 3. Huic astipulatur *RODERICUS TOLETANUS* in *Historiâ Arabum*, pag. 18. qui *Abderramen Abenmeia* eum appellat, atque anno Arabum 171. decessisse tradit. Perperam ergo *HERBELOTIUS* hujus Antiltitis de Regis illius obitûs anno sententiam, utpote cum cæterorum Chronographorum Arabum calculis minùs concinentem, reprehendit. Non enim omnes Arabici Scriptores *ABDELRAHMANI* mortem ad annum Egiræ 172. referunt: in his eruditissimus *EBN ALABARUS*, cujus auctoritas & fides in re Chronologicâ maximi apud Arabas est ponderis.

Ex *Notis marginalibus* nostri hujus Codicis *ABDELRAHMANUM* apparet regnasse 33. annos, menses 2. dies 4.

„ Huic in regnum successit ejus „ filius *HESCHAMUS*, hujus nominis „ primus, qui plura bella gessit; nec „ pauciores urbes in suam potestatem „ redegit. Fato functus est post regnum „ non diuturnum mense Sapharo, anno „ Egiræ 180. Christi 796. Rex fuit „ austerus & pietate præclarus. (a)

NOTÆ.

HESCHAMUS, quum regnum auspiciatus est, annos natus erat triginta; septemque & ampliùs imperavit. Ita ex *Supplemento ALHOMAIDI*.

HESCHAMUS, ait *EBN ALABARUS*, *Corduba* ortus est die 4. Scheuali anno Egiræ 139. Eo Rege, *Gerunda* atque *Narbo* captæ sunt.

Ex *Notis marginalibus*, regnavit annos septem, menses novem, dies octo; ex *RODERICO TOLETANO*, qui eum *ISEN* vocat, annos septem, menses septem, dies septem.

„ Regni gubernacula suscepit ejus „ filius *ALHAKEMUS*, hujus nominis „ primus, cognomento *ALRADHA*: à „ quo *Cordubenses*, qui suburbia meridionalia inhabitabant, desciscentes, „ arma capere ausi. Quamobrem bello „ indicto, partim eos fugavit, partim interfecit; atque victoriâ insolens, ferro „ populum triduo cædi jussit. Hujus „ mors incidit in diem XXV. Dilhagiat „ anni 206. Christi 821. (b)

NO-

(a) وولي بعده ابنه هشام وكان ملكا جليلا صالحا متقشفا وغزا وفتح الكثير ولم تطل ايامه فهلك في صفر سنة ثمانين ومائة

(b) ولي بعد ابنه الحكم الملقب بالرضا وثار عليه اهل الرض القبلي من قرطبة لامور انكروها وكاثروه وكادوا ياتون عليه فاظفروه الله بهم ووضع السيوف فيهم ثلاثة ايام وثوفي لاربع بقين من ذي الحجة سنة ست ومائتين

NOTÆ.

ALHAKEMUS, quum regnare cœpit, annum XXII. agebat. Ex *Supplemento ALHOMAIDI*.

Ad solium evectus anno Egiræ 180. feriâ 6. die 16. mensis Saphari. Fortitudine, eruditione atque Poëtica Arte inclaruit. Suburbia *Corduba* solo æquavit; Incolas cæde, bonorum direptione, exilio omninò vexavit; idque anno 202. die 13. Ramdani, feriâ 4. Obiit anno 206. feriâ 5. die 25. mensis Dilhagiat. Ita *EBN ALABARUS*, qui varia illius carmina adducit, eaque summis extollit laudibus.

RODERICUS TOLETANUS ALHACAM vocat, illiusque Historiam ad mentem laudati *BEN ALABARI* describit.

Ex *Notis marginalibus*, regnavit annos 25. menses XI.

„ *ABDELRAHMANUS*, hujus nominis secundus, cui *ALHAKEMUS* pater, dum in vivis ageret, regiminis curam demandavit, omnium primus Hispanum Principatum, Regis nomine sibi assumpto, nobilitavit; ac plures aulae administratos accivit. Vitæ finem implevit mense Rabio posteriori, anno Egiræ 238. Christi 852. (a)

NOTÆ.

ABDELRAHMANUS, quum ad regnum accessit, annos erat triginta natus. Diem obiit sub finem mensis Saphari, anno Egiræ 238. Ex *Supplemento ALHOMAIDI*.

Eodem die, quo obiit *ALHAKEMUS*,

Rex salutatus fuit. Imperavit annos XXXI. menses III. dies VI. Poëta extitit disertus atque Orator clarissimus. *Hispania Annales* condidit, ut & Poëmata varia, quorum specimen occurrit in nostro Codice. *Ædificiis* publicis urbem *Cordubam* exornavit; eamque, aquâ plumbeis fistulis deductâ, mirificè locupletavit. Extructis præterea ubique præfidiis, Regnum communivit; & ingentem classem ad Portuum defensionem paravit. *EBN ALABARUS*.

„ Ejus filius, nomine *MOHAMAD* in regnum succedit: Rex sanè eximius, moribus, rerumque gestarum gloriâ Imperatori *ABDELMALEKO*, *MARUANI* filio, haud dissimilis; Calligraphiâ, Arithmeticâ & Poëtica facultate nobilis. Mortuus est mense Rabio priori anno Egiræ 273. Christi 886. (b)

NOTÆ.

MOHAMAD, qui *ABU ABDALLA* nuncupatus est, obiit inclinante jam mense Sapharo, anno Egiriano 273. Ex *Supplemento ALHOMAIDI*.

MOHAMAD, *ABDELRAHMANI* filius, Rex renuntiatur anno 238. die 6. Rabii prioris, feriâ 5. in quam ejusdem patris mors incidisse traditur, annos XXX. natus: nulli Principum humanitate, justitia, fortitudine & amore in litteras secundus, quod testantur plura ejus carmina. Decessit anno Egiræ 273. feriâ 5. die 29. Saphari, anno ætatis LXV. regnavit verò annos XXXIV. menses XI. Ex *EBN ALABARO*.

„ *AL-*

(a) ولي الامر بعده عبد الرحمن ابنه وهو اول من فخم الملك بالاندلس ونوه الالفاب واستكثر الوزرا ثم توفي في ربيع الاخر سنة ثمان وثلاثين ومائتين

(b) وولي بعده ولده محمد وكان ملكا كبيرا يشبه بعدد الملك بن مروان وكان اية في تحقيق الحساب واخذنا بخط من الشعر والكتابة توفي في ربيع الاول من سنة ثلاث وسبعين ومائتين

„ *ALMONDERUS* ejus filius rerum
 „ summâ potitur, Rex fortis in primis
 „ & magnanimus, qui Ducem *EBN*
 „ *HAPHSUM* dum obsideret, moritur. (a)

NOTA.

ALMONDERUS, aliàs *ABA ALHAKEM*
 nuncupatus, natus est anno Egiræ 227.
 imperavitque annum unum, menses
 undecim, dies viginti quinque. Ita Ex
Supplemento ALHOMAIDI, cui consentit
EBN ALABARUS. Quare lapsus videtur
HERBELOTIUS, qui in *Bibliotheca Orienta-*
tali pag. 621. illum regnasse viginti
 & duos ferè annos tradit.

„ *ALMONDERO* frater *ABDALLA*,
 „ *MOHAMEDI* filius, *ABDELRAHMANI* ne-
 „ pos successit, Princeps virtutibus, ma-
 „ ximè temperantiâ insignis. Eo Rege,
 „ Hispania universa, si *Cordubam* ex-
 „ cipias, ab ejus fide defecit. Ad hæc
 „ *KALEBUS BEN HAPHSUM* bellis eum &
 „ incursionibus gravius in dies vexabat.
 „ Inter hæc *ABDALLA* divina ope nixus,
 „ conscripto exercitu, Hispanos con-
 „ juratos armis subegit. Laudatus porrò
 „ *BEN HAPHSUM*, dictus *OMAR*, gente
 „ Christianus, humili loco natus, vir
 „ fortitudine & animi audacia celebra-
 „ tissimus, homines perditissimos sibi
 „ focios adjunxit; inde occupata urbe
 „ *Huescar*, accitisque ad se gentibus,
 „ sibi suisque principatum quemdam
 „ adeptus est, quem ad annos LXX.
 „ & ultra protractum ferunt. (b)

NOTÆ.

ABDALLA natus est anno Egiræ
 228. obiit verò ineunte mense Rabio
 priori, anno 300. Ex *Supplemento ALHO-*
MAIDI.

In locum fratris *ALMONDERI* suf-
 fectus est mense Saphari, anno Egiræ
 275. Decessit anno 300. duos & se-
 ptuaginta annos natus, regnavitque an-
 nos XXV. Poëta fuit egregius, &
 multiplex eruditione ornatus. Sic *EBN*
ALABARUS, qui ejusdem carmina aliquot
 refert. *RODERICUS TOLETANUS* cum Scri-
 ptore *EBN ALABARO* in re Chronologi-
 ca mirum in modum consentit; qui
 suo tamen more *EBN HAPHSUM* appellat
HABENHAZON.

„ Mortuo *ABDALLA*, regni gu-
 „ bernaculis admotus est ejus nepos
 „ *ABDELRAHMANUS*, hujus nominis ter-
 „ tius, *BEN MOHAMAD BEN ABDALLA*,
 „ *ALNASSER LEDINALLA*, postea *Fidelium*
 „ *Imperator* nuncupatus. Is seditiones
 „ ac bella intestina, quibus Hispania
 „ penè tota per id tempus ardebat, ne-
 „ dum compescuit, sed etiam penitus
 „ extinxit. *Romanos* (id est *Hispanos*)
 „ obsedit; insignemque de iis victo-
 „ riam retulit. (Arabum Scriptores *Fof-*
 „ *sæ prælium* vocitant urbis *Legionis*
 „ obsidium, quod anno Egiræ 327.
 „ contigisse tradunt). Præterea plura bel-
 „ la gessit, urbes expugnavit, rebelles
 „ subegit. A *Constantinopolitano* Impe-
 ra-

(a) وولي اجنه المنذر وكان شهما حازما ومات محاصر لابن حفصون

(b) ثم تلاه اخ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن وكان عفا فاضلا وفي أيامه
 تناهت الفتنة وضويقت عليه الحضرة واشتد عليه كلب ابن حفصون فشمر ففتح الله
 عليه واستوسقت له الطاعة وابن حفصون المشار اليه هو عمر بن حفصون كان ابوه
 من جهالة اهل الزمة وكان شجاعا ثابرا اشتهر وضع الشرار الي نفسه وملك مدينة
 بشقر فانقادت اليه الجهات وقمادي الامر فيه وفي عقبه ازيد من سبعين سنة

„ ratore , aliisque Regibus Legati ad
 „ cum missi sunt. Diu regnavit, ad annos
 „ nempe quinquaginta. Urbem *Alzah-*
 „ *ra* condidit (quæ *Flos* dicitur , non
 „ procul à *Cordubâ* distans. Videfis Geo-
 „ graphum *NUBIENSEM*). Varia *Cordubæ*
 „ tum in Templo , tum in Ponte reliquit
 „ suæ munificentiae monumenta. (a)

NOTÆ.

ABDELRAHMANUS Regi *ABDALLÆ*
 avo paterno in regnum successit duos
 & viginti annos natus , adolescens lit-
 teris & arte militari instructissimus.
 Turbulentum Hispaniarum Regnum
 post cruenta bella sic sedavit , ut nul-
 lum ibi bellum multis annis actum
 fuisse crederes. Itaque rebus ex senten-
 tia peractis , post florentissimum diu-
 turnumque Imperium mense Ramda-
 no , anno *Egiræ* 350. diem obiit. Ex
Supplemento ALHOMAIDI.

ABDELRAHMANUS , *ABDALLÆ* Regis
 nepos, Rex potentissimus idemque fe-
 licissimus , *Cordubæ* ad solium evectus
 est anno *Egiræ* 300. feriâ 5. die 1. Ra-
 bii prioris ; mortuus verò anno 350. fe-
 riâ 3. die 3. *Ramdani* , quum regnasset
 annos L. menses VI. dies III. Hic lon-
 gè latèque prolatis Imperii finibus , Ca-
 liphæ nomen induit , quod ex *Ommia-*
ditis nemo antea in Hispania sibi adsci-
 Tom. II.

verat , maximam Calipharum poten-
 tiam per ea tempora veritus. Hæc *EBN*
ALABARUS. Consentit *RODERICUS TOLE-*
TANUS ; dissentit , imò vix sibi constat
HERBELOTIUS , qui in *Bibliotheca Orient.*
pag. 9. *ABDELRAHMANUM* modò *ALMON-*
DERI filium , modò *ABDALLÆ* fratrem
 appellat ; eumque jam sexaginta , jam
 quinquaginta annos regnasse , auctori-
 bus perperam allegatis , affirmat.

„ Rerum summâ potitur ejus fi-
 „ lius *ALHAKEMUS* , hujus nominis se-
 „ cundus , *ALMOSTANSER BILLA* nuncu-
 „ patus , vulgò *ABUELASSI* , annos quin-
 „ quaginta natus : qui eò magnificen-
 „ tiæ , pietatis , doctrinæ , ac rerum me-
 „ morabilium gloriæ processit , ut eum
 „ nemo suæ gentis unquam exæqua-
 „ verit. Fato tandem functus est anno
 „ *Egiræ* 366. Christi 976. (b)

NOTÆ.

ALHAKEMUS quadraginta & septem
 annorum erat, cum regnare cœpit. Quo
 Rege , quantum in Hispania floruerint
 Litteræ ; quot doctissimi viri extiterint,
 haud facile dictu est. Ille omnium pri-
 mus , conquisitis undique libris pretio-
 sissimis , Regiam Bibliothecam instituit ;
 nec pauca condidit Gymnasia , arcessitis
 viris doctrinæ laude præstantibus , qui
 disciplinas docerent scriptisque illustra-
 Cc rent.

(a) واما توفي عبد الله تولى الامر حفيده عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الناصر
 بن عبد الله وكانت الارض تضطرم نارا وشقاقا فاخذ نيرانها وسمي بامير المؤمنين
 واقع الروم به في الخندق بعد ظهور كبير عليهم وفتح الله عليه فتوحات كثيرة
 ووردت علي بابه رسل صاحب القسطنطينية وغيره وطال عمره فبنا مدينة الزهراء وله
 الاثر في مسجد قرطبة وجسرها وغير ذلك وكانت مرتبة خمسين سنة

(b) وولي الامر ابنة الحكم بن عبد الرحمن الملقب بالمستنصر بالله ابو العاصي
 ولي الملك ابن خمسين سنة وبلغ من تناهي الجلالة وحسن السيرة وجراعة العلم
 وتخليد الآثار ما لم يبلغه احد من قومه ثم توفي سنة ست وستين وثلاثماية

rent. Princeps longiore vita dignus; brevi tamen non sine magno Reipublicæ litteratæ detrimento rebus humanis ereptus est. A vino sic abhorruit, ut vites ex Hispano solo radicitus avellere meditaretur. Ex *supplemento ALHOMALDI*.

ALHAKEMUS annos XLVII. vel, ut aliis placet, XLVIII. & ultra natus, Imperium auspicatus est anno Egiræ 350. feriâ 5. die 5. Ramdani; obiit anno 366. die 2. Saphari, postquam annos XV. & menses ferè quinque regnasset: Princeps humanitate, eruditione, amore in litteras nulli posthabendus. Cujus rei argumento sit Bibliotheca adeo instructa ac numerosa, ut ejus librorum Index volumina quadraginta & quatuor impleverit. Nullus erat sive rarus, sive eximius Codex, quem non emeret, vel exscribi saltem juberet. Viros omni scientiarum genere præcellentes undequaque accitos in primis caros habuit; præmiis, honoribus amplissimis cumulavit: quorum alios rerum Hispanarum Annalibus, alios Historiæ aut Naturali, aut Litterariæ conscribendæ deligebat. Id quò accuratius fieret, urbium Præfectis cæterorumque locorum Rectoribus negotium dabat ut certiores quasque notitias cum ad Antiquitatum monumenta, tum ad Familiarum origines & stemmata pertinentes ex incolis diligenter exquirent, mittendasque curarent. *EBN ALBARUS*.

„ Ad folium evectus est ejus filius

„ *HESCHAMUS*, hujus nominis secundus, *ALMOVAIED* appellatus, annum „ agens duodecimum, adnitente *ABU* „ *AMER MOHAMAD BEN ABI AMER* „ *ALMOAPHERÆO*, cognomento *AL-* „ *MANSORE*, (qui Tutoris nomine præfuit; quemque Populus Cordubensis ab *HESCHAMI* fide intereà deficiens, Senatu instituto, summum Reipublicæ Ducem creavit) „ cujus operâ „ *HESCHAMUS* Rex sic latuit inclusus, „ ut mortuus vulgò crederetur. Itaque „ *ALMANSOR*, quem & civilis scientia, „ & bellica virtus maximè commendabant, universam Hispaniam suo imperio subjectam summa cum laude „ moderatus est. Hostium urbes in suam „ ditionem redegit, aliis fufis, captis „ aliis, quorum ille ex *Zamorensi* prælio „ decem & novem millia *Cordubam* „ secum duxisse fertur. Extincto *ALMANSORE*, ejus filius *ABDELMALEKUS*, alio „ nomine *ALMODHPHER*, præficitur, rei „ militaris scientiâ & victoriarum multitudinem æquè illustris atque *ALMANSOR* „ ejus parens. Hic ab expeditione „ adversus *SANCTIUM GARCIE* filium „ Gallæciæ Regem susceptâ redux, obiit „ mense Sapharo, anno Egiræ 399. „ Huic statim in Regnum successit illius „ frater *ABDELRAHMANUS*, *SCHANGIUL* per „ contumeliam cognominatus, quem „ *BEN ABDELGIABAR*, Imperio usurpato, „ interfecit. Exinde *Alameritarum* Principatus & Reipublicæ status interciderè. (a)

NO-

(a) ووديع ولده هشام المؤيد وهو ابن اثني عشرة سنة وعليه انشقت عصا الامة عقولاً البيعة ابو عامر محمد بن ابي عامر وجرت عليه حجابته وحجابته ولديه من بعده الي ان مضي لسبيلة ولم تتحقق وفاته وما بعده هو محمد بن ابي عامر المعافري الملقب بالمنصور صاحب السياسة الشهيرة والغزوات العظيمة التي دوح بها البلاد وراع الاقطار وشبي المدن ذكر انه انصرف من غزوة سمورة بتسعة عشر الف راس من السبي ولما توفي ولي الحجابة بعده ولده المظفر عبد الملك واقتمفي بسيرة ابيه في الجهاد والفتوحات

NOTÆ.

HESCHAMUS, undecimo ætatis anno vix expleto, in folium collocatur; sed per ætatem rebus administrandis impar, *ALMANSORI*, viro prudentiâ & rei militaris scientia instructissimo, in tutelam traditur. Hispania quam à principio Reges habuere, Reipublicæ more per ea tempora regi cœpit. Itaque *ALMANSOR*, penes quem Imperii summa, Rege inconsulto, suo omnia nutu moderabatur. Prælia bis singulis annis committere solitus, victor semper, nunquam victus ab acie discessit. Insignis quoque fuit Litterarum fautor, quippe qui viros eruditos honoribus & præmiis ita est prosequutus, ut eorum dissertationibus frequentissimus interesset. Denique mortuus est anno Egiræ 392. Imperii successores relinquens duos quos habebat filios, *ABDELMALEKUM* & *ABDELRAHMANUM*, quorum prior annos ferè septem, alter non nisi menses quatuor imperasse traditur. Quapropter illorum Principatus ad annum 399. perductus est, idque feriâ 3. die 17. Gemadi posterioris. Ex *Supplemento ALHOMAIDI*.

Tom. II.

ALMANSOR Regni Procuratoris munere functus est annos XXV. annos LXV. vel LXVI. natus. *EBN ALABARUS* ex *Chronicis BEN HAIANI*.

Verùm quo pacto *MOHAMAD BEN HESCHAM BEN ABDELGIABAR*, *ABDELRAHMANI ALNASER LEDINALLA* pronepos, *ALMAHADI* nuncupatus, regnum eripuerit, ex iis quæ sequuntur patebit.

„ Quum *ABDELRAHMANUS BEN ABI*
 „ *AMER*, *ALMANSORIS* filius & *ABDEL-*
 „ *MALEKI* frater ac successor, *MO-*
 „ *HAMEDUM BEN HESCHAM* sibi infen-
 „ sissimum oppugnaturus processisset,
 „ *MOHAMAD Cordubam* milite destitu-
 „ tam animadvertens, in mediam ur-
 „ bem irrumpit, captaque arce, plau-
 „ dente populo Rex salutatur. *ABDEL-*
 „ *RAHMANUS* rei famâ admonitus, rever-
 „ titur, impellente auræ popularis fidu-
 „ ciâ. Sed ipem fefellit eventus; nam
 „ turbâ ab eo deficiente, interfectus
 „ est. Tum *MOHAMEDUS ALMAHADI* re-
 „ rum summâ potitus, hominis alte-
 „ rius morte Regis *HESCHAMI* funus
 „ simulat; at Barbarorum exercitus
 „ obsistit, eumque armis repellere co-
 „ natur. (a)

Cc 2

NO-

والفتوحات العظيمة ثم توفي منصوراً من عزوة شانجة بن غرسية ملك جليقية في صفر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وتولي امره اخوه عبد الرحمن الملقب بشنجلول ثم قتل لما وثب بن عبد الجبار بالخلافة وانقضت الدولة العامرية وانقضت بانقضائها دولة الجماعة

(a) ثم المتوثب الملقب بالمهري هو محمد بن هشام بن عبد الجبار ابن عبد الرحمن الناصر لدين الله ولما توفي عبد الملك بن ابي عامر وخرج اخوه عبد الرحمن الي غزاة وخلي البلد من الجند وثب فملك القصر واخذ بيعة الناس لنفسه وبلغ الخبر ابن ابي عامر فقفل طائفا ان الريح تنشأ له فقتل لما خذله الناس ولما استوسق الامر المهري اظهر جنازه ادعي انها جنازة هشام وخالف امره عسكر البربر ونافروه

NOTA.

MOHAMAD BEN HESCHAM BEN ABDELGIABAR, regiae dignitatis appetens, vi HESCHAMO illatâ, Imperatoris insignia, adscito sibi ALMAHADI nomine, induit; idque mense Gemado posteriori, anno Egræ 399. Sed non multò post, die videlicet 5. mensis Scheuali, feriâ 4. ejusdem anni HESCHAMUS BEN SOLIMAN BEN ALNASSER cum validâ Barbarorum manu prælium, quod biduo durasse fertur, adversus Regem ALMAHADI, sed infausto Marte, commisit. Nam Cordubenses, qui ALMAHADI partes fovebant, HESCHAMUM BEN SOLIMANUM, fuis copiis, trucidarunt. Quamobrem Barbari ad cladem acceptam armis ulciscendam parati, SOLIMANUM BEN ALHAKEM BEN SOLIMAN BEN ALNASSERI Regem salutarunt. Is, coactis Christianorum viribus, Cordubam adventavit; atque initâ pugna prope montem Cantos جبل قنطش, (quem RODERICUS TOLETANUS Cantiche nominat) viginti & amplius militum Cordubensium millia cæsa dicuntur. At ALMAHADI, collectis iterum viribus, Christianorum copiis etiam adjutus, castra ad locum, nomine Acbat Albacar عقبة البقر, à Corduba miliaribus decem distitum locat: quam, SOLIMANO cum Barbaris fuso fugatoque, victor ingreditur. Inde ingenti conscripto exercitu, ad Algezirat profectus est. Occurrit illi prope fluvium Guadiara SOLIMANUS, à quo ALMAHADI profligatus,

Cordubam repetit; ibique haud multò post à VADHEH ALSCALABEO Eunuchorum Rectore vita & regno spoliatus est, postquam menses XVI. regnasset. Ex Supplemento ALHOMAIDI.

„ Itaque SOLIMANUS BEN ALHA-
 „ KEM BEN SOLIMAN BEN ABDELRAH-
 „ MAN ALNASSER ope Barbarorum ad
 „ solium evectus, auxilium à Gallacis
 „ imploravit. Hinc Cordubam copias
 „ movens, castra juxta posuit. ALMA-
 „ HADI Rex quum tantis viribus resi-
 „ stere se non posse intelligeret, sibi
 „ metuens, fugam furtim capeffit. At-
 „ que ubi Toletum pervenit, cum Chri-
 „ stianis foedus iniit; inde ingenti exer-
 „ citu sibi comparato, Cordubam re-
 „ vertitur. Prælium itaque editum est,
 „ quo SOLIMANUS, fuis Barbarorum co-
 „ piis, victus ad Insule Viridis confinia
 „ secedere cogitur; & castra prope am-
 „ nem Melaria dictum metatus, in
 „ Africam cum Barbaris trajicere desti-
 „ nabat. ALMAHADI Rex, partâ victoriâ,
 „ SOLIMANUM fugientem insequitur: qui,
 „ rebus desperatis, ita cum eo pugna-
 „ vit, ut in turpem ipsum fugam egerit,
 „ seque Cordubam recipientem circum-
 „ sederit. Hic quum suas vires imminui
 „ cerneret, HESCHAMUM ALMOVAIEDUM,
 „ olim Regem, produxit, ratus populi
 „ favorem sibi conciliaturum. At rebus
 „ ex sententiâ minimè succedentibus,
 „ per insidias interfectus est: quo fa-
 „ ctum, ut SOLIMANUS BEN ALHAKEM,
 „ Barbarorum Dux, Cordubâ occupa-
 „ tâ, rerum sit potitus. (a)

„ So-

(a) ودايعوا سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر واستعوان
 الجلائقة ثم قصد قرطبة فنانزلها ولم يطق المهدي مدافعتها فاتقاه بالانخلاع
 واخفي نفسه الي ان لحق بطليطلة واستجاش ايضا جمع الروم ونزح الي قرطبة
 فكان له الظهور علي سليمان وجمع البربر وانزعجهم عنها فانندبوا الي احوار الخضراء
 وخيموا بوادي ياروا يرومون الجوانر الي بلادهم وتبعهم عقب الظهور عليهم المهدي
 فستماقوا

„ SOLIMANO obstitit ALI BEN HAMUD BEN MAIMUN BEN ALI BEN ORAIDALLA BEN OMAR BEN EDRIS EBN HOSAIN BEN HASSAN BEN ALI BEN ABITHALEB, quem HESCHAMUS Rex, ALMOVAID nuncupatus, quum mortem sibi jam jam imminentem sentiret, traditur, missis Septam ad illum litteris, in auxilium, simulque sanguinis unctionem vocasse, Hispaniarum Regnum pollicitus. Ille statim advolat, anno videlicet 405. Obviam fit SOLIMANUS, qui tandem victus, captusque unâ cum fratre ac patre ad ALI BEN HAMUDUN adducitur. Is HESCHAMI necis ulciscendæ cupidus, eorum capita suamet manu amputavit. Dehinc ALI BEN HAMUD, de quo sermo, vir alioquin fortissimus, Regis induit insignia. Cæterum quidam ex Scalabitis servus, pecuniâ corruptus, illum in balneo interfecit sub initium mensis Dilcadat, anno Egiræ 408. Illi postea in Regnum successit ejus frater ALCASSEMUS; verum hic à IAHA BEN ALI profligatus, Cordubam reliquit. (a)

N O T Æ.

SOLIMANUS BEN ALHAKEM è Regia Omniaditarum stirpe, qui & ALMOSTAIN BILLA, & ALDHAPHER BEHAUL ALLA dicitur, post varia cruentaque bella jam victus, jam victor, Regnum sibi vindicavit. Cordubam, Imperii Hispani sedem, ter subactam ingreditur, anno nimirum 399. Christi 1008. feriâ 5. die 6. mensis Scheuali, & anno 400. mense Rabio posteriori. A Cordubensibus eâ tempestate pulsus, crebris excursionibus varia loca vastat, agros diripit, atque omnia ferro incendiisque, nullo sexûs, aut ætatis discrimine, pessumdat; nec prius quievit quàm Cordubam tertio occuparet, sub initium scilicet mensis Scheuali, anno Egiræ 403. In ejus castris stipendia meruere ALCASSEMUS & ALI, Ducis HAMUDI filii, genere & bellica virtute præclariorum alter Septæ & Tingi; alter Insula Viridi à SOLIMANO præficiuntur. Exorto inter Eunuchos ac Barbaros diffidio, ALI Septæ Præfectus, ALCASSEMI frater natu minor, imperandi cupidus, Eunuchis, ut ad suas partes eos fa-

فستماؤا واستبصروا في حربہ فنصرهم اللہ علیہ وهزموه اقبیح هرذمة وتبعوه الي قرطبة وحاصروه فاخذت حاله واعملت عليه الحيلة فقتل واخرج هشام المويد للناس فلم يستقم الامر واستولي سليمان بن الحكم امير البربر علي الحضرة

(a) ثم انبري له علي بن حمود بن ميمون بن علي بن عبيد اللہ بن عمر بن ادريس ابن حسين بن حسن بن علي بن ابي طالب يقال ان هشام المحجوب لما شعر بالهلاك خاطب ابن حمود بسببته يستنصره ويقلده دمه والطلب بتاره ويقضي اليه بعهدہ فتحرك سنة خمس واربعماية فبرز اليه سليمان بن الحكم فانهم سليمان وتقبض عليه وعلي اخيه وابيه وسبقوا الي علي بن حمود فضرب اعناقهم بيده ووا لهشام وتمت البيعة لعلي بن حمود وكان قفا شديدا اغتاله صبيه من مماليك الصقالبة في الحمام فقتله غرة ذي قعدة من سنة ثمان واربعماية وتولي امره من بعده اخوه القاسم ثم نارعه يعقبي بن علي بن حمود وفر من قرطبة

faciliùs adduceret, litteris datis suam operam & opem pollicitus est. Rex ab Eunuchis salutatus, cum potentissimo exercitu *Malacam*, cujus erat Præfes *AMERUS BEN PHETUH*, occupat; inde castris *Cordubam* motis, Eunuchorum viribus adjungens suas, *SOLIMANUM* bis fudit; tandemque captum, vita & regno privavit. Ex *Supplemento ALHOMAI*DI.

SOLIMANUS ABU AIUB secundò Imperator *Cordubam* ingreditur die 15. Rabii posterioris, anno Egræ 400. nuncupatusque *ALDHAPHER BEHAUL ALLA*: vir sanè doctrinâ, eruditione, simulque eloquentiâ ornatissimus. Is autem ab *ALI BEN HAMUD* interfectus esse traditur anno Egræ 407. Christi 1016. feriâ 7. die 22. Moharami. Ex *EBN ALABARO*, qui *SOLIMANI* plura carmina refert.

RODERICUS TOLETANUS AMERUM BEN PHETUH vocat *HAIRAM ALHEMARI*; *SOLIMANUM*, *ZULEMAN*; *EBN HAMUD*, *ABENHAMIT*.

Fluvius autem hic, qui *Insulam Viridem* interfecat, *Fluvius Mellis* à *GEOGRAPHO NUBIENSI Climat. III. Parte X. pag. 154.* vocatur.

Scalabita sunt *Illyrii*, vulgò *Escalavones*, qui per ea tempora in Hispania stipendia merebant.

ALI BEN HAMUD, vir strenuus & rei militaris peritissimus, æquus prætereà ac liberalis Princeps proindeque omnibus carus, nigris fuit oculis, corpore macilento, staturâ eminent. *HE-SCHAMO BEN ALHAKEMO* Regi, à *SOLIMANO* Regia dignitate exuto atque in vincula coniecto, suppetias laturus *Cor-*

dubam venit cum exercitu numerosissimo. *Solimanum* fudit, deinde occidit; mox *Cordubam* victor ingreditur; Rexque ibi electus, *ALNASER LEDINALLA* nomen assumpsit. Anno Egræ 408. feriâ 3. die 13. Gemadi posterioris *KHAIRANUM*, *Almeriæ* Præfectum, qui ab ipso defecerat, profligavit: quod quidem anno à tribus præcipuis famulis in Regiæ domûs balneo interfectus est. *ALCASSEMUS* ejus frater, qui *Hispani* tunc temporis agebat, cædis certior factus, *Cordubam* venit: ubi in fratris locum suffectus, reos patibulo affigi jussit; fratrisque cadaver *Septam* translatum, conditâ sacrâ æde, honorifico tumulo donavit. Ibidem in hunc usque diem *Forum Lanarium* etiam visitur. Ex *Bibliotheca EBN ALKHATHIBI*.

„ Quamobrem *Alamerita*, qui in
„ Hispania Orientali, (id est *Tarraco-*
„ *nensi*) rebus præerant, concilio co-
„ cto, *ABDELRAHMANUM BEN MOHA-*
„ *MAD*, qui *ALMORTADHA* nuncupatus
„ est, in solio collocarunt. Ex his qui
„ *Granatam* ingressi, cum *Sanhagita-*
„ *rum* Duce prælio commisso, fusi,
„ fugatique sunt, Rege *ALMORTADHA*
„ interfecto, ut fusiùs suo loco dictum
„ est. (a)

„ Populus *Cordubensis* gravissima
„ de imperio inter Reges *Beni Hamud*,
„ (*ALCASSEMUM* & *IAHAM*) dissidia jam
„ pertæsus, *ABDELRAHMANUM BEN HE-*
„ *SCHAM BEN ABDELGIABAR*, *ABA ALMA-*
„ *TRHEPHUM* ex *Almaruanitarum*, seu
„ *Ommiaditarum* stirpe, Regem renun-
„ ciat, qui præter morum probitatem,
„ acri ingenio & eloquentiâ erat præ-
„ ditus. Populus exinde iratus, ex Bar-
„ ba-

(a) واجتمع الموالي العامريون بشرق الاندلس علي مبايعة عبد الرحمن بن محمد الملقب بالمرضى وحصروا به فمنازلوه فمنازلوه وديها أمير الصنهاجة وناجزهم الحرب فهزمهم وقتل الخليفة المرضى بجيبر طویل

„ baris quosdam ad illius necem quæ-
 „ fivit, qui per muros in Regiam im-
 „ missi, eum nec opinantem adorti,
 „ interfecere. (a)

N O T A.

ABDELRAHMANUS BEN HESCHAM
 ALMOSTADHER BILLA, frater ABULUA-
 LID MOHAMAD BEN HESCHAM ALMA-
 HADI, Cordubæ Rex electus est men-
 se Ramdano, anno Egiræ 414. annos
 XXXIII. natus; eodemque anno, die
 27. mensis Dilcadat à Barbaris ope-
 râ MOHAMAD BEN ABDELRAHMANI AL-
 MOSTAKPHI fratris patruelis occisus est,
 postquam regnaverat dies XLVII. Poë-
 ta & Orator fuit disertissimus. Ex Bi-
 bliothecâ EBN ALABARI, qui ejusdem
 carmina ibidem adducit.

„ Eligitur Rex illius patruelis, no-
 „ mine ALMOSTAKPHI, MOHAMAD BEN
 „ ABDELRAHMAM OBAIDALLA BEN ABD-
 „ ELRAHMAN ALNASSER, qui otio ac
 „ voluptatibus tantum deditus, ita re-
 „ rum administrandarum curam abje-
 „ cit, ut rebus afflictis, Imperium de-
 „ ponere à populo adactus, in oppi-

„ dum Ucles recesserit, ubi tandem in-
 „ teriit, quum menses XVII. imperaf-
 „ set. (b)

N O T A.

De Rege ALMOSTAKPHI nihil memo-
 rabile dicendum occurrit, præter turpif-
 sima flagitia, quæ honestatis causâ si-
 lentio præterire potius, quàm recen-
 sere præstat; Principum enim vitia, ut-
 pote inulta, aliis exemplo, multis excu-
 lationi esse solent. Ex Supplemento ALHO-
 MAIDI.

„ Cui postea successit HESCHAMUS
 „ BEN MOHAMAD, unus ex nepotibus
 „ Regis ABDELRAHMANI ALNASEERI LE-
 „ DINALLA, qui quum in oppidum
 „ Hosn Albenta ad Ducem ABDALLAM
 „ BEN CASSEM ALPHARI confugisset;
 „ Corduba jam senex Rex, ALMOTAD
 „ nomine, salutatus est anno Egiræ
 „ 418. Dehinc folio à populo depullus,
 „ in Castrum Abilscharaph (fortè Castro-
 „ Xeriz) se recepit. Ad hæc usque
 „ tempora Onniaditarum regnum ste-
 „ tit. (c)

NO-

(a) ولما اعي الناس ذراع بني حمود بقرطبة بايعوا من بقايا مروانية ابا المطرف
 عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار وكان نقيبا نكيا بارعا اديبا ولهم
 يكن الا ان نقم عليه العامة ايوا طايقة من البربر فوثبوا به ولم يشعروا الا وجوادهم
 من فوق حيطان القصر فقتلوه

(b) ووديع ابن عمه المستكفي وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر
 عبد الرحمن فلم يضطلع بالامر واخذ الي الراحة فضعف امره واتفق الملا علي خلعه
 فخرج علي وجهه مستترا فهلك بحصن اقلبيش وكانت دولته سبعة عشر شهرا

(c) ثم بعده هشام بن محمد من ولد الناصر كان مقيما بحصن البنت لجا الي
 اميره عبد الله بن قاسم الفهري ووديع له بقرطبة سنة ثمان عشرة واربعماية ولقب
 المعتد تغلر الامر في سن الشيخوخة ثم اجتمع الملا علي خلعه ثم اخرج الي
 حصن ابي الشرف وانتهي الي هذا الحد امر بني مروان بالاندلس

N O T Æ.

HESCHAMUS, dictus *ALMOTAD*, fuit Regis *ALMORTADHA* jam laudati frater, qui & *ABU BAKER* dicitur, postremus videlicet *Ommiaditarum* in Hispania Princeps, sive Imperator; corpore pervenuto, liberali & dignâ imperio facie præditus. In solium collocatur anno Egiræ 418. Christi 1027. feriâ 1. die 5. Rabii posterioris. Ingenio erat leni & effusæ, in pauperes præsertim, liberalitatis. Anno verò 422. feriâ 2. die 12. mensis *Dilhagiat Cordubensis* eum populus ob male administratam Rempublicam regno exiit: qui tandem anno Egiræ 428. mense *Sapharo* in Castro *Abilscharaph* miserè periit. Ex Bibliotheca *EBN ALKHATHIB*.

Mortuo *IAHIA BEN ALI*, qui Regnum sibi vindicavit, anno Egiræ 417. Populus *Cordubensis*, adnitente *ABULHAZEMO GIAHUR* ejus Duce, *HESCHAMUM ALMOTAD* Regem elegit anno 418. mense Rabio priori jam jam declinante. Natus autem is est anno 364. Rege *ALMORTADHA* fratre quadriennio prior. Crescente in dies factiosorum numero, insidias vitabundus in Regni confinia se se recepit: unde postea *Cordubam* in Regiam urbem revocatus, illam ingressus est die 8. mensis *Dilhagiat*, anno 420. ubi non multò post à populo, qui naturâ suâ est inconstans, Regno pulsus est, idque anno Egiræ 422. Ex Supplemento *ALHOMAI*DI.



„ *EXTINCTO*
„ *IN HISPANIA CALIPHATU*,
„ *multorum Regum recensetur*

„ SERIES.

„ *HESCHAMO* à folio deturbato,
„ *ABULHAZAMUS BEN GIAHUR*, vir clarissimus, omnium consensu Regni gubernacula suscepit. Obiit die 6. Moharami, anno Egiræ 435. (a)

N O T Æ.

ABULHAZAMUS BEN GIAHUR, vir & antiquitate generis, & gloriâ majorum, & suâ modestiâ unus omnium maximè floruit. Cùm suæ, tum alienæ pacis ita erat studiosus, ut nunquam civilibus fluctibus se commiserit. Honores non petiit; imo, Regiâ dignitate sibi oblatâ, sic se gessit, ut Rempublicam tanquam Regis vicarius administrare constituerit. Denique rebus præclare gestis, summo omnium desiderio extinctus est mense *Sapharo*, anno 435. Ex Supplemento *ALHOMAI*DI.

GIAHUR BEN MOHAMAD BEN GIAHUR BEN OBAIDALLA ABULHAZAMUS, vir fuit nobilitate, prudentia & Rempublicæ administrandæ solertiâ nulli secundus. Quippe Hispaniam bello intestino per ea tempora maximè turbatam, non armorum vi, sed arte industriaque composuit; Regnumque pace perpetuâ beasset, si dutius vixisset. Decessit anno Egiræ 435. mense *Sapharo*, secundum *BEN HAIANUM* die 6. mensis Moharami, feriâ 1. Ex *EBN ALABARO*.

„ Suffectus in ejus locum filius
„ *ABULVALIDUS*, patrem imitatus est.
„ se-

ذكر ملوك الطوائف بعد انقراض الخلافة
(a) اجتمع الناس بعد خلع هشام المعتد علي تقديره ابي الحزم بن جهور لتوفى
خصاله ثم توفي سادس محرم سنة خمس وثلاثين واربعماية

„ fenio jam confectus, variisque mor-
 „ bis afflicatus, moleſtam Reipublicæ
 „ curam filio, nomine *ABDELMALEKO*,
 „ tranſmiſit: qui quum otio jocisque
 „ animum recrearet, *EBN ZENON*, op-
 „ portunam occaſionem nactus, impe-
 „ rium *Corduba* ambire cœpit. Quare
 „ caſtra non procul ab urbe movit. *Gia-*
 „ *hurita* auxilia ab *EBN ABAD Hispalis*
 „ Principe petita impetrarunt. Miſſis igi-
 „ tur copiis auxiliariſibus, Dux qui illis
 „ præerat, urbem ingreſſus, ab obſidio
 „ eam exemiſit. Fugato *EBN ZENONE*,
 „ *EBN ABAD* ſupra laudatus urbem in-
 „ vaſit, atque *ABDELMALEKO* interfecto,
 „ rerum ſummâ potitus eſt. (a)

„ *Abaditarum* Familia inter Hispa-
 „ nos fuit maximè illuſtris. Eorum
 „ primus ſibi principatum vindicavit
 „ *ABULCASSEMUS MOHAMAD BEN ABAD*
 „ *BEN MOHAMAD BEN ISMAEL EBN*
 „ *CORAISCH EBN ABAD*, dignitate Judex,
 „ ac vir Hiſpanorum ſuæ ætatis clariffi-
 „ mus. Everſo *Ommiaditarum* imperio,
 „ ſuam illi uni cauſam ſua gens credidit:
 „ quam in ſe poſteà cum Regia aucto-
 „ ritate ſuſcepit ejus filius *ABU AMRU*
 „ *ABAD*, dictus *ALMOTADHED BILLA*, qui
 Tom. II.

„ Hiſpanos omnes ſolertiâ, fortitudine,
 „ rerum geſtarum gloriâ antecelluit. Is
 „ diem ſupremum obiit anno *Egira*
 „ 461. Suceſſit in principatum ejus fi-
 „ lius *MOHAMAD ALMOTAMED ALALLA*,
 „ ultimus *Abaditarum* Rex. (b)

N O T Æ.

Quæ de *Abaditarum* origine fuſius
EBN ALABARUS egit, paucis hîc propo-
 nemus. *ATAPHUS BEN ABAD*, gente *Sy-*
rus, patriâ *Emeſſenus*, Hiſpalim venit,
 regnante *ABDELRAHMANO* hujus nomi-
 nis primo; ſedemque fixit in oppido
Tocina طشانة, ad ripam fluminis, vul-
 gò *Guadalquivir*, poſito. Primùm mer-
 caturam fecit; deinde militiam ſequu-
 tus. Ex illius poſteris ingenio, opibus-
 que maximè claruit *MOHAMAD BEN IS-*
MAEL ABULCASSEMUS, qui Hiſpalenſium
 poſſeſſionibus ſibi comparatis, rem
 familiarem ita auxit, ut brevi ditiffi-
 mus, idemque potentiffimus factus,
 omnibus imperare cœperit. Itaque ab
ABULCASSEMO impoſitis *Hispali* vecti-
 galibus, quod vis aſſequi non valuit,
 pervicit ambitio. Nam uſurpato Hiſpa-
 lenſi Regno, Regis inſignia ſumere
 Dd non

(a) وولي مكانه ابو الوليد فاقتفي سنن ابيه ثم لما ادركه الهرم واصابته الزمانة
 استناب ولده عبد الملك فاشتغل باللهو وطمع ابن نزون في قرطبة وتحرك اليه
 فاستصرخ بنو جهور جارهم ابن عباد امير اشبيلية فوجه اليهم عددا من جيشه لنظر
 وزيره فدخلها وحماها من ابن زي النون فلما انصرف عنها ثار العباديون بعبد الملك
 بن جهور واستولي علي المدينة

(b) بيت بني عباد بالاندلس نبيه واول من راس منهم رياسة السيوف القاضي اذ
 القاسم محمد بن عباد بن محمد بن اسمعيل ابن قريش ابن عباد وكان رجلا
 الغرب قاطبة له الاشارة والصيت ولما انقرضت الدولة اسند اليه اهل فطره النظر
 والتسديد فاستبد بالامر ابو عمر وعباد ولده المعتضد بالله وهو ابعث ثوار الاندلس همة
 واشدهم باسا وافخمهم اثرا وكانت وفاة سنت احدي وستين واربعماية وولي بعده
 ولده محمد المعتمد علي الله وعليه انقراض امرهم

non dubitavit, opportunam ei præben-
tibus causam & effræno Barbarorum do-
minio, & Principum factione. Morti
jam proximus, quæ contigit die 1. Ge-
madi prioris, anno Egiræ 433. hære-
dem reliquit filium *ABADUM ABU AM-
RU*, qui longè latèque prolatis Regni
finibus, felix faustumque auspiciatus est
imperium. Naturæ denique concessit
anno Egiræ 461. Christi 1068. feriâ
7. die 2. Gemadi posterioris. Ferunt
illum in deliciis Pinacothecam habuisse,
in qua multorum Principum, quos vi-
cerat, capita, tanquam gloriosissima
trophæa, asservabat: in his capita Du-
cum *MOHAMEDI BEN ABDALLA ALBO-
RAZELI*, *EBN KHAZRUNI*, *EBN NUH*,
aliorumque Principum qui Regis *IA-
HIA BEN ALI BEN HAMUD* partes
fuerant amplexi.

In ejus locum suffectus est filius
*MOHAMAD ABULCASSEMUS ALMOTAMED
ALALLA* dictus, annos natus XXIX. &
mensis II. Princeps fortitudine, crudi-
tione & munificentia spectatissimus,
patrique adeò multum dissimilis. Re-
gno pulsus anno 484. in oppido *Agme-
ti* fato concessit mense Rabio priori,
anno 488. Filios reliquit quatuor, quo-
rum primus *MOHAMAD OBALDALLA AL-
RASCHIDÆUS*; secundus *ABDALLA ABU
BAKERUS ALMOTEMEDUS*; tertius *ABUNAS-
SERUS ALPHAT ALMAMUNUS*; quartus
ABULKHALEDUS IAZIDUS ALRADÆUS.

*MOHAMAD BEN ISMAEL ABULCAS-
SEMUS BEN ABAD*, urbis *Hispalis* quam
imperio suo armis subjecit, Rex po-
tentissimus & *Abaditarum* Princeps
clarissimus, è vitâ migravit anno Egi-
ræ 433. In principatum successit ejus
filius *ALMOTADHEDUS*, qui Regiam hære-
ditatem sibi relictam novâ multarum
urbium accessione locupletavit. Obiit
tandem anno 461. postquam annos
XXVIII. regnaverat. Illum excepit ejus
filius *ALMOTAMED*, aliàs *ALDHAPHER*,

& *ALMOVAIED* etiam vocitatus (quæ
nomina diligenter sunt animadverten-
da, nequis in Arabum monumentis pa-
rum versatus, hæc non unum eundem-
que Regem, sed plures denotare sibi
persuadeat). Ubi ad solium evectus,
de Regno amplificando cogitare cœ-
pit. Quamobrem ingenti conscripto
exercitu, *Cordubam*, *Malacam*, item
Murciam adeptus est. *ALMOTAMEDUS*
autem, præter nobilitatem generis præ-
claramque majorum gloriam, multa alia
à natura nactus est bona: in his in-
genium come aptumque ad Artes opti-
mas, & magnam corporis dignitatem,
quæ non parum commendationis affe-
runt. Fuit enim tantus Orator & Poë-
ta, ut non ætatis suæ modò cum pri-
mis compararetur; sed ne superiorum
quidem ulli censeretur postponendus.

Quum *ALPHONSUS* Rex, urbe *To-
leto* expugnatâ anno Egiræ 478. Chri-
sti 1085. mense Moharamo, plurimis
victoriis elatus, Arabum Reges vecti-
gales fecisset; *ALMOTAMEDUS* sibi me-
tuens, *JOSEPHI BEN TASCHPHINI* Afri-
cæ Regis opem per litteras implorat.
Eum inde advenientem *EBN ABAD* læ-
tus cum cæteris Hispaniæ Regibus *Hi-
spali* excepit, quos inter recensentur
BADIS BEN HABUS, *BEN GARON*, *BEN
ZAIUN*, *BEN ALAPHTHAS*, *BEN ZE-
NON*. Hos ille sibi comites adjungens,
castra prope urbem *Badajoz* metari jus-
sit. Obvius illi fit *ALPHONSUS* cum qua-
draginta equitum, & centum pedi-
tum millibus. Magnis utrinque animis
die ac nocte pugnatum est. *ALPHON-
SO* tandem victo fugatoque, *JOSEPHUS*
Hispaniarum Imperator salutatur. Ex
Supplemento ALHOMAIDI.

„ *Hamudita* iterum regnant, in
„ his *EDRISUS*, *ALHASSANUS*, *ALALEUS*,
„ *ALMAHADEUS*, *ALMOUAPHAKEUS* & co-
„ rum ultimus *ALMOSTALEUS*, qui *Cor-
„ duba*, *Septa*, & in oppido *Raia* tur-
„ bu-

„ bulentis temporibus summâ rerum
„ potiti sunt. (a)

N O T A.

Hamudita, qui ab *Edrisitis* Mauritaniæ Regibus genus duxisse creduntur, varium variis tempestatibus in Hispania imperium habuere. Illorum primus *ALI BEN HAMUD*; secundus illius frater *ALCASSEMUS*; tertius *IAHIA ALI*, filius, qui *Cordubâ* potiti sunt usque ad annum *Egira* 417. quartus *EDRISUS*, *IAHIAE* frater, qui captâ *Septâ*, *Malacâ*, & *Almeriâ*, Hispaniarum Rex, nomine *ALMETAIED* renunciatus est; quintus *ALHASSANUS*, *EDRISI* frater; sextus *EDRISUS*, *IAHIAE* filius, *ALI* nuncupatus, Princeps justitiâ, integritate, liberalitate & doctrinâ suis carissimus; septimus *MOHAMAD*, *EDRISI* patruelis, *ALMAHADI* dictus; octavus ejus filius *ALCASSEMUS*, cognomine *ALMOSTALI*, qui anno *Egira* 445. decessit. Ex *Supplemento ALHOMAIDI*, & ex *EBN ALABARO*, qui eorum cum *Abaditis* prælia uberius describunt.

„ *MONDER BEN IAHIA BEN HOSN*,
„ *Casar Augusta* Rex, munificentia &
„ humanitate in Principum Legatos
„ insignis, & ad pericula declinanda
„ sagacissimus, tandem interiit. (b)

N O T A.

MONDER BEN IAHIA ALTAGIBI ABA ALHAKEM, *Casar Augusta* Rex, qui *AL-Tom. II.*

MANSOR dicitur, fortitudine & bellica virtute clarissimus, *Granatam* venit: ubi ab *ABDALLA BEN ALHAKEMO*, copiarum Duce, sibi propinquitate conjuncto interfectus est anno *Egira* 430. die 10. mensis *Dilhagiat*. Ex *Bibliotheca EBN ALKHATHIBI*.

„ Cujus in Regnum successit *SOLIMANUS BEN HUD ALGIOZAMI*. Is ejusque posteris ob res præclare gestas Historicis maxime celebrantur. Eorum agmen claudit *ABDELMALEKUS BEN AHMAD BEN SOLIMAN*. (c)

N O T A.

Regum *BENI HUD*, qui *Casar Augusta* post *ALMONDERUM* imperitarunt, seriem attexit diligentissimus Scriptor *EBN ALABARUS*: quam etsi alibi à nobis adductam, hic tamen subjici rerum ordo maxime postulat.

Illorum ergo primus, *SOLIMANUS ABU AJUB BEN MOHAMAD*, *ALMOSTAIN BILLA*, qui regnare cœpit mense *Moharamo*, anno *Egira* 431. ad annum usque 438. quo obiisse traditur.

Secundus, ejus filius *AHMAD ABU GIAPHAR*, cognomento *ALMOCTADERUS*, Rex potentissimus, qui urbem *Barbastro* dictam Christianis eripuit. Mortuus est anno 474.

Tertius, hujus filius *JOSEPHUS ABU AMER ALMUTAMENUS*, qui diem obiit anno 478.

Quartus, ejusdem filius *AHMAD ABU*

Dd 2 GIA-

(a) ثم بنو حمود أيضا ملكوا وبعده ادريس ثم الحسن وبعده العالي ثم المهدي والموفق واخر الادراس المستعلي تملكوا بولاية قرطبة وسبتة في دول مضطربة

(b) ومنذر بن يحيى بن حصن الامير المتغلب بسر قسطة وكان كريما مكرما للقصاد متوغلا في ممالات العدو فمضي بسبيلة

(c) وابن هود الجزامي سليمان بن هود وله ولعقبه اخبار شهيرة الي ان انقرض امرهم علي عبد الملك بن احمد سليمان

GIAPHAR, *ALMOSTAIN BILLA*, qui in prælio apud urbem, vulgò *Tudela*, occubuit anno Egiræ 503. Christi 1109. feriâ 1. die 1. mensis Ragebi.

Quintus, ejus filius *ABDELMALEKUS ABU MARUAN OMADALDAULAT*, quo Rege, Christiani *Casaraugustam* recuperarunt, anno videlicet 512. Christi 1118. feriâ 4. die 4. mensis Ramdani, quique obiit in oppido *Roda* mense Schabano, anno Egiræ 524.

Sextus & postremus, *AHMAD ABU GIAPHAR, ABDELMALEKI* filius, qui *SAPHALDAULAT, ALMOSTANSER BILLA*, & *ALMOSTAIN BILLA* nuncupatus est, ceciditque in prælio victus ab *ALPHONSO* Rege, *RAIMUNDI* filio, apud oppidum *Albazete* non procul ab urbe *Chinchilla* anno Egiræ 540. die 20. Schabani.

„ Extinctis *BENI HUD Casaraugustæ* Regibus, *MOHAMAD JOSEPHI* filius, ejusdem familiæ superstes, vir strenuus & rei militaris peritissimus, adnitante *EBN ALADH, Murcia* Principatum obtinuit: cui & postea successit ejus filius *ALUATEKUS*. Fertur ille Calipham *ALMOSTANSERUM Abbassidam* Regem agnovisse. (a)

„ Urbem autem *Badajoz* Reges *BENI ALAPHTAS* dicti habebant, quorum Princeps *MOHAMAD BEN ABD-*

„ *ALLA BEN MOSLAMA ABU BAKERUS*, qui humili loco in Africa oppido, nomine *Tagib*, natus est. Hic Orator eruditus fuit. Ex ejus verò scriptis extat præstantissimum illud Annalium opus, *Memoria* inscriptum, tomis L. comprehensum. Ejus pater *ABDALLA*, si *EBN HAIANO* Scriptori fides, ortu *Meknasensis*, Regi *SABURO* à secretis fuit, hujusque Regnum arte usurpavit: quod & *ABU BAKERUS MOHAMAD ALMODHPHERUS* ejus filius postea jure hæreditario sibi vindicavit. Eo mortuo, Principatus ad hujus filium *OMARUM*, eorum ultimum, ac infelicissimum Regem pervenit, imperitantibus eâ tempestate *Lamtunitis*, qui cæteros Hispaniarum Reges, ut nemini latet, sibi subjecere. (b)

N O T A.

Familiæ, quam *BENI ALAPHTAS* appellamus, Historiam, gravemque casum celebriores Historici ac Poëtæ persequuti sunt. Hos inter sanè eminent *BEN HAIANUS Cordubensis*, *BEN ALABARUS*, & nobilissimus Poëta *ABU MOHAMAD ABDELMAGIDUS*, vulgò *BEN ABDUN*. Ex quorum monumentis hæc sunt excerpta. *ABDALLA BEN MOSLAMA BEN ALAPHTAS*, natus *Meknasa*, nulla pa-

(a) وكان من أعقاب الامير محمد بن يوسف بن هود الجزامي وكان جاسلا شديدا
الباس ودايع المستنصر العباسي ثم ابنة الواثق نال عهده بمرسية

(b) وفي بطليموس قوي ابن الانطس هو الحاجب المنصور ابو بكر محمد بن عبد الله
بن مسلمة اصله من تجيب وكان اديبا جليلا من تواليقه الكتاب المسمى
بالتذكرة في خمسين مجلدا وقال ابن حبان كان عبد الله اجوه من مكناسة
خدم سابور الفتي ببطليموس وتغلب عليه ثم ورث ملكه المظفر ابا بكر محمد
ثم انتهى الي عمر ابنة وكان صبورا عند ما تغلب اللمتوزيون علي روسا الطوايف بما
هو معروف

parentum laude commendabilis, ingenio tamen & prudentiâ clarus, apud *SABURUM Lusitaniae* Regem, gente *Persam*, unum ex Caliphæ *ALHAKEMI ALMOS-TANSERI BILLA* famulis, Viziri munus ita gessit, ut post ejus mortem Regno usurpato, Regis insignia, *ALMANSORIS* nomine, sumeret. Huic postea successit filius *MOHAMAD ABU BAKERUS*, alias *ALMODHPHERUS* nuncupatus, Princeps eruditione nulli secundus, qui anno Egiræ 460. vitæ finem implevit. Regni gubernacula suscepit ejus filius natus major, *IAHLA ALMANSOR* dictus: quo mortuo, ad solium evectus est minor frater *OMARUS*, cognomento *ALMETUAKELUS*, omni litterarum doctrina ornatissimus, quem *SIRINUS BEN ABU BAKERUS*, supremus *Lamtunitarum* Dux, vitâ & regno unâ cum duobus filiis, nomine *ALPHADHL* & *ALABBAS*, privavit anno Egiræ 487. feriâ 7. die 2. mensis Moharami. *EBN ALKHATHIBUS* clarissimam de hac ipsa familia mentionem facit in *Bibliotheca Arabico-Hispana*, Orationum & Carminum, quæ Rex *OMARUS ALMETUAKELUS* edidit, specimen referens.

„ Per ea verò tempora *Granata*
 „ degebat *HABUS BEN MAKSAN BEN*
 „ *ZIRI BEN MANAD BEN MALEK*, Vi-
 „ zirus, (Regis *SOLIMANI BEN ALHAKEMI*, cognomento *ALMANSORIS*) qui *Il-*
 „ *liberim*, cæteraque loca adjacentia per
 „ annos septem sibi vindicavit; inde
 „ in *Africam* ad suos trajecit anno Egi-

„ ræ 420. In ejus locum successus est
 „ *HABUS EBN MAKSAN* ex fratre ne-
 „ pos, qui rebus præclare gestis, tan-
 „ dem mortuus est. Regnum obtinuit
 „ ejus filius *BADIS* felicitis memoriæ. Hic
 „ Regni finibus prolatis, magnaque
 „ nominis celebritate partâ, decessit.
 „ Rerum exinde potitur ex filio nepos
 „ *ABDALLA BEN BALKIN BEN BADIS*,
 „ quem *Lamtunitarum* Dux pulsum, ad
 „ oppidum *Agmeti* relegavit anno Egi-
 „ ræ 483. (a)

N O T A.

HABUS, gente *Afer*, nobilis *Sanhagita*, unus ex Ducibus Regis *SOLIMANI BEN ALHAKEMI*, vir sanè fortissimus, armisque exercitatissimus, discordiis civilibus exortis, *Granatam* occupavit anno Egiræ 403. illiusque Princeps renunciatus est. Post septennium trajecto mari, in patriam secessit, successore in ipsius locum *HABUSO* fratris filio, qui diem obiit anno Egiræ 429. Ei successit ejus filius *BADIS*, alio nomine *ALHAGEB ALMODHPHER*. Hic factus est anno 465. Principatum postea obtinuit ejus nepos *ABDALLA BEN BALKIN BEN BADIS*, ultimus *Granatae* ex hac familia Princeps, varia eruditione excultus, qui anno 483. à *JOSEPHO BEN TASCHPHIN* cum cæteris Hispaniæ Regibus Granatensi regno exutus, in oppido *Agmeti*, quod ab urbe *Marocho* miliaribus plus, minus XXIV. distat, è vita demigravit.

Ex

(a) وحل في غرناطة حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد بن ملكي الحاجب المنصور فورث البيرة وما جاورها نحو سبع سنين ثم رحل عن الاندلس الي بلاده عام عشرين وأربعماية واستخلف ابن اخيه حبوس ابن ماكسن فتوسع النظر الي ان مات وولي بعده ولده باديس الحية الزكر فضخم ملكه واشتهرت سطوته وتصير الامر الي حفيده عبد الله بن بلقين بن باديس وخلفه امير لمتونة سنة ثلاث وثمانين واربعماية وغرجه الي اغمات

Ex Bibliotheca Arabico-Hispana EBN ALKHATHIBI.

„ Primus ex Stirpe BENI ZENON „ Toletum invasisse fertur ALHAGEB AL- „ MODHPHER ISMAEL BEN ABDELRAH- „ MAN BEN ZENON , qui ALNASSER „ ALDAULAT appellatus est. Huic suc- „ cessit filius IAHLA , dictus ALMAMON, „ & DILMAGEDAIN. Postea regnavit ejus „ nepos IAHLA , cognomine ALDHA- „ PHER , cujus opera atque ope AL- „ PHONSUS , FERDINANDI filius, Toletum „ urbem in suam potestatem redegit, „ ut fusiùs suo loco dictum. (a)

„ Almeria verò Rex erat DHA AL- „ VAZRATIN ABA ALAHUAS MAN EBN „ MOHAMAD BEN ABDELRAHMAN BEN „ SAMADEH , vir consilio , ingenio , & „ eloquentiâ Hispanorum nulli secun- „ dus , qui Almeria rerum post ZOHAI- „ RUM SCALAEÛM Regem potitus est. „ Eo mortuo , Regnum adeptus ejus „ filius MOHAMAD ABU IAHLA , qui Al- „ meriam urbem obsidentibus Lamtu- „ nitis , naturæ concessisse memoratur. „ Quamobrem ejus filius , HESAM AL- „ DAULAT cum suis domesticis ad Hi- „ spaniæ Orientalis confinia profugere „ coactus est. (b)

N O T A.

DHA ALVAZRATIN ABA ALAHUAS

MAN à Casarauguste Regibus ALTAGI- BITIS genus ducere traditur. Ejus pater MOHAMAD ABU IAHLA bello civili , reli- ctâ Oscâ , ubi regnabat , Valentiam ad illius Principem ABDELAZIZUM ABULHAS- SAN BEN ABI ALAMER , cognomine AL- MANSOREM , se contulit , qui illum hu- manissimè excepit , sororesque , quas ha- bebat , duas duobus ejus filiis MANO ABA ALAHUAS supra laudato , & SAMA- DEHO ABA OTBAT in matrimonium de- dit. ZOHAIRO gente Dalmata , Alme- ria Rege interfecto , hujus regnum ope MANUS ABA ALAHUAS soceri ob- tinuit anno Egiræ 443. Is morti pro- ximus , in folio collocavit filium MO- HAMAD ABU IAHLA annos XVIII. na- tum , qui primùm MOEZELDAULAT , in- de ALMOTESEM BILLA & ALVATEK BIL- LA nuncupatus est : nullo sanè Princi- pum humanitate , justitiâ atque do- ctrinâ inferior , ut ex multis ejusdem versibus ab EBN ALABARO relatis planè liquet. Fato concessit mense Rabio posteriori , anno Egiræ 484. quo tempore ALMORABITÆ Almeriam fame multoque milite obsidebant. Ex EBN ALABARO.

„ Urbem Tadmir THAHARITÆ ha- „ bebant quorum Princeps ABU ABD- „ ALLA DUALAZRATIN Murcia Rex. Hic, „ captâ Valentiâ , inter captivos du- „ ci-

(a) أول من ثار بطليطلة هو الحاجب الظافر اسمعيل بن عبد الرحمن بن ذنون الملقب بناصر الدولة ثم عهد الي ابنه يحيي الملقب بالممامون ذي المجدين ثم ملك بعده حفيده ايضا يحيي الملقب بالظافر وحصل ادفونش بن فردند بسببه علي ملك طليطلة بخبر طويل

(b) وقام بالمريّة ذا الوزارتين ابا الاحوص معن ابن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح وكان رجل الثغر رايا وزهنا ولسانا وولي المريه بعد زهير الصقلبي ثم تصير الامر الي ابنه ابي يحيي محمد ومات في زمن حصار اللمتونيين اياه وفر ابنه الملقب بجسام الدولة الي العدوّة الشريقيّة فاستقر بها في جملته

„ citur. ABDELAZIZUS verò EBN ABD-
 „ ELRAHMAN BEN ALMANSOR MOHAMAD
 „ BEN ABI AMER, patre extincto, ad
 „ ALMONDERUM BEN IAHA *Cæsaraugu-*
 „ *stæ* Regem confugit, ibique mortuus
 „ est anno Egiræ 352. (a)

N O T Æ.

THAHARITARUM Familia opibus & generis antiquitate in Hispania quàm maximè floruit; complures enim enumerat Duces, aliosque viros tum litteris, tum bellica virtute spectatissimos, quos suo ordine refert diligentissimus Scriptor EBN ALABARUS.

Eorum omnium primus censendus est MOHAMAD ABU ABDELRAHMANUS, *Tadmiri* Prætor; secundus ejus filius ABDELRAHMANUS, qui, adnitente ZOHAIRO *Almeriæ & Murcia* Rege, *Murcia* Regnum adeptus est; tertius, qui Regis insignia sumpsit, AHMAD ABU ABDALLA, Princeps fortitudine & multiplici eruditione clarus. Is, *Valentiâ* in Christianorum potestatem redactâ anno Egiræ 487. ibidem miserè periit anno Egiræ 508. Christi 1114. feriâ 4. die 24. mensis Gemadi posterioris.

ABDELAZIZUS autem EBN ABDELRAHMAN, de quo supra, fuit *Valentiæ* Rex: cui postea successit ejus filius ALMODHPHERUS ABDELMALEK, quem Regno ejus locet ALMAMUNUS IAHA BEN ISMAEL BEN ZENON, *Toleti* Rex, spoliavit an-

no Egiræ 457. illud tamen paucis post diebus recuperavit.

„ EBN RAZIN DULRIATSAIN ABU
 „ MARUAN, regionis *Alfahla* dominus,
 „ *Gesamaldaulat* nuncupatus. Regio
 „ autem *Alfahla* est planitie tractus
 „ qui summa & infima confinia inter-
 „ jacet, longè latèque patens; atque
 „ loca permunita habet. (b)

N O T Æ.

Perobscurus est hic locus Scriptoris nostri; neque facilè diluceat, nisi facem GEOGRAPHUS NUBIENSIS præferat *Parte I. Clim. IV. pag. 153.* ubi de hoc ipso tractu sic ait:

„ Cum hac connectitur provincia
 „ *Morbedro*; continetque *Valentiam*,
 „ *Morbedro* & *Berianam*, cum plurimis
 „ *Castellis*. Huic proxima est ex interio-
 „ re parte provincia *Alcrâtem*, in qua
 „ sunt civitates *Elicante*, *S. Maria*
 „ quæ & ab EBN-RAZIN denominatio-
 „ nem sumit. Et pag. 159. ait: Ab ur-
 „ be *Vadilhagiara* ad urbem *Salem* ad
 „ Orientem milliaria quinquaginta. Ab
 „ eadem ad urbem *S. Maria* BEN-RAZIN
 „ tres modicæ stationes. Et ab eadem
 „ quoque ad *Elicant* stationes quatuor.
 „ Distat autem *S. Maria* ab *Elicant*
 „ duabus stationibus: Et tam *S. Maria*,
 „ quàm *Elicant* sunt urbes conspicuæ.

Ex quo liquet Principum BEN RAZIN dominium ab urbe *S. Maria* ad ur-

(a) وكان في تدمير ال طاهر لبني طاهر جمرسية الرياسة ووزعيم بيتهم ذوالوزارقين
 ابو عبد الله ومدله في البقا الي ان اسر عند التغلب علي بلنسية وعبد العزيز ابن
 عبد الرحمن بن المنصور محمد بن ابي عامر كان عند هلاك ابيه قد لجا الي المنذر
 بن يحيى بالتغر ومات حتق انفة سنة اثنتين وخمسين وثلاثماية

(b) وا بن مرزبن قايم بالسهلة هو ذوالرياستين ابو مروان عبد الملك بن مرزبن
 وكان يدعي بجسام الدولة والسهلة بلد كبير وسط بين الثغر الاعلي منها والادني
 شهير المنعة

urbem *Alicante* usque longè latèque prolatum fuisse.

Hunc Tractum GEOGRAPHUS NUBIENSIS modò laudatus CARTHAMI, sive *Croci* regionem appellat; quòd fortè illius copia lætior ibidem crescit.

Urbem autem *Santa Maria*, quam Hispani *Albarracin* vocitant, Scriptores Arabes oppidum *Ben Razin* passim nominant. Cæterum ut hujus ab altera illa urbe *Santa Maria* discrimen statuunt, hanc Occidentalem, Orientalem illam dixere.

ABDELMALEKUS ABU MARUAN nobilissima stirpe *Beni Razin*, aliàs *Ben Alaslag* ortus, patri AZALDAULAT ABU MOHAMAD HAZILO qui urbem, vulgò *Santa Maria*, habebat, successit. Inde planitiem *Alfabla*, quæ longè latèque patet, occupavit. Hujus Dynastiæ seriem contexit EBN ALABARUS hoc ordine: HAZIL omnium primus regnare cœpit anno Egiræ 401. Successit illius frater ABDELMALEKUS BEN KHALAPH ABU MARUAN, vulgò *ABUD*; sequitur hujus filius HAZIL; inde ABDELMALEKUS, HAZILI filius; tandem ejus filius IAHLA, illorum ultimus. Cæterum ABDELMALEKUS ABU MARUAN BEN RAZIN, de quo EBN ALKHATHIBUS noster, Poëta fuit insignis & Orator clarissimus, ut ejusdem carmina ab eodem laudata testantur. Diem obiisse traditur anno Egiræ 496.

„ Nec *Dalmatis* defuit in Hispania imperium, quod eorum non pauci, favente AMERITARUM Dynastia,

„ adepti sunt, quos inter censentur fer-
„ vi duo Principis ALMANSORIS BEN
„ ABI AMERI, KHAIRAN nimirum ma-
„ gnus *Almeria* Rex, & ZOHAIUS De-
„ nie Princeps, ut & MOGLIAHEDUS;
„ MODHPHERUS verò & MOBAREKUS,
„ atque LEBIBUS *Valentia* Reges. (a)

N O T A.

Dalmata, præcipua Principis ALMANSORIS Cohors, & potentissima *Ameritarum* Dynastiæ factio, post ALMANSORIS obitum imperia cœperunt, ac varia bella discordiis civilibus gesserunt; idque ab anno Egiræ 400. ad annum 452. Consule *Historiam Arabum* RODERICI TOLETANI.

„ R E G U M „ ALMORABITARUM „ S E R I E S.

„ LAMTUNITÆ, seu SAHRAVITÆ à *Lam-*
„ *tuna* in Africa Deserto nomen ha-
„ bent, unde cum triginta camelorum
„ millium apparatu profecti, *Segelmef-*
„ *sam*, fulo *Zanaitarum* Rege, oc-
„ cuparunt. Eorum primus Dux IAHLA
„ BEN OMAR BEN ABRAHAM, AMIRA-
„ LHAK, *Dux veritatis* nuncupatus, qui
„ eos fœdere junxit; secundus illius fra-
„ ter ABU BAKERUS; tertius ejus nepos
„ JOSEPH BEN TASCHPHIN, qui Africa
„ & Hispaniæ Rex tandem fuit. (b)

„ Quum ergo de Hispaniarum Re-
„ gibus prope actum esse videretur, eo-
„ que

(a) وكان الصقلب أيضا عدة وثبتهم دولة ال عامر يعني فتیان المنصور بن ابي عامر فمنهم خيران وكان ملكا كبيرا ملك المردية وما يليها وزهير ومجاهد ملك مدينة دانبة ومظفر ومبارك ملكا بلنسية ثم لبيب بعدهما
ذكر دولة المرابطين من لمتونة

(b) دولة اللمتونين والصعراوين وانهم خرجوا من الصحرا في ثلاثين الف رجل مسرج ففتحوا سجلماسة وجرت بينهم وبين ملوك زناتة حروب اجلت عن ظهورهم علي

„ que maximè, quòd illi per ea tem-
 „ pora otio ac voluptatibus dediti, se
 „ ita ad Christianorum Regis arbitrium
 „ fingerent, ut ei certa tributa perfol-
 „ vere, ejusque implorato auxilio, mu-
 „ tuis sese armis impetere non du-
 „ bitarint; factum est, ut ipse eo-
 „ rum opibus præpollens, bonam Hi-
 „ spaniarum partem iisdem eripuerit.
 „ Id ægrè ferens *ABULCASSEMUS BEN*
 „ *ABAD*, cognomine *ALMOTAMAD*, *Hi-*
 „ *spalis* Rex in Africam trajecit, ubi
 „ *JOSEPHO BEN TASCHPHINO* statum Rei-
 „ publicæ Mahometanæ jam inclinatæ
 „ demonstrans, navales ab eodem copias
 „ petiit. (a)

„ Rumore adventûs *JOSEPHI BEN*
 „ *TASCHPHINI* pervulgato, Christiano-
 „ rum Rex statim exercitum coegit
 „ ex *Gallacia* & *Castella* Regionibus;
 „ eumque proximè *Badajoz* movit.
 „ Huc classe instructus, trajecto mari,
 „ *JOSEPHUS* pervenit, junctisque Ara-
 „ *Tom. II.*

„ bum Hispanorum viribus, illi occur-
 „ rit apud locum nomine *Zalaca* an-
 „ no *Egira* 479. Christi 1086. feriâ
 „ 4. die 13. mensis *Ragebi* (Scriben-
 „ dum *feriâ* 6. ut rectè animadver-
 „ tit *EBN ALABARUS*). Comittitur itaque
 „ prælium, in quo, fuso Rege *AL-*
 „ *PHONSO*, innumerabiles cecidere Chri-
 „ stiani. (b)

„ Itaque *JOSEPHUS*, victoriâ à
 „ Christianis reportatâ, quotquot in
 „ Hispaniis imperia occupaverant, si-
 „ bi subjicere decrevit. Quare *Gra-*
 „ *natam* Regi *ABDALLE BEN BALKIN*
 „ *BEN BADIS* eripuit; mox captâ *Al-*
 „ *meriâ*, *EBN ABADUM* Regno *Hi-*
 „ *spalensi* exiit; inde Regem urbis
 „ *Badajoz*, vulgò *EBN ALAPHTHAS*,
 „ in vincula conjecit; denique *Cæ-*
 „ *sarAugustam* cum locis ad eam
 „ pertinentibus, ubi Rex *ALMOSTAI-*
 „ *NUS* imperabat, in suam ditionem
 „ redegit. Postea fato functus est die

Ee

1.

علي البلاد وكان الذي جمع امرهم عبد الله بن ياسين وعقد امرهم يحيى بن عمر
 بن ابراهيم المدعو بامير الحق ثم الي اخيه ابي بكر ثم الي يوسف بن تاشفين
 قولا ملكهم المغرب والاندلس

(a) حتي انا افضي الي فساد امر ملوك هذه البلاد اشارة الي اختلال ميرة من
 تقدم ذكره من امرا الطوائف بالاندلس وانعائهم الي طاغية الروم وقاديتهم الضراب
 له واستعانة بعضهم علي بعض به حتي استخلص الكثير من بلاد الاندلس واموالها
 انتدب الامير ابو القاسم بن عباد المعتمد واجاز الي المغرب متارحا علي الامير
 يوسف ابن تاشفين في نصرة الاسلام واعانه بالاساطيل

(b) لما شاع الخبر بقدم يوسف بن تاشفين شرع الطاغية ملك النصارى في
 الاجتساد واجاز ملك المرابطين البحر في جيش الاسلام والنق عليه جيش الاندلس
 وكان جماع المسلمين باخوانهم بظاهر بطليوس وجراد فونش في العشد برستاق
 جليقية واقليم قشتالة ودم بطليوس وكان اللقاء بفحص الزلاقة يوم الاربعاء الثالث
 عشر لرجب عام تسعة وسبعين واربعمائة وهزم الله الكافرين فهلك منهم ما لا
 يحصى عدده

1. Moharami, anno Egiræ 500. (a)
 „ Cui successit ex testamento ejus
 „ filius *Ali*, qui consilio, clementiâ,
 „ & fortitudine unus omnium maxi-
 „ mè claruit. Eo enim Rege, non se-
 „ mel hostibus fufis, complures urbes
 „ expugnatae sunt. Deo tamen permit-
 „ tente, graviter ab *ALMAHADÆO* *Almo-*
 „ *haditarum* Principe, adversus quem
 „ plura praelia, eaque notissima susce-
 „ perat, ut postea suo loco dicemus,
 „ tandem afflictus est: adeo ut *ALMA-*
 „ *HADÆUS*, labefactatis illius viribus,
 „ oppidum *Darat*, *Tamegerat*, atque
 „ alia in suam potestatem redegerit.
 „ Diem obiit anno Egiræ 537. (b)
 „ De *Darat*, vel *Dara* agit *LEO*
 „ *AFRICANUS* *Lib. IX. pag. 287.* de *Ta-*
 „ *megerat*, quod ipse *Tumeglastum* vocat,
 „ *Lib. II. pag. 57.*
 „ Rerum postea potitus est ejus fi-

lius, nomine *TASCHPHINUS*, jam Prin-
 „ ceps *Granata*, proindeque Hispaniæ
 „ Rex designatus, vir probatae vitæ,
 „ & bellica virtute clarus. Hic à patre,
 „ dum in vivis erat, ut *Almohadita-*
 „ *rum* impetum retardaret, copiis
 „ præfectus fuit; sed infausto Marte
 „ cum iis ita pugnavit, ut eorum fu-
 „ roris tanquam scopus constitutus,
 „ *Oranum* profugerit anno Egiræ 539.
 „ mense Schabano. Quum autem *Al-*
 „ *mohaditarum* exercitus eum magis
 „ magisque urgeret, ipse rebus de-
 „ speratis, suisque relictis, nocte velo-
 „ cissimum, quem habebat equum, as-
 „ cendit: quo concitato, præcepit in fo-
 „ veam ruit. *Almohadita* ubi eum pos-
 „ tero die jam mortuum invenere, cor-
 „ pore de stipite palmæ suspenso, *Al-*
 „ *mohaditarum* Proceres, qui in præ-
 „ fidiis erant, trucidarunt. (c)

NO-

(a) ولما فرغ يوسف بن تاشفين من ازعاج الروم وظهر عليهم كر علي مروساهم فاذنزل
 عبد الله بن بلقين بن باديس من مدينة غرناطة ثم ثني بادن عباد وافتتح المدينة
 وقبض علي ابن الافطس صاحب بطليوس وتملك ملك المستعين بسرقسطة وما اليها
 اخر الامر ثم توفي مستهل محرم سنة خمس مائة

(b) واقضي امره بالعهد الي ولده علي وكان ملكا اصيل الراي راسخ اركان
 العلم وفي زمانه كان امرعان دولتهم وانثالت في مدته فتوحات وهرايم علي العدو
 ثم رماه الله بالمهري يعني بن القايم بدعوة الموحدين حسبما ياتي في موضوعة
 وجرت بينه وبين المهري حروب شهيرة وحطوب مبيرة واعتل وعظم الارحاب واستولي
 المهري علي بلاد درعات وتامجرات وغيرها وتوفي عام سبعة وثلاثين وخمسمائة

(c) ثم تولي الامر تاشفين وعنده شجاعة ودين هو ولده الامير بغرناطة المستخلف
 علي الاندلس وكان قد استقدم الي مدافعة اصحاب المهري فلم ينجح امره وصار
 قيار تلك الدولة المقبلة الي ان لجا منهزما الي وهران في شعبان من عام تسعة
 وثلاثين وخمسمائة وفازلته جيوش الموحدين فلما راي ما لا يطيقه ودع جملة
 وخرج ليلا واقحم فرسا عتيقا كان له في اوغار طريقه فتردي به في بعض الاخادير
 فوجد ميتا صبيحة الليلة المذكورة وصلب علي جذع واستنزل من بقى بالحصن من
 اعيان قبيلة علي حكم عدوهم فاستاصلهم القتل

NOTA.

ALMORABIDÆ, quod nomen Latine sonat *Confederati*, *LAMTUNITÆ* etiam vocitantur à desertis *Lamtuna*, seu *Lemta*, ut habet *LEO AFRICANUS* ad pag. 245. necnon *MOLATEMUN* à *velata facie*, quippe qui cum foeminis bellicosissimis ita velati pugnare in hostes solebant. Id hominum genus ex varia Arabum turbâ conflatum, in commune veluti Monachi vivebant. A principio Christianam religionem, deinde Mahometanam sectam professi sunt. Magnam potestà *Africa* partem armis subegere. Prima hujusce Dynastiæ fundamenta jecit *JOSEPHUS BEN TASCHPHINUS*, Princeps bellica virtute, justitiâ & amore in literas præstantissimus. Is inclarescere cœpit anno Egiræ 465. anno verò 479. *ALPHONSO* pugnâ superato, devictisque aliis Hispaniæ Regibus, *Africa* & *Hispania* Imperatoris insignia induit. Obiit tandem feriâ 2. die 3. Moharami, anno Egiræ 500. in urbe *Marocho* ab ipso, ut refert *EBN KHALKANUS*, anno 470. condita. Ex Bibliotheca *EBN ALKHATHIBI*.

REGES ALMOHADITÆ.

„ *Almohaditarum* Auctor & Princeps fuisse traditur Pontifex quidam „ *ALMAHADI* vocatus, videlicet *MOHAMAD BEN ABDELRAHMAN BEN HUD* „ *BEN KHAELD BEN TAMAN BEN ADNAN BEN SOPHAN BEN SAPHVAN BEN* „ *Tom. II.*

„ *GIABER BEN IAHA BEN ATHA BEN* „ *RABAH BEN IASIN BEN ALABBAS BEN* „ *MOHAMAD BEN ALHASSAN BEN ALI* „ *BEN ABI THALEB*, qui anno Egiræ „ 486. natus, Propheticum munus sibi vindicavit anno ejusdem Ætæ „ 515. Ut autem bonam apud homines opinionem sibi pararet, primum in Asiam se contulit, ubi Doctorem „ *ABU HAMEDUM* (vulgò *ALGAZALI*) audiit; inde in Africam profectus, totus fuit in collapsa sectæ Mahometanæ disciplina restituenda. Hinc convocatis ad Regem *ALI JOSEPHI* filium „ Marochanis Doctoribus, acriter cum illis de morum corruptela disputavit, Imperii excidium inde portendens. Ferunt eum magni nominis fuisse Theologum, Traditiones omnes è medio sustulisse, divinoque, ut ipse jactabat, spiritu afflatum, futura præcuisse. Quo factum, ut plures suæ sectæ invenerit assecras, quos in varias pro variis muneribus distribuit classes, eorum videlicet qui officia domestica obirent, & qui Republicæ consulerent. Quinquaginta Principes creavit, ac Magistratus septuaginta; necnon plures Præceptores constituit ac milites, qui Rempublicam tuerentur. Inter celebratissima illius prælia illud in primis occurrit, quod ad Lacum *Marochanum* commissum est. Vitæ finem denique implevit anno Egiræ 524. feriâ 4. (rectius feriâ 3.) die 3. Ramdani. (a)

Ee 2

„ Post

(a) ذكر الموحدين ملوك المغرب والاندلس

الامام المهدي هو القايم بدعوة الموحدين وهو محمد بن عبد الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عردان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن عطا بن رباح بن ياسين بن العباس بن محمد بن الحسن بن علي بن ابي طالب مولده سنة ست وثمانين وأربع مائة وقيامه بالدعوة سنة خمس عشرة وخمسمائة وساح بالمشرق ولقي ابا حامد واخذ عنه ثم صرف وجهه الي المغرب داعيا حريصا علي المنكرات واحضريين

„ Post *ALMAHADI* in Pontificatum
 „ successit *ABDELMUMEN BEN ALI BEN*
 „ *ALVI BEN IALI BEN MARUAN BEN*
 „ *NASSER BEN ALI BEN AMER BEN MU-*
 „ *SA BEN AVNALLA*, qui ita fortiter se
 „ gessit, ut Africam atque Hispaniam
 „ ipsam armis suo imperio subjecerit,
 „ idque anno *Egiraë* 540. mense *Dilha-*
 „ *giat*. Fato functus est in urbe *Sala*
 „ (vulgò *Salé*) anno 558. feriâ 3. die
 „ 8. *Gemadi posterioris*. (a)

„ In ejus locum suffectus est *Jo-*
 „ *SEPHUS ABU IACOB*, qui anno *Egiraë*
 „ 566. mense *Schevalo* in Hispaniam
 „ trajecit, ubi dissensionibus extinctis,
 „ rebusque Regni compositis, expedi-
 „ tionem adversus Christianos suscepit;
 „ atque hinc prolatis Imperii finibus,
 „ ædificium Templi maximi, quod *Hi-*

„ *spali* visitur, aggressus est. Denique
 „ ab urbe *Santarem* redux, vulnere
 „ accepto, diem obiit sub finem men-
 „ sis *Rabii posterioris*, anno 580. in
 „ urbe *Beja*, id est *Pax Augusta*. (b)

N O T A.

JOSEPH BEN JACOB doctrinâ, rectâ
 Imperii administratione & rerum me-
 morabilium gloriâ maximè enituit. *Al-*
mohaditarum primus *Marochum* occu-
 pat. Hispaniam multis munivit præfi-
 diis; multa bella gessit; oppidum *Ve-*
lez expugnavit. Filios habuit decem &
 octo. Obiit die 28. *Rabii posterioris*,
 anno *Egiraë* 580. annum agens XLVII.
 quum annos XXI. menses 10. dies 10.
 regnasset.

„ Post patrem rerum potitus est
 „ ejus

وأحضر بين يدي علي بن يوسف وجرت بينه وبين الفقهاء محاوراة ووسع أبقاؤه لما
 في غيب الله من فساد دولته قالوا كان يزعم أنه مأمور بنوع من الإلهام وبنكر
 كتب الرأي والتقليد وله باع في علم الكلام وكان ينتحل القضايا الاستقبالية
 ورتب قومه تقريباً فمنهم أهل الدار أهل الجماعة أهل خمسين أهل سبعين وأهل
 الطلبة والحفاظ وأهل القبائل وأوقع الوقائع الشهرة أي وقعة البحيرة بأحوار مراكش
 وتوفي في يوم الأربعاء ثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان عام أربعة وعشرين
 وخمسمائة ٥٨٠

(a) وكان عبد المؤمن الخليفة بعده بن علي بن علوي بن يعلي بن مروان بن نصر
 بن علي بن عامر بن موسى بن عون الله ولم ينزل أمره من بعد المهدي يزيد ظهوراً
 حتى فتح البلاد ودخلت في دعوته الأقطار وأجانب جيوشه الي الأندلس في ذي حجة
 من عام أربعين وخمسمائة توفي بسلا يوم الثلاثاء الثامن لجمادى الآخرة عام ثمانمائة
 وخمسين وخمسمائة ٥٨٠

(b) ووديع ولده يوسف المكنى بابي يعقوب بالخلافة وفي عام ستة وستين أجاز
 الأندلس فسكن الدرهما ووطر الملك وذلك في شوال من هذه السنة ثم غزا بلاد السروم
 وأعظم النكاته وشرع في بناء المسجد الأعظم بأشبيلية ومن ثم توفي بوادي باجة
 عند رجوعه من مدينة شنترين بجراحة أصابه بها العدو في العشر الآخر من ربيع
 الآخر سنة ثمانين وخمسمائة ٥٨٠

„ ejus filius *JACOBUS*, cognomento *AL-*
 „ *MANSOR*, doctrinâ & virtute insignis.
 „ Accidit autem ut Regius Judex viros
 „ duos, quos scientiâ, consilio & re-
 „ rum peritiâ instructos *ALMANSOR* fi-
 „ bi deligi jussisset, illi proponeret;
 „ hic, inquit, si fidem spectes, Terra;
 „ alter verò, si scientiam, Mare pro-
 „ fectò est. *ALMANSOR*, datâ Judici di-
 „ scedendi copiâ, utriusque fidem at-
 „ que scientiam experiri voluit. Quum
 „ autem eos minùs probasset, talia di-
 „ xisse fertur: Terræ Marisque vitium
 „ jam detectum patet. Rebus ex sen-
 „ tentia in Africa peractis, curam om-
 „ nem bello Hispano impendit. Quare
 „ trajecto mari, *Hispalim* venit, ubi
 „ Christianis Legatis dimissis, exercitu-
 „ que lustrato, in oppido *Alarcos*, pro-
 „ pe quod hostis castra metatus erat,
 „ confedit. Inde initio belli facto, con-
 „ feritur prælium, & acriter utrinque
 „ dimicatur. Mahometani intereà ma-
 „ joribus collectis viribus, in me-
 „ diam aciem irruerunt, ita ut Chri-
 „ stiani penè atriti terga dederint ad
 „ vespertas feriæ 4. die 19. Schabani,

„ anno Egiræ 591. Christi 1194. Quo
 „ quidem in prælio amplis ab hoste re-
 „ latis spoliis, ad triginta Christiano-
 „ rum millia caesa dicuntur. *ALMANSOR*
 „ autem supremum obiit diem *Maro-*
 „ *chi* die 22. Rabii prioris, anno Egi-
 „ ræ 595. ibique sepultus. (a)

N O T A.

Prælium *Alarcos*, quod oppidum
 est haud procul à *Calatrava*, factum est
 die 9. mensis Schabani; non autem
 die 19. ut habet Textus Arabicus,
 quem mendosum suspicor, anno Egi-
 ræ 591. quo *ALPHONSUS*, qui cum
 viginti & quinque equitum, ac bis
 centum peditum millibus, ingentem
 pecuniæ vim Judæis mercatoribus sup-
 peditantibus, *JACOBUM* Regem oppu-
 gnare decreverat, fusus fugatusque
 est, bona illius exercitûs parte gladio
 deleta. Ex *Supplemento ALHOMAIDI*.

„ Ejus filius *MOHAMAD*, cognomi-
 „ ne *ALNASSERUS*, felix adeptus est re-
 „ gnum. Is quum in Africam, ut ex-
 „ citatos ibi tumultus compesceret, se-
 „ contulisset, in Hispaniam rediit. *Ca-*
 „ *la-*

(a) وقام بالامر ابنه يعقوب الملقب بالمنصور وكان من اهل العلم والعمل طلب
 يوما من قاضيه ان يختار له رجلين لغرضين من تعليم ولد وضبط امر فعرّفه برجلين
 قال في احدهما وهو بر في دينه وقال في الاخر هو بحر في علمه ولما خرج اختبرهما
 المنصور ففصرا بين يديه وكذبا الدعوي فقال ظهر الفساد في البر والبحر ولما تم له
 ما اراده من تمهيد بلاد افريقية صرف عنانه الي الجهاد بالاندلس فاجانر البحر
 واحتل باشبيلية ولحققت به ارسال الروم فصرفهم وعرض الجيش ورحل فتزل الارك
 وقد خيمت باحوارها محلات العدو فعند ذلك امر المنصور بالهجوم علي العدو فاختلف
 الفريقان واعتركا وصدقت حملات المسلمين حتي اخلت مراكز العدو فولوا الادبار
 ضحي يوم الاربعاء التاسع عشر من شعبان عام احد وتسعين وخمسماية وانتهيت
 محلات العدو واجلت المعركة عن حصير من القتلي لا يحصي عدده فذكر المقلل
 انه بلغ ثلاثين الفا وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة خمس وتسعين
 وخمسماية توفي المنصور ودفن بمجلس سكناه من مراكش

„ *larrave* autem oppido ab hostibus
 „ (Christianis) ulciscendi cupidus capto,
 „ celatissime à Viziris, quas de rerum
 „ statu copiarum Duces scribebant, lit-
 „ teris; Rex novitatis inscius, re post-
 „ modum pervulgatâ vehementer ira-
 „ tus, ex iis aliquos occidit, quos in-
 „ ter censetur *JOSEPHUS BEN PHARES*.
 „ Quapropter in subditorum odium sic
 „ incurrit, ut quum, mari trajecto, ho-
 „ stem maximo apparatu instructum
 „ in notissimo loco *Alacab* (Hispanis
 „ *Navas*) invenisset, viribus destitu-
 „ tus, ingentem simulque memora-
 „ bilem cladem acceperit. Mox *Hi-*
 „ *spalim* confugit, ubi proditoris su-
 „ spectos interemit. Sed dum copiis
 „ omnibus in re Hispana restituenda
 „ eniteretur, solutâ jam è litore *Salé*
 „ classe, non paulo post è vivis ex-
 „ cessit anno *Egira* 610. feriâ 3. die
 „ 10. mensis *Schabani*. (a)

„ Itaque mortuo *ALNASSERO*, in
 „ ejus locum suffectus est filius *JOSE-*
 „ *PHUS ABU JACOB*, qui *ALMOSTANSE-*

„ *rus* dicitur. Is omni animi remisso
 „ vigore, curam tantum in alenda ani-
 „ malia lucri causâ contulit. Denique
 „ diem obiit anno *Egira* 620. die 13.
 „ mensis *Dilhagiat*. (b)

„ Regnum occupat illius patruus,
 „ nomine *ABDELVAHEDUS EBN ABI JA-*
 „ *COB BEN JOSEPH BEN ABDELMUMEN*
 „ *BEN ALI*. Quo Rege, penès Sena-
 „ tum, ut olim apud *Turcas* in Orient-
 „ te Calipharum temporibus, summa
 „ Imperii erat. Hinc seditiones & re-
 „ gnum turbulentissimum. Nam *ABD-*
 „ *ALLA ABU MOHAMAD*, cognomine
 „ *ALADEL*, imperitandi cupidus, faven-
 „ te Senatu, Regis insignia *Murciae*
 „ sumsit. Quare, eodem adnitente Se-
 „ natu, Rex *ABDELVAHEDUS*, abdicato
 „ imperio, die 13. mensis *Saphari*,
 „ anno *Egira* 621. interfectus est; at-
 „ que in ejus locum *ALADEL* sufficitur.
 „ Verum postea perturbatis etiam *ALA-*
 „ *DELI* rebus, regno & vita à Senatu
 „ spoliatus est. Morum ille integritate,
 „ ac litteris ornatus fuisse traditur. (c)

„ *AL-*

(a) وقام بالامر ابنه الناصر محمد من بعده فاستقامت الامور له وتحرك الي تمهيد
 بلاد افرىقية ثم قفل وقد كلب العدو علي الاندلس واستولي علي قلعة رباح وكانت
 الوزررا تحجب عنه كتب قواد الاندلس بشرح الحال فلما تفاقم الامر اذكر عليهم
 عدم التعرديق وقتل منهم قوما من القواد مثل يوسف بن فارس ففسدت عليه نياتهم
 ولما اجاز البحر ولقي العدو بالموضع المعروف بالعقاب وقد كان احتفل احتفالا
 كبيرا فواقع العدو يومئذ بالمسلمين وقبيلة شهيرة لم يستقل بها بعدها العترة ولحق
 مفلولا باشبيلية فحمل السيف علي طايفة كثيرة ممن توجهت عليه الطنة ثم صرف
 وجهه الي الاندلس في عزم لم يبلغ اليه ملك قبله ولما احتل رباط الفتح من سلا نزل
 به الموت فتوفي ليلة الثلاثاء عاشر شعبان سنة عشر وستمائة هـ

(b) ثم تولي ولده المستنصر ابو يعقوب يوسف بن الناصر وقصرت همته وسنة ع
 الجهاد فلزم محله من مراکش وكان مولفا باتخاذ الحيوان واستنتاج البهايم
 توفي في الثالث عشر من ذي حجة عام عشرين وستمائة هـ

(c) وولي بعده عمه عبد الواحد ابن ابي يعقوب بن يوسف بن عبد المومن بن علي
 وتغلب

„ *ALMAMUNUS ABULALI*, qui in Hi-
 „ spania per id temporis versabatur,
 „ Rex renunciatur. Quumque Senatui
 „ morem gerere nollet; Proceres im-
 „ perio illum exuere, atque in ejus lo-
 „ cum *IAHIAM ALNASSERI* filium suffi-
 „ cere statuerunt. Tum *ALMAMUNUS*,
 „ seu *EDRISUS Hispali* cum ingenti
 „ equitum Christianorum exercitū pro-
 „ fectus, de imperio acriter cum *IAHIA*
 „ dimicavit: qui fufus ad montes fu-
 „ gam properavit, victori Regni jura
 „ cedens. Itaque *ALMAMUNUS*, victoriā
 „ jam partā, *Marochum* occupat anno
 „ Egiræ 624. Christi 1226. feriā 4.
 „ die 22. Scheuali (Substitue feriā 2.).
 „ Coacto postea concilio, Senatū
 „ Procereſque *Almohaditarum* arceſſi-
 „ vit; ac de eorum cauſa Judicibus
 „ conſultis, latāque damnationis ſen-
 „ tentiā, in illos tanquam majesta-
 „ tis reos pœnā capitū animadvertit.

„ Inde quum Pontificis *ALMAHADI* no-
 „ men ex hominum memoria delere
 „ in animo haberet; monetæ inſcriptio-
 „ nem mutavit, atque in priſtinum
 „ ſtatum reſtituit; illum prætereā ex
 „ ſacris ſuggeſtibus diris devovit. Deni-
 „ que quum è prælio, Hiſpaniā ſub-
 „ actā, *Marochum* rediret, in loco *Va-*
 „ *dilabid* ſub finem menſis *Dilhagiat*
 „ anno Egiræ 629. interiit „ (a). *Va-*
 „ *dilabid* fluvius eſt, *LEONI AFRICANO*
 „ *Guadelhabit* dictus; ſonatque *Servo-*
 „ *rum Flumen*, cujuſ deſcriptionem vide
 „ apud eundem *Lib. IX. pag. 284.*

„ Tertio verò die menſis *Mohara-*
 „ mi anni proximi ſequentis ad ſolium
 „ evectus eſt filius *ABDELVAHEDUS ABU*
 „ *MOHAMAD*, *ALRASCHIDÆUS* dictus,
 „ quem *IAHIA*, *ALNASSERI* filius, ab
 „ ejus patre jam expulſus, ut ſupra
 „ dictum eſt, multis præliis, donec
 „ victus occubuit, afflictauit. Quo fa-
 „ ctum,

وتغلب الاشياخ علي الدولة حسبما فعله الاتراك بالمشرق واضطربت وعظم الفساد
 ونارعه الامر عبد الله ابو محمد الملقب بالعدل ودعي لنفسه بمرسية ودار الاشياخ
 عبد الواحد بالخلع وصرفوا البيعة للعدل وقتلوا المخلوخ في الثالث عشر لصف من
 سنة احدي وعشرين ثم اضطرب امر العدل ايضا وسلك الاشياخ مسلكهم به من
 الخلع والقتل وكان خيرا فاضلا

(a) وبادعوا العلي المامون وهو ان ذلك بالاندلس ثم جرا لهم في امره فنبذوا بيعته
 وقدموا يحيى بن الناصر فتحرك عند ذلك المامون ادريس اليهم من اشبيلية وقد
 استركب طايفة ضخمة من فرسان الروم وكانت بينه وبين يحيى بن الناصر حرب
 صغته انهزم فيها يحيى وفر الي الجبل واستولي المامون علي ملك مراكش يوم
 الاربعاء الثاني والعشرين لشوال سنة اربع وعشرين وستماية واستدعي الاشياخ واهل
 الراي من الموحدين واستظهر عليهم بعهودهم التي نبذوها واستفتي من حضر بمشهد
 منهم فافتي الفقها بحكم الله فحمل عليهم السيف وبادهم وظهر له ان يطمس اتر
 دعوة المهدي فمحا اسمه من السكة واعاد الدرهم الي معتاده ولعنه فوق المنبر ثم
 هلك حتق انفه قافلا من حركته التي دوخ بها بلاد الغرب الي مراكش بوادي
 العبيد منسلخ ذي حجة سنة تسع وعشرين وستماية

„ Etum , ut *ALRASCHIDÆUS* tranquillo
 „ pacatoque regno ad mortem usque
 „ frueretur. Is autem in piscinam fortè
 „ delapsus , spiritu intercluso , repentè
 „ extinctus esse traditur die 9. Gemadi
 „ posterioris , anno Egiræ 640. (a)

„ Post ipsum regnum obtinuit ejus
 „ frater *ALI ABULHASSENUS* , *EDRISSI*
 „ *ABULALI* filius , *ALSAIDÆUS* nuncupa-
 „ tus. Eo Rege , *Beni Marin* inclares-
 „ cere perinde cœperunt , ut in Africa
 „ *Beni Zaian* : ad quos debellandos
 „ *ALSAIDÆUS* copias ad urbem *Telme-*
 „ *sam* , vulgò *Tremessen* eduxit , ubi
 „ celebri iplum inter & *IAGMARASANUM*
 „ *Beni Zaianitarum* Ducem inito præ-
 „ lio , victus cecidit ; hostes verò præda
 „ locupleti potiti sunt , idque feriâ 3. die
 „ 29. Saphari , anno Egiræ 641. (b)

„ Rerum exinde potitur *OMARUS*
 „ *BEN ABI ABRAHAM BEN ABI JACOB*
 „ *BEN ABDELMUMEN BEN ALI* , cogno-
 „ mine *ALMORTADHÆUS* , Princeps ho-
 „ nestis in primis moribus ornatus , &

„ virtutibus , maximè prudentiâ , prædi-
 „ tus. Quum autem hic bellum cum
 „ *Marinis* gereret ; unus ex ejus con-
 „ sanguineis , nomine *EDRISUS BEN*
 „ *MOHAMAD BEN ABI HAPHS BEN ABD-*
 „ *ELMUMEN BEN ALI* , *CLAVA* dictus ,
 „ qui postea Rex *ALVATEKUS* nuncupa-
 „ tus fuit , imperandi cupidus , ad Ca-
 „ strâ Regis *Marinorum* transivit : cui
 „ subinde tertiam rei bello acquirendæ
 „ partem , si ipsi auxilio esset , pollici-
 „ tus est. Quamobrem fide sacramen-
 „ to obstrictâ , *EDRISUS* cohorte præto-
 „ riana & armis bene instructus , anno
 „ labente Egiriano 664. *Marochum*
 „ occupat ; unde *ALMORTADHÆUS* arre-
 „ ptâ fugâ ad oppidum *Azamur* (de
 „ quo *LEO AFRICANUS pag. 74.*) quàm
 „ celerrimè contendit , ibi se in tuto fo-
 „ re confidens. At infidi oppidani por-
 „ tas *ALMORTADHÆO* præter spem clau-
 „ serunt : ita ut ab hostibus eum fu-
 „ gientem insequentibus interfectus sit
 „ die 2. Saphari , anno Egiræ 665. (c)

„ Hinc

(a) وولي بعده ولده ابو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيد ثرة المحرم ونازعة طرين
 ابية يحيى بن الناصر الي ان هلك المنارح المذكور في الحرب واستقام امره الي
 تمام مرتة وتوفي غريفا ببعض الغصور في بركة من بركها قاسع جمادي الاخرة
 سنة اربعين وستمائة

(b) وتولي بعده اخوه ابو الحسن علي بن ابا العلي الرئيس وتلقب بالسعيد وظهر
 في ايامه بنو مرين واستجمع الي حربة ونزل بظاهر تلمسان فكان ما هو شهير من
 ايقاع بني نريان واميرهم يغمراسن بن نريان به فقتل واستولي القوم علي معلاة
 ونخيرة يوم الثلاثاء منسلخ صفر سنة احدى واربعين وستمائة

(c) وتولي الامر بعده عمر بن ابي ابراهيم بن ابي يعقوب بن عبد المومن بن علي
 وهو الملقب بالمرتضي وكان فاضلا خيرا عفيفا وكانت بينه وبين بني مرين
 وقايح ثم لحق بسطان بني مرين من بني عم المرتضي اندريس ابن محمد بن ابي
 حفص بن عبد المومن بن علي الملقب بالواثق المنبر بابي دجوس وعاهده علي تسليم
 شطر ما يناله فعقد عليه الجيش واصحبه الة السلطان وتحرك في اخريات عام اربعة
 وستين

„ Hinc Regnum adeptus est *EDRISUS*, vir fortitudine & rerum gestarum gloriâ clarus, cui stare promissis minimè volenti, Rex *Marinorum* bellum indixit. Hoc quidem bello *EDRISUS*, ingenti clade accepta, apud fluvium *Vadilgaphar* (quem *LEO AFRICANUS Lib IX. pag. 287. Guadilbarbar* nominat) occisus est die 2. Moharami, anno *Egiræ 668*. Ejus tandem caput die 9. mensis *Saphari* ad urbem *Fessam* translatum est. Ex eo tempore *Marini* rerum *Marochi* potiti sunt, everso *Abdelmumeni* Dynastiæ imperio. (a)

„ AFRICÆ REGUM

„ QUI

„ *BENI HAPHS nuncupantur,*
„ *SERIES.*

„ Hujus Familiæ princeps fuit *ABD-*
Tom. II.

„ *ELVAHEDUS BEN ABI HAPHS OMAR*
„ *BEN ABDELVAHED*, qui à *Sanhagitis*
„ *Susa* regionis incolis originem duxisse fertur, cujusque avus unus ex præcipuis *ALMAHADI* Pontificis familiaribus erat, dum rerum in *Africa* potiebatur. Rex autem *MOHAMAD*, cognomento *ALNASSERUS* dictus, anno *Egiræ 601. die 15. Gemadi posterioris*, *Africâ* subactâ, fuso fugatoque *Balearium Insularum* Principe, *ABDELVAHEDUM ABU MOHAMAD*, Doctoris *ABU HAPHS* filium, *Africæ* Regno præfecit die 7. mensis *Scheuali*, anno ejusdem *Æræ 603*. Is hanc provinciam obtinuit ad Regis usque *EDRISI*, seu *ALMAMUNI* tempora. (b)

„ Mortuo *ABDELVAHEDO*, rerum potitus est ejus filius *ABU PHARES*, viribus, animoque impar. Quo expul-

Pf

„ Io,

وستين وستمائة فتغلب علي الحضرة وبادر المرتضى الفرار عنها وقصد ان مور مستجيرا
بثقتة بها فخانده وسد الاجواب دونه وتلاحق به خدام عدوه فقتل ثاني صفر من عام
خمسة وستين وستمائة ٥٦٥

(a) واستولي ادريس علي الملك وكان بطلا حازما فاستبد وخان عهد سلطان
بني مرين وسا ما بينهم الحرب وكانت بينهم وقبعة عظيمة انهزم بها ابو دجوس بوادي
ففر ثاني شهر محرم سنة ثمان وستين وستمائة واحمل راسه الي مدينة فاس في
التاسع عشر من صفر واستولي سلطان بني مرين علي القصر وقصيرت اليه الرواية
الموحدية وانقضت دولة ال عبد المومن ٥٦٥

(b) ذكر دولة بني حفص بافريقية

اول هذا البيت عبد الواحد بن ابي حفص عمر بن عبد الواحد احد اصحاب
الامام المهدي من قبائل السوس من ولد صنهاج بن عامل ولما توطد له الامر كان
عبد الواحد من الثمانية اهل دار المهدي ولما خرج الناصر الي افريقية في وسط
جمادي الاخرة سنة احدي وستمائة وفتح بلادها وهزم الميورقي بها وبلغ غرضه من
الحركة اليها ولي علي عمل افريقية ابا محمد عبد الواحد ابن الشيخ ابي حفص
في سابع شوال سنة ثلاث وستمائة وتمادت مدته بافريقية الي زمن المامون ٥٦٥

fo, *IAHIA ABU ZACHARIAS* illius frater, equitum Præfectus, provinciam obtinuit Africam *Almohaditarum* nomine ad mortem usque Regis *ALMAMUNI*. Regnante *ALSAIDEO*, viribus auctus *IAHIA*, ab ipso defecit; inde Rege *ALSAIDEO* acie superato, urbe *Tremiffeno* capta, Africæ imperium sibi vindicavit: ubi divitiis congestis, multo milite rebusque præclarè gestis nulli extitit secundus. (a)

N O T A.

Clarissimam hujus Regis mentionem facit *LEO AFRICANUS Lib. V. fol. 216.* „Patri, inquit, successit Abu Zacharias, qui patrem eruditione ingeniique dexteritate superavit. Arcem quandam in *Tuneti* partem Occidentalem loco eminentiori condidit, quam maximis ædificiis, temploque sumptuosissimo ornavit. Deinde ad Tripolitanum Regnum profectus atque per regiones Meridionales rediens, annuos omnes illarum regionum proventus sibi recepit: adeo ut ab obitu maximam reliquerit pecuniarum copiam.

„Post illius obitum imperium adeptus est filius *ABU ABDALLA ALMOSTANSER BILLA*, nominis celebritate, fortitudine & liberalitate spectatissimus. Eo Rege, *Tunetum* occuparunt *Franci*, quibuscum incredibili pa-

„tientiâ, atque ingenti pecunia pacem confecit: adeo ut urbe relicta, continuo discesserint. (b)

„Quum autem *ALMOSTANSERUS* è vita excessisset; *IAHIA ALVATEKUS* ejus filius Rex electus est. Verum is haud multò post à patruo *ABRAHAMO ABU ISACO BEN ABI ZACHARIA* devictus, ab eodem vita & Regno, ac fratre etiam tunc ephebo, nomine *ALPHADHEL*, privatur. Eunuchus interea, *ALPHADHELI* Censor, in Africam trajecit: ubi juvenem invenit quendam, *EBN ABI OMARA* nuncupatum, ortu *Tunetanum*, professione Sarcinatore, tum fortissimum, tum *ALPHADHELO* in vincula cum *ALVATEKO* conjecto, atque jam interfecto perfimilem. Hunc Eunuchus, inîtâ cum ipso amicitia, apertoque consilio, Regum moribus, simulque illius familiæ Principum nominibus erudit; inde illum ea arte instructum, Imperiique cupiditate inflammatum Arabibus proposuit, quorum non paucos ad ejus partes traxit. Quare Sarcinatore, Rege salutato, bellum Arabas inter & Regem *ABRAHAMUM ABU ISACUM* exarsit. Quum Proceres autem populi animos in Sarcinatorem maximè propendere intellexissent; ad eum debellandum *ABU APHSUM* Principem misere. Hic *Tunetum* profectus, Sarcinatorem obsedit, postque dies aliquot,

(a) ولما توفي قام بامرہ ابو فارس ابنہ وأستقل وكان النظر في الجيوش الي اخية واتغلب علي امرہ فاستقل بافريقيّة قايمًا بدعوة الموحدين الي اخريات ايام الرشيد منهم وتاجزهم وتحرّك اليه منهم السعيد فحاز علي تلمسان فخلي للامير ابي نركريا الجو ودانت له افريقيّة فاستكر من الاموال واستخلف الجيوش وخذل الاثار

(b) ولما توفي قام بالامر ولده ابو عبد الله المستنصر بالله وهو ما هو من بعد الصيت وشدة الباء وتخارق العطا ونزل الفرنج تونس علي عهد فظهر من صبره وشدة جلادته ما طال به حتي انصرفوا عن معاهدة وصالحهم جمال وافر

„ quot , nec sine ingenti Regii ærarii
 „ incommodo captum , flagris cecidit.
 „ Ille verò tenax propofiti , tandem in-
 „ teriit. (a)

„ Extincto *ABU HAPHSO* , Regnum
 „ adeptus est *ABU ABDALLA ALUATEKI*
 „ filius , *ASIDA* dictus ab esu melliti
 „ cujusdam crustuli , quo in tenerrima
 „ ætate valdè delectabatur : vir qui-
 „ dem opibus & virtutibus insignis,
 „ perinde ac virorum piorum monitis
 „ consiliisque addictus. Hoc etiam mor-
 „ tuo , rerum potitus est *ABU BAKE-*
 „ *RUS BEN ALSCHAHID* , quem *KHA-*
 „ *LEDUS BEN ZACHARIAS BEN ABI ISAC*
 „ urbis *Beggia* Princeps, sua forte mini-
 „ mè contentus , & vitâ & regno , si-
 „ mul ac *Tunetum* pervenit , spoliavit.

Tom. II.

„ Tum *ABU IAHLIA BEN ABILABBAS AL-*
 „ *LAHIATI Tripoli* præfectus , impe-
 „ rii appetens illuc sese contulit , ubi
 „ mutuis bellis de regno uterque diu
 „ certarunt. Quum autem *ABU IAHLIA*
 „ res minùs prosperè sibi procedere in-
 „ tellexisset , Orientem petere decrevit.
 „ Quare pecuniâ ex Africa collectâ sa-
 „ tis superque instructus , *Cairum* sese
 „ recepit ; ibique in illius Regis fidem
 „ & clientelam ultro ad obitum usque
 „ tradidit. (b)

„ Inde Imperium *Tunetorum* de-
 „ latum est ad Principem *ABU IAHLIA*
 „ *ABU BAKERUM BEN ABI ZACHARIA*
 „ *BEN ABI ISAC* , Equitem , simulque
 „ Poëtam conspicuum , atque exerci-
 „ tatiſſimum. Regis Hispaniæ fuit so-

Ff 2

„ cer.

(a) ولما توفي المستنصر بوبيع ولده يحيى الملقب بالواثق وظهر عليه عمه ابو اسحق
 ابراهيم بن ابي نكريا فقتل الواثق واستولي علي الامر ومعه قتل اخوه فتى اسمه
 الفضل وفر خصي كان مريبا له الي العرب فلقي فتا خياط من اهل تونس يعرف بابن
 ابي عمارة اشد الناس شبيها بالصبي المستمي بالفضل المغتال مع الواثق فدخله واطمعه
 في الامر وعرفه ببتاتي الحيلة ولقنه امور الملك واسما القراثة ثم قصد العرب فعرضه
 عليهم واغتنم منهم نفرة عن الامير ابي اسحق فرحلوا به بعد ان بايعوه وكان بينهم
 وبين ابي اسحق حروب حتي ان استراب الناس في امر الخياط صرفوا الوجوه اليه
 بابي حفص فقصد تونس وظهر علي ابن عمارة بعد ان حاصره اياما اهلك فيها
 ما كان بقصورهم من الذخيرة وقبض عليه وسلط علي نفسه العذاب فلم ينصرف عن
 دعواه الي ان هلك

(b) ولما هلك ابو حفص قام بالامر ابو عبد الله ابن الواثق وهو الشهير بابي
 عصيرة منسوبا لطعام عادة اهل القطر استعماله في فصله المرغب فيه نرمن ولادته
 وكان من امريا الملوك وفضلادهم مرتبطا لوصايا الصالحين ولما هلك قام بالامر ابو
 بكر بن الشهيد وتحرك الامير خالد بن نكريا ابن ابي اسحق من بجاية
 وكان مقتصرا علي عمالتها فتغلب علي ابن الشهيد ودخل تونس وقتل ابن الشهيد
 ثم تحرك اليه من اطرابلس ابو يحيى بن ابي العباس اللحياتي طالبا الامر لنفسه
 وتمادي امره سنين تناهز سلفا ثم لما استشعر اضطراب الامور قطر نظر العزم لنفسه
 وارتحل الي بلاد المشرق بما استجمعه من مال افريقية ولحق بمصر فاستقر تحت
 جراية ملكها الي ان هلك

1777
 „ cer. Hostes in ditionem suam redegit;
 „ Regnumque sub vitæ exitum ad flo-
 „ rentissimum & tutissimum juxta sta-
 „ tum perduxit. (a)

„ Postea successit in regnum ejus
 „ filius *OMARUS*, vir planè infans &
 „ furibundus. Quum autem hic fratrem
 „ suum interfecisset, Aulæ Proceres
 „ ab eo ad Hispaniæ Regem *ABULHAS-*
 „ *SANUM* descivere; eumque ad Re-
 „ gnum Africæ invadendum inflamma-
 „ runt. Hujusmodi expeditio acta in-
 „ eunte anno Egiræ 748. Itaque apud
 „ urbem *Cairuan*, prope quam se mu-
 „ nierat, fufus, *Tunetum* confugit; ibi-
 „ que Arabibus adjunctus, in Hispaniam
 „ trajecit, relicto *Tuneti* filio, qui Rem-
 „ publicam regeret. Hunc ab urbe Re-
 „ gis *OMARI* factio ejicere conatur,
 „ accito ad illum profligandum Prin-
 „ cipe *ALPHADHELO*, Regis *ABU IAHLA*
 „ supra memorati filio. Quamobrem
 „ ille desertâ loci tutelâ, ad patrem se
 „ contulit. *ALPHADHELUS* autem impar
 „ viribus, *Tunetum* ab Arabum impetu

„ defendere non valuit. Illi *ALPHA-*
 „ *DHELO* tandem occiso, Principem *AB-*
 „ *RAHAMUM* ejus fratrem in solio col-
 „ locarunt, adhibito Regis Administro
 „ *MOHAMETO BEN TAPHERKIN*, qui
 „ Regnum ad nostra usque tempora,
 „ Deo adjuvante, optimis consiliis mo-
 „ deratur. (b)

„ *REGUM TREMISSINI,*
 „ vulgò *BENI ZAIAN,*
 „ *SERIES.*

„ Equidem *ABU IAHLA IAGMARASEN*
 „ *BEN ZAIAN EBN THABET BEN MO-*
 „ *HAMAD BEN IANDOSIN BEN TAHALLA*
 „ *BEN ALI BEN IAMEL BEN PORPHIRI*
 „ *BEN ALCASSEM*, omnium primus im-
 „ peritare cœpit in urbe *Telmefana*,
 „ (vulgò *Tremiffen*, *LEONI AFRICANO*
 „ *Telensin* dicta) quam *GIABER BEN JO-*
 „ *SEPH Sanhagitarum* Regibus antea
 „ eripuerat. Rem hanc alibi jam atti-
 „ gimus, ubi Regem *ALSAIDEUM* præ-
 „ lio propè *Tremiffen* superatum atque
 „ opi-

(a) وصار امر تونس للامير ابي يحيى ابو بكر بن ابي نركريا بن ابي اسحق
 وكان ذا خصل من فروسية وشعر ينسب اليه واكتسب حنكة كثيرة وصاهر
 السلطان صاحب المغرب فارغم انوف اعداياه وبلغت البلاد في اخريات ايامه من الامن
 والعمارة مبلغا عظيما

(b) وولي بعده ولده عمر وكان كثير الهقور وقتل اخاه ابا العباس وفر عنه رجال
 الدولة فلحقوا بسلطان المغرب الامير ابي الحسن وحركوه الي تملك افر بقبيلة
 فكان من حركته الي تلك البلاد في اوائل عام ثمانية واربعين وسبع مائة
 ولما جرت عليه الهزيمة بظاهر القيروان وحصر بها وتخلص الي تونس صاير بها العرب
 وتحرك في البحر الي بلاد الغربية وتترك ولده ابا الفضل بتونس مقيما للرسالة
 فانزعجه عن الوطن اهله ونهروا اليه بالامير الفضل ولد السلطان ابي يحيى المذكور
 فانصرف عن خفارة ولحق بابيه ولم يكدر الفضل يستنقر بتونس حتي نرحق اليه
 العرب بالامير ابراهيم ابن ابا يحيى فقتل الفضل وقعد ابراهيم مكانه والشيوخ محمد
 بن قافرين يدرج الامر ويسرد حال الوطن الي عهدنا هذا اعانه الله

„ opibus & armis à *Zaianitis* spolia-
 „ tum liquet, idque anno *Egiræ* 646.
 „ ex quo hæc familia cœpit inclaresce-
 „ re. Porrò *IAGMARASEN*, de quo sermo,
 „ si rei militaris peritiam inspectes, si
 „ fortitudinem, si sagacitatem, si con-
 „ filium, virum incomparabilem atque
 „ admirabilem facillè dixeris. Præterea
 „ illum in bello tamquam militiæ nor-
 „ mam, in rebus verò civilibus velut
 „ optimum exemplar suspiceres. Pugna-
 „ vit hic cum *Marinorum* Regibus in-
 „ felici semper marte. Inter alia ejus
 „ prælia hæc sunt recensenda, præ-
 „ lium nempe *Sela* castris, *Geda*, *Te-*
 „ *messenæ*, *Beni Bahlul*, *Teolacæ* & *Va-*
 „ *ditacba* (horum oppidorum nomina
 „ pleraque vide apud *LEONEM AFRICA-*
 „ *NUM*). Extincto *IAGMARASENO*, succes-
 „ sit in regnum ejus filius *OTHMANUS*,
 „ quem inter & *Marinorum* Reges
 „ perpetuum fuit bellum. Hic urbem
 „ *Tremissen* à Rege *ABU JACOBO* ob-
 „ sessam munimentis, castris, aliisque
 „ Regiis operibus instruxit; ibique an-

„ no ab obsidione V. mortuus est. (a)
 „ Regnum adeptus est ejus filius
 „ *ABU ZAIAN MOHAMAD*, qui obsessâ
 „ iterum urbe *Tremissen*, intra annum
 „ interiit. Rerum interea potitur ejus-
 „ dem frater *ABU HAMU MUSA*, Re-
 „ gis *OTHMANI* filius. Is, ut nemini
 „ non notum, urbem obsidione libe-
 „ ravit, atque ita hostis vires fregit,
 „ ut facta militum missione pacisque
 „ pacis conditionibus, placidum postea
 „ felixque nactus sit Imperium. Quo
 „ deinde ejus filius *ABDELRAHMANUS*,
 „ aliàs *ABI TASCHPHIN* dictus, fœdere
 „ cum *SAIDO* Hispaniæ tunc Rege pa-
 „ catissimo inito, patrem exuit, Regis-
 „ que mox induit insignia. Majora item
 „ viribus ausus, *Beggiæ* Regnum avi-
 „ dè concupivit. Hinc coactis Africa-
 „ norum copiis, *Tunetum* temerè ag-
 „ gressus est, Principem ibi constitutu-
 „ rus, qui Rempublicam ejus regeret
 „ arbitrio. Quare *Tuneti* Proceres ad
 „ Regis Hispaniæ opem confugientes,
 „ id ab eo impetrarunt, ut Rex *Zaia-*
 „ *ni-*

(a) ذكر دولة بني زريان بتلمسان

أول أملاكهم أبو يحيى يغمراسن بن زريان ابن ثابت بن محمد بن يندوثيين
 بن طاع الله بن علي بن يمل بن فرفير بن القاسم وأول من عمل الحيلة فـي
 استخلاص تلمسان جابر بن يوسف ابن محمد وكان أمرها الي منهاجة ملوك
 الجهة الشرقية وتصير بعدها الي يغمراسن وكان تقدم به الاماع من الايقاع
 بالسعيد بطاهر تلمسان واستيلاهم علي خزائنه ونخيرته وعدته في عام سنة واربعمين
 وستماية فظهر أمرهم وتائل ملكهم وكان يغمراسن هذا اية من الايات في جراته
 ورجولته وجزالته ومواقفه شهيرة وسلاحه في الحفوة مثل وسياسته عجيبة وكانت بينه
 وبين الامراء علي عهده من بني مردين وقايح ظهروا عليه فيها فمن حروده باسلي ودرجده
 وبنامسوند وبني بهلول ثم بتلاغ ثم بوادي تاقبا ثم هلك يغمراسن وولي ابنه عثمان
 واستمرت الحال بينه وبين بني مردين علي سبيلها الي ان تحرك السلطان ابو
 يعقوب الي منازلة تلمسان فشد حصارها وابتنى قصور الملك بخارجها وتوفي عثمان
 اثنا العصار علي انقضا خمس سنين من منازلته

„ *nit* ab urbe discessum indiceret. Illi
 „ sumtis armis, detrectavere. Quod Rex
 „ nomine *ABULHASSANUS BEN OTH-*
 „ *MAN BEN JACOB BEN ABDELHAC* indi-
 „ gnans, *Tunetum* annos tres obsedit:
 „ quo quidem tempore innumeros per-
 „ didit homines; machinas bellicas,
 „ quibus mœnia & arces quateret, tùm
 „ invenit, tùm auxit; divitiis etiam
 „ voluptatibusque quàm maximè afflu-
 „ xit. Certaminis tandem cursum per-
 „ egit die 27. Ramdani. (a)

„ Inter hæc Hispaniæ Rex *Tremis-*
 „ *senense* Regnum gemmis exquisitis,
 „ thesauris pretiosis, magnificis supel-
 „ lectilibus, armorum copiâ, vasis ele-
 „ gantibus, tùm auro atque argen-
 „ to instructissimum occupat, *Zaianitis*
 „ planè everfis, quorum vicem nec
 „ cœlum, nec terra doluit. Rebus Re-
 „ gis in Africa minùs prosperè succe-
 „ dentibus, Arabes qui eum in urbe
 „ *Cairuana* obsederant, ejus filium Re-
 „ gem delegerunt. Quo factum, ut ip-

„ se ad Hispaniam redire statuerit, re-
 „ licto qui in urbe *Tremissen* ejus vi-
 „ ces gereret. Tùm *Zaianita* cæteris
 „ cum focis jam fugatis, collecto ro-
 „ bore, iter ad sua loca moliti sunt;
 „ resumptisque armis audaciores, Re-
 „ gem, Ducemque sibi constituerunt
 „ *OTHMANUM BEN ABDELRAHMANUM*
 „ *BEN IAHA BEN IAGMARASEN*, virum
 „ rerum experienciâ doctum, fortunæ
 „ casuum haud ignarum, temporum
 „ etiam callidum & militem fortissi-
 „ mum, qui fratrem quem habebat,
 „ nomine *ABI THABETUM*, juvenem
 „ animi nobilitate & fortitudine con-
 „ spicuum, comitem sibi adjunxit, co-
 „ piisque præfecit: adeo ut rebus fe-
 „ liciter gestis, *Tremissenense* Regnum
 „ sibi suisque restituerint. Ad Impe-
 „ rium usurpandum advolavit Rex Hi-
 „ spaniæ *ABU ANANUS*; qui tamen
 „ unâ cum patre aditum illis interclu-
 „ dere frustra conatus est. (b)

„ Rex *ABULHASSENUS*, rebus Afri-

„ cæ

(a) فقام بالامر ولده ابو نريان محمد وهلك اثنا الحصار لعام دونه وقام بالامر اخوه
 ابو حمو موسي بن عثمان وحل لانزمة وهلاك عدوه بما هو معلوم واقلعت عنه الجيوش
 عن عهد توثقه وشرط اخذه واستمرت حال ابي حمو علي وقيرة من استقبال السعد
 وفتك به ولده عبد الرحمن المكني بابي تاشفين واستقام له الامر وخلي له الجو
 بمسالمة ملك المغرب علي عهده ابي سعيد خزن العافية فهفا به الطمع الي تملك
 بجاية واقحم افريقية الجيوش ودخل جيشه تونس مقعدا بها اميرا حفصيا تحت طاعته
 فتطرح ارباها علي السلطان صاحب المغرب وصاهروه وطالب بني نريان بالافراج عن
 بلدهم فلجوا بما اوجب الحرب فحاصروهم سلطان المغرب ابو الحسن بن عثمان بن
 يعقوب بن عبد الحق سنين ثلاثة هلك لهم من الامم ما لا يحصى وعظم اثر المجانيق
 فيما حماه السور من القصور وداشر العمل بنفسه فالصق البنا واكتب الجوار واستفرغ
 الجهد في ليلة سبع وعشرين لرمضان

(b) واستولي السلطان صاحب المغرب علي تلك الامارة الموثلة بما اشتملت عليه من
 نفيس الهلي وثمانين الذخيرة وفاخر المتاع وخطير العدة ودرج الاتية وصامت المال
 ثم انقضي امر بني نريان لهذا العهد فلم تبك عليهم السما ولا الارض فلما امعن
 السلطان

„ cæ expeditis , ad *Algezirata* obsidium
 „ perrexit. Quam quidem occasionem
 „ *Zaianita* opportunam rati , eum de-
 „ bellare annuntur ; ibique adorti , tur-
 „ pem in fugam vertunt. Eo fanè in
 „ prælio , amisso filio *ALNASSERO* , leonis
 „ instar periculo sese eripuit ; indeque
 „ *Marochum* se recepit , ubi Rex *ABU*
 „ *ANANUS* patris casum contemplatus ,
 „ sibi metuit. Quare *Zaianita* , rebus ex
 „ sententia gestis , lætiore ad tempus usi
 „ sunt fortuna , Regnum , opes & arma
 „ adepti. Quum autem *ABU ANANUS*
 „ ipsis infensus defuncti Patris Impe-
 „ rium sibi vindicasset , conscripto exer-
 „ citu , de Regno confidentius certare
 „ cœpit. *Zaianita* ultionis & victo-
 „ riæ cupidi , summa vi impetuque in
 „ certamen prodire ; atque in *ABU*
 „ *ANANI* nec opinantis agmen irruen-
 „ tes , illum fufis fugatifque copiis pro-

„ fligarunt : ac proinde in proverbium
 „ cessit , *Zaianita* Regem *ABU ANA-*
 „ *NUM* prius pranderunt , quàm illos
 „ ipse cœnasset ; id est *Zaianita* Regis
 „ *ABU ANANI* mortis tempus antece-
 „ perunt.

„ Rex tamen *ABU ANANUS* ulci-
 „ scendi studio magis inflammatus , Re-
 „ gio effuso ærario , socios ad bellum
 „ excivit , novos & alacriores iis adj-
 „ ciens animos. Quo factum est , ut
 „ insignem ab hostibus victoriam , quæ
 „ bello finem tandem fecit , ille reporta-
 „ verit. Itaque *OTHMANUS* Rex victus
 „ fufusque , mutatâ veste , clancu-
 „ lum ab acie recessit : qui mox cum
 „ fratre , aliisque focis compertus , ad
 „ Regem *ABU ANANUM* adducitur. Ve-
 „ rùm ille & proceres pro patria at-
 „ que imperio ad internecionem usque
 „ decertarunt. (a)

NO-

السلطان ابو الحسن بارض افریقیة وجرت بها علیه الحوادث وحاصرتة العرب
 بالقيروان واستبد ولده بالامر ورحل قاصدا دار ملكة وترك بتلمسان من يقوم له
 ببعض رسمه صرف الفل من هذا القبيل الرياني وجوهم في جملة المنهزمين عن
 السلطان ولحقوا بوطنهم شوكة قدموا عليهم عثمان بن عبد الرحمن ابن يحيى بن
 يغمراسن شيخا قد جرب الامور ومارس الدهور شهير النكرا مشمرا للتشديد
 مستعينا علي امرهم باخيه ابي ثابت وهو المشار اليه بالبسالة والفتوة فاستقام الامر
 وعادت الدولة واقهرهم السلطان ابو عنان متلقف كرة الملك فحبسهم سدا بينه وبين
 ابيه ولما خلع السلطان ابو الحسن من افریقیة ولحق بالجزاير ناهزوه العرب
 واقوعوا به الوقیعة التي قطعت اماله واذكلته الناصر ولده ونجى منهم منجى الاسد
 واتصل بالبلاد المراكشيه تشاغل السلطان ابو عنان بما دهمه من جوار ابيه فتملوا
 الحظ اياما بسيرة ارتاشوا فيها وكسبوا الحقول والظهر والعدة وخلص السلطان
 المذكور ضدهم الامر بوفاة ابيه فصرف وجهه اليهم وتحرك في الجيش الذي يجسر
 الشجر وحملتهم صرامة نفوسهم وجواعت دخولهم علي مناجزته فنغروا به قبل ان يتعشي
 بهم وخلصوا محلته علي حين غفلة فكسروا سوادها واوهموا هزيمتها

(2) وثبت السلطان باهل الحفيظة ونري الصدق فحمل عليهم غير مبال بهيض جناحية
 فرزق الفلاح واودي الظفر واتحق النصر فكانت القاضية واتي بعثمان قد اخفي
 نفسه

N O T A.

Rex OTHMANUS BEN ABDELRAHMAN BEN IAHA BEN IAGMARASEN, vulgò ABU SAID, de quo supra, *Granata* natus est, ubi etiam regnavit: vir sanè litteris & bellica virtute inclytus, cujus Epistolæ aliquot occurrunt in Bibliotheca Scriptoris nostri EBN ALKHATHIBI, unde hæc pauca decerpimus. Hic *Tremiffenense*, simul & *Granatense* Regnum obtinuit ab anno Egiræ 749. ad annum 753. quo, ingenti accepta clade, interiit.

„ Rex ABU ANANUS, partâ victo-
 „ riâ, rerum iterum potitus est. Hinc
 „ *Zaianitarum* Proceres partim fortu-
 „ nis spoliavit, partim perdidit; alios
 „ in vincula coniecit, alios vulgi ludi-
 „ brio exposuit; cæterosque in exilium
 „ eiecit: qui, tandem fortuna alternan-
 „ te, viribus collectis, in pristinam
 „ dignitatem, atque statum restituti
 „ sunt. Nam Rege ABU ANANO mor-
 „ tuo, atque in ejus locum filio SAI-
 „ DÆO adhuc puero suffecto, Regnum
 „ fluctuare cœpit. Quæ res profectò ef-
 „ fecit, ut *Zaianita* superstitēs, rursùs

„ ad arma revocati, Regnum *Tremiff-*
 „ *senense* sibi ereptum recuperaverint.
 „ Quare omnes, qui à *Zaianitis* antea
 „ discesserant, eorum imperio ad hæc
 „ usque tempora parere coacti sunt.
 „ Qua quidem tempestate illorum res
 „ & imperii summa erat penès ABU
 „ HAMU MUSAM BEN JOSEPH BEN ABD-
 „ ELRAHMAN BEN IAHA BEN IAGMARA-
 „ SEN, qui non sine Dei providentia
 „ eorum Dux & Princeps fuit consti-
 „ tutus. Quum autem *Marinorum* Rex
 „ ABU SALEM ABRAHAMUS BEN ALI BEN
 „ OTHMAN arma in *Zaianitas* intulif-
 „ set, hi metu perculsi terga fugæ de-
 „ dere; ac magno cum ululatu in
 „ Regni confinia recessere, in hoc sanè
 „ parentum vestigiis, quorum constan-
 „ tia & robur in tuendis præfidiis ma-
 „ ximè celebrabantur, minimè insisten-
 „ tes. Nihilominus Regis consiliis, pru-
 „ dentiâ & ductu alacriores facti, vi-
 „ ctoriam deinde consequuti sunt; eo-
 „ rum verò laudatus supra Rex in præ-
 „ sentia Regnum sive domi, sive mi-
 „ litiaë miro consilio ac ratione mo-
 „ deratur. (a)

NO-

نفسه وغير نزيهة واتبع من افلت منهم مع اخيه وهم شوكة حادة فجرت عليهم
 الهزيمة ذيلها وقبض عليه وعلي اشراف من اهل بيته فتقفوا مع اميرهم وقتلوا صبيرا
 (a) واستولي السلطان علي الوطن ثانية واخذ وجوه ذلك القبيل واعيانه التشذيرت
 والنمزيق والسجن والسخرية والجلال حتي عادت فلول الدول وصرعى الغلبات ولما توفي
 السلطان ابو عنان ولي امره ولده الصبي المسمي بالسعيد واضطرب الامر تغلب فل هولاء
 الريانيين علي الوطن وجمع الله من بقي منهم فدخلوا مدينة تلمسان واجفل من
 كان بها الي مقر ملكهم ومعدن قبيلهم فعادت دولتهم لهذا العهد ومجرد رسمهم
 وناسر رمة عزتهم السلطان ابو حمو موسي بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيي بن
 يغمراسن فكتب الله لهم به الادالة واعاد العهد فتحرك اليه سلطان مردين ابو سالم
 ابراهيم بن علي بن عثمان المنتصير اليه الامر فاصحروا وقرخوا العرضة ولجوا الي
 اطراف البلد مجعجين ولم يتكلموا علي ما اتكل عليه اباوهم من الركون الي
 الاسور والعزم علي المصارمة بالانحصار فكان لهم الفوز بقدر اح رايهم واصبحوا بالخيار
 في

N O T A.

ABU HAMU MUSA BEN JOSEPH, Tremissemi Rex, Granata natus est ineunte anno Egiræ 723. vir invictæ fortitudinis, litterisque non mediocriter eruditus, utpote qui Regum Historiam conscripserit, & plura condiderit carmina, quorum Specimen cum ejus Vita refert in sua Bibliotheca Hispana EBN ALKHATHIBUS.

„ REGUM MARINORUM
„ SERIES.

„ ABDELHAC BEN MOHIC BEN BAKER BEN HAMAMAT BEN MOHAMAD BEN VAZIR BEN CAPHUS EBN KARMATH BEN MARIN ABA MOHAMAD, qui Mauritanie Regnum armis adeptus, prima hujusce Familie fundamenta Fesse jecit anno Egiræ 610. ubi filios, quos habebat quatuor, successores post mortem reliquit. Horum primus OTHMANUS; secundus ABU MARAPHUS MOHAMAD; tertius ABU IAHA ABU BAKERUS, qui Fesse anno Egiræ 656. supremum diem obiit; quartus ABU JOSEPH BEN ABDELHACUS, qui Regno longè latèque prolato, atque in Africa firmissimè
Tom. II.

„ constabilito, victoque nepote ABU IAHA de imperio acriter decertante, rerum summâ potitus est. (a)

„ Postea regnavit ejus filius ABDELVAHED ABU MALEK, qui magnus extitit Rex. Hujus deinde in regnum successit JACOBUS BEN ABDALLA EBN ABDELHAC, alias ALMANSOR nuncupatus. Hujus adeo nominis percrebuit fama, ut Arabes Hispani à Christianorum Rege multiplici victoria superbo vehementer afflicti, ejus auxilium efflagitarint: quorum ille votis benignè annuens, quàm citissimè, ut alibi indicavimus, subsidio venit, ineunte videlicet anno Egiræ 672. Itaque Hispaniam cum numerosissimo exercitu ingressus, aditum, quem NUNNIUS, insignis Christianorum Dux, Mahometanis intercludere conatus est, sibi patefecit; & commisso apud urbem Astigi prælio, ingentem cladem exercitui Christiano intulit: ita ut fuso eorum Duce, octo ferè millia peditum ceciderint. Inde Regem Hispaniæ ABU ABDALLAM EBN NASSERUM sibi comitem adjungens, Cordubam aggreditur, ubi ex rebus præclare gestis magnam sibi suisque gloriam comparavit. ALPHONSUS HERRANDI filius, Castellæ Rex,
Gg ne-

في امرهم واميرهم اليوم مجمع علي حزمه متفقاً علي اضطلاع حزمه عزما وحرماً
وسلماً

(a) ذكر دولة الملوك من بني مرين

مبدأ هذا الامر عبد الحق بن محيق بن بكر بن حمامة بن محمد بن وزير
بن قفوس ابن كرمات بن مرين ابا محمد ظهر بالمغرب الاقصي واستخلص الملك
بسيطة عام عشرة وستماية وولي بعده عثمان ابنه لما هلك ثم ابو معروف محمد ثم ابو
يحيى ابو بكر وكانت وفاته حتى انفه بفاس في رجب من عام ستة وخمسين
وستماية وولي بعده رابع الاخوت ابو يوسف بن عبد الحق فتمهد الملك واستقر
بالمغرب الامر وخالف عليه ابن اخيه ابي يحيى ثم كان خلوص الامر له

» necis filii ulciscendæ cupidus, *JACO-*
 » *BO* obviam fit ad locum *Hofn Alfa-*
 » *kbara*, (id est *Castrum rupis*). Inter
 » hæc exortis *JACOBUM* inter & *Gra-*
 » *nata* Regem diffidiis, arma in se
 » verterunt, ansam præbentibus *BENI*
 » *ASHCALIOLA Malaca*, *Acci*, & *Co-*
 » *mares* Principibus, qui à *JACOBO* ad
 » *Granata* Regem per id temporis de-
 » sciverant, discordiam atque odium
 » inter utrumque foventes; parum-
 » què absfuit, quin ipsum *JACOBUM*
 » vel coram *Granata* Rege contume-
 » liis afficerent. Illi demum æqui boni-
 » que consulentes, jure *Malaca* in *JA-*

» *COBI* gratiam se abdicarunt: cui post-
 » eà provinciæ præfuit ejusdem Regis
 » nomine *OMARUS BEN MOHLI AL-*
 » *BATHVI*. Cæterùm Rex *Granata* ere-
 » ptum *Malaca* Principatum ægrè fe-
 » rens, illius Præfectum dolo & pecu-
 » niâ, tum cessione Castri *Schalubina*,
 » vulgò *Salobreña*, corrumpere studuit.
 » Post hæc rursus, Deo annuente, sta-
 » bilità inter utrumque Regem pace,
 » *JACOBUS ABU JOSEPH* Rex in *Insula*
 » *Viridi* decessit mense Saphari, anno
 » *Egira* 685. (a)

NO-

(a) وولي بعده ابنه عبد الواحد ابو مالك وكان ملكا كبيرا ثم يعقوب بن
 عبد الله ابن عبد الحق الملقب بالمنصور واستدعي الي الاندلس لما عظمت فسي
 المسلمين فتكات العدو واشتهر ظهور هذا القبيل توجهت رغبات المسلمين الي
 استصراخهم فاجاب الي الداعي وابندر الجهاد في اوائل عام اثنين وسبعين وستماية
 فصدر منهم من الافعال الكريمة والجهاد المبرور ما وقع به الاماع وكان ذو النون له
 قد استعد و ذو النون هذا نزعيم كبير قام عن النصاري جرداع من جانر من المسلمين
 فانضج عليه العدد الذي لا يكت وكانت الواقعة علي الروم بظاهر استتجة استاصلت
 منهم ما يناهز ثمانية الاف منهم الزعيم المذكور فايدهم الي مصرعهم وظاهره امير
 المسلمين ابو عبد الله بن نصر فغزوا جميعا قرطبة وظهروا عز الاسلام وشاهد الناس
 جميعا فخره اشارة الي ما كان من لقا الفونش بن هرندره ملك قشتيلية ايداه
 مستنصرا به علي ابنه بظاهر حصن الصخرة ووقعت بين ابن نصر فتنة وبينه معناه بما
 وقع بينهما من التقاطع بسلب اصهار السلطان ابي عبد الله بن نصر من بني اشقيلولة
 الروسا بمالقة واوادي اش وقمارش وكادوا قد خرجوا عن طاعته وانتزوا عليه فلما
 اجاز الامير ابو يوسف الي الاندلس لحقوا به ونصحوه له واغروه بسلطانهم
 ورجما صدرت له منهم حفوة بحضرتة انتج ذلك كله فسادا وانتبازا وكان اخر
 امرهم ان خرجوا له عن مدينة مالقة فملكها السلطان ابو يوسف وولي عليها عمر بن
 محلي البطوي وضاق نزع السلطان بذلك واعمل الحيلة في استنزال ثقة السلطان
 صاحب المغرب عنها بمال بركة وعوضه بحصن شلوبيانية ثم تدارك الله امر المسلمين
 بصلاح ذات بينهم اتصال ابيدهم وكانت وفاة السلطان ابو يوسف يعقوب بالجزيرة
 الخضراء في صفر من عام خمسة وثمانين وستماية

N O T A.

JACOBUS Rex, cognomine ABU JOSEPH & ALMANSOR dictus, ex Marinorum familia, (qui, everfo Almohaditarum Imperio, Regum insignia in Mauritania sumfere anno Egiræ 610. ut supra innuimus.) Hunc porrò non minus animi fortitudo, quàm pietas atque liberalitas maximè commendarunt. In Hispaniam, filio comite, trajecit; occurrentem sibi NUNNIUM Ducem apud Astigi, id est Ecija, profligavit, cæsis cum ipso è Christianis haud paucis viris genere & bellica laude conspicuis; Cordubam etiam expilavit, populos & agros cæde, atque incendiis vastans. Ex Bibliotheca EBN ALKHATHIBI, qui Regis hujus rerum gestarum narrationi duo ejusdem poëmata inseruit.

„ In ejus locum suffectus est filius
 „ JOSEPHUS ABU IACOB, qui ubi ad
 „ solium evectus, in Hispaniam traje-
 „ cit; ibique à Granata Rege non
 „ procul à Mertola humanissimè excep-
 „ ptus, amicitiaæ fœdera cum ipso fan-
 „ xit. Inde in Africam redux, viribus
 „ omnibus ad urbis Tremiffeni obsidium,
 „ hostiumque everfionem incubuit.
 „ Qua quidem urbe captâ, Regiam
 „ ibi sedem fixit, eamque domibus,
 „ templis, aliisque ædificiis splendidis
 Tom. II.

„ magnificisque augere & ornare co-
 „ natus est. Urbs ergo Tremiffenum, de
 „ qua sermo, à JOSEPHO Rege per se-
 „ ptem continuos annos ita fuit obses-
 „ sa, ut Cives viribus fracti, rebusque
 „ penitus desperatis, ad deditionem
 „ fuerint adacti. Accidit interea non si-
 „ ne Dei permisso, ut Eunuchus qui-
 „ dam planè improbus, Regique in-
 „ fensus, qui insidias leoni huic belli
 „ labore perfuncto, moliebatur, in
 „ Regium conclave immiffus, JOSE-
 „ PHUM Regem otio, ac voluptatibus
 „ indulgentem nactus, illius pectus gla-
 „ dio transfixerit, statimque fugâ salu-
 „ ti consuluerit: atque haud dubiè in-
 „ tutum se recepisset, nisi cum turba
 „ fugientem fuisset tempestivè insequu-
 „ ta. Rex tamen eodem die extinctus
 „ est. (a)

N O T A.

JOSEPHUS Rex, JACOBI Regis fi-
 lius, ad Hispaniam belligerandi causâ
 adversus Christianos bis appulit; isque
 jam cum patre, jam solus, præliis apud
 Cordubam, Hispalim & Astigi patra-
 tis interfuit, ubi strenuè se gessit. Hic,
 ut ejus parens JACOBUS Rex Fessam
 Novam, ita Novam Tremiffenum urbem
 extruxit; tamque intus quam extra or-
 navit & mirum in modum munivit.
 Reges complures suos Legatos cum
 Gg 2 do-

(a) وقام ابنه يوسف أبو يعقوب عوضه فتح أمره بالجوانر الي الاندلس ودار سلطانها
 الي لقابيه مستلظفا بظاهر مرتلة وجره معه الود وصرف بعد ذلك عزمه الي محاصرة
 قلمسان واستبصال من بها فانتقل اليها بجحلتته وصيرها دار ملكه واناح عليها
 بكليلة وابتنني بها القصور والرباع والمساجد ولازمها بالحصار سنين سبعة حتي
 ذهب الارماق وعجزت الحيل وقبض الله لذلك الاسد الخادر عبدا من اخادث
 الخصميان كان قد وقره تولج عليه القصر ويده مديه والسلطان مبتذل بين نساية
 فضربه ضربة خزقت معدته وولي هاربا فكاد يفلت ويدخل البلد المحصور لولا انه
 عوجل وعاش السلطان بقية يومه ومات

donis ad ipsum destinatum. Fato functus est die 3. mensis Dilcadat, anno Egiræ 706. quum regnasset annos XXI. Ex Bibliotheca EBN ALKHATHIBI.

„ Post ipsum Regni successor extitit ejus nepos *AMERUS ABU THABET BEN ABDALLA BEN JOSEPH*, qui, victo fusoque patruo *ABI IAHLA, Fessam* properavit; mox ad urbem *Tremiffenum* se contulit, *MOISI BEN ZAIAN* ibidem olim obsesso solamen allaturus, simulque fœdus cum eodem initurus. Qua de re *Zaianita*, quibus insperata contigit lætitiæ causa, monetam suam his verbis signandam censuere: *Quàm prope adest Dei solatium!* Rex autem *AMERUS* vir erat impius & truculentus: idcirco non diu regnavit, immatura morte raptus. (a)

„ Rerum potitur illius frater *SOLIMANUS, ABULRABII* aliàs dictus, qui regnum faustum, pacatumque auspiciatus, *Septam* cum locis ad ipsam pertinentibus, ab Arabibus Hispanis ereptam, mense Sapharo, anno Egiræ 709. sibi vindicavit. Anno

„ tandem 710. mense Gemado posteriori in urbe *Tezi* (vel *Teza*) diem obiit. (b)

N O T A.

LEO AFRICANUS *Tezam* civitatem pereleganter describit *Lib. III. pag. 179.* aitque à *Fessâ* distare quinquaginta milliaria. Illa verò frugibus, fructibusque, ut & cœli salubritate maximè laudatur.

„ Regnum adeptus est *OTHMANUS*, cognomento *ALRADHA*. Quo Rege, omnia omnibus & læta & jucunda obtigere; nam anno Egiræ 727. die 15. mensis Dilhagiat exercitu conscripto, urbes *Algeciram, Rondam & Marbellam* armis sibi subjecit. (c)

„ Verùm *OMARUS*, ejus filius, imperii affectator, homines è populo conjuratos sibi adjungens, urbem *Fessam* patri præliis distento eripuit, Regisque induit insignia. Quare pater filium debellaturus, bello indicto, illi ad locum *Carmada* in territorio *Teza* occurrit: quo in prælio Rex, accepto vulnere, victus fugatusque in

(a) تولي بعده حافده أبو ثابت عامر بن عبد الله بن يوسف بعد أن فتك بعمه أبي يحيى وسرع في الارتحال الي مدينة فاس وبادر الي معاقرة المحصور موسى بن نريان بتلمسان والافراج عنه فاتاهم الفرج من حيث لم يحتسبوا وكتبوا علي سكتهم بعدها ما اقرب فرج الله وكان عامر هذا جاريا سفاكا للدرما ولم تطل مدته فعاجله الحمام مخترما قصير المدة

(b) وولي الامر بعده اخوه ابو الربيع سليمان فاستقرت حاله وخصيرت اليه سبتة وما اليها مما كان الاندلسيون قد تغلبوا عليه في صفر عام تسعة وسبعماية وتوفي بتانري في جمادى الاخرة من عام عشرة وسبعماية

(c) ووديع بعده عثمان الرضا وكانت ايامه اعيادا وصارت اليه الجزيرة ورندة ومرجلة من بلاد الاندلس لما استصرخ لتصرها فاجاز اليها الحصص وكان قصيرها اليه منتصفي ذي حجة من عام سبعة وعشرين وسبعماية

„ in urbem *Tezam* se recepit. Hanc
 „ filius continuo obsedit; indeque mor-
 „ bo contracto, bellum intermittendum
 „ ratus, recessit. Quo factum est, ut
 „ everfis filii rebus, Regnum paternum
 „ quiescere cœperit. Cæterum *OMARUS*,
 „ ubi ex morbo convaluit, *Tremiffenum*
 „ unius mensis spatio obsidione cinxit;
 „ mox pactis conditionibus, ad ur-
 „ bem *Segelmessam* sibi jam concessam
 „ se contulit, donec ibi fratris ope re-
 „ rum potitus est. Atque per id temporis
 „ mortuus est Rex *OTHMANUS* mense
 „ Dilcadat, anno Egiræ 731. (a)

„ *ABULHASSANUS* autem *ALI*, *OTH-*
 „ *MANI* filius, simul ac regnum occu-
 „ pavit, fratri supra memorato bellum
 „ indixit; eumque prælio superatum in-
 „ terfecit. Mox eductis copiis, *Gebel*
 „ *Alphath*, id est *Montem Victoria*, seu
 „ *Aditûs*, vulgò *Gibraltar*, circumse-
 „ dit. Quo expugnato, magnum sibi
 „ nomen apud Reges omnes peperit.
 „ Quamobrem *Haphsitarum* Rex, ur-
 „ be *Beggia* ab *Zaianitarum* Duce,
 „ nomine *ABDELRAHMANO ABU TASH-*
 „ *PHIN*, jam pridem oppugnata, ejusque
 „ civibus ad extrema adductis, ad eum,
 „ mutua affinitate contracta confugit:
 „ cui *ABULHASSANUS* Rex, per litteras,
 „ opem auxiliumque pollicitus est. His
 „ feliciter gestis, Regnique *Tremiffenen-*
 „ *sis* administratione viris idoneis de-
 „ mandata, iter ad Hispaniam parat,

„ ubi Christianorum classe profigata,
 „ insignique de illis relatâ victoriâ an-
 „ no Egiræ 740. Christi 1339. die 6.
 „ Scheuali, feriâ 7. (Lege 3.) castra ad
 „ urbem *Tarifam* die 3. mensis Moha-
 „ rami anni proximè sequentis posuit.
 „ Quumque obsidionem in longum tra-
 „ xisset; Christianorum Dux jam fessus,
 „ hostique impar, Regis Lusitaniæ,
 „ aliorumque opem implorat, quorum
 „ exinde viribus adjutus, auxiliaribus
 „ copiis præfuit. *Granata* intereâ Rex
 „ *ABULHAGIAGÆUS ABULHASSANO* Regi
 „ auxilium festinat; uterque exercitus
 „ extra *Tarifam* sibi occurrunt; sed dif-
 „ fidentibus inter se Mahometanis, re-
 „ busque ex sententia minimè succe-
 „ dentibus, Arabum milites animis ca-
 „ dere cœperunt. Hinc Cives ex oppi-
 „ do ad pugnam alacrius erumpentes,
 „ armis, sagittisque Arabas tanta vi
 „ urgere atque impellere; ut Christia-
 „ norum validissimi ac expeditissimi ju-
 „ venes per medios hostes & castra ur-
 „ bem ingressi, ingenti & memorabili
 „ eos affecerint clade. Quæ sanè res
 „ magnos militum Mahometanorum
 „ animos ac cervices fregit, ipsosque
 „ opibus spoliavit. Nam Rex fusus fu-
 „ gatusque unâ cum vexillis *Reginas*
 „ *Regio* sanguine prognatas hosti vi-
 „ ctori tradere cogitur occidendas: qua-
 „ rum casus postea in proverbium abiit.
 „ Infortunium alterum huic simile Ma-
 „ ho-

(a) ثم ولده عمر كان اتبع الناس خلفه واطلق في الملك يده فرجع عنه فـ
 بعد حركاته الي مدينة ملكه فملكها عليه ونهاضه وخرج الي لغايه فكان
 اللقا بالقرمده من احواز تانري وانهم السلطان فدخل تانري جريحا مغلـ
 وحاصره اجنه بها ثم اقلع عن مهادنة واصابه مرض اختل به امره وثناب ملك ابيـ
 فنزل عليه البلد الجريد شهرا ثم خرج عن عهد وسار الي سجلماسة معوضا بها
 فبقي بها الي ان ملك علي عهد اخيه وتوفي السلطان في اواخر ذي قعدة من عام
 احد وثلثين وسبعماية

„ homeranis nunquam accidisse fertur.
 „ Hæc acta sunt anno Egiræ 741.
 „ Christi 1340. feriâ 2. die 7. Gemadi
 „ posterioris, (Corrige 9. Gemadi
 „ prioris); postridie verò *ABULHASSE-*
 „ *NUS* Rex in urbem *Septam* trajecit.
 „ Multa alia hîc paucis complecti non
 „ licet; si quis plura velit, nostram
 „ consulat Historiam *Donum Saculi* in-
 „ scriptam. (a)

„ Rex *ABULHASSEUS*, clade sibi
 „ illata, operam omnem Regno ob-
 „ eundo, viribus colligendis, armisque
 „ parandis impendit. Quapropter *Ma-*
 „ *rochum* profectus, Reipublicæ rebus,
 „ ut par erat, consuluit; mox ad re-
 „ giones meridianas, (seu ad *Tuneta-*
 „ *num* Regnum) se contulit. Hîc illi

„ nunciatur *Tuneti* Regem *ABU IAHIAM*
 „ extinctum esse, ejusque filium *OMA-*
 „ *RUM*, virum potentissimum, rerum
 „ potitum, *AHMEDO* licet illi armis ad-
 „ versante fratre. Itaque Regem *ABU-*
 „ *LHASSENUM* Regni Proceres, ejus fau-
 „ tores, adnitente *ABU MOHAMAD BEN*
 „ *TAPHRAKINO* exercitûs Imperatore,
 „ ad Regnum illud occupandum in-
 „ flammarunt, Mahometanorum cau-
 „ sam ei maximè commendantes. *ABU-*
 „ *LHASSEUS* occasionem sibi ultro ob-
 „ latam, eamque non injucundam am-
 „ plexus, rem aggreditur mense Sa-
 „ pharo, anno Egiræ 748. *Beggia*, vel
 „ *Bugia* urbe, item *Constantinâ* captâ,
 „ *Tunetum* contendit, unde *OMARUS*
 „ illius Rex à factiosis victus, fugit;
 „ pau-

(a) وقصير الامر الي ابي الحسن علي بن عثمان فبادر الي منازلة اخيه المذكور
 فظفر به وقتله وبعث الجيوش الي جبل الفتح فنزلت حتي فنحة وحار الاجر
 والفخر به ولما نازل ابو تشفين امير بني نريان مدينة بجاية وضايق ملوكها
 الحفصيين استجاروا به وصاهروه فكتب اليهم في الافراج علي بلادهم ولما فرغ
 السلطان ابو الحسن من امر تلمسان واستصاب بلادها الي ابالته شرع في الاجارة
 الي الاندلس وشمر للجهاد فاوقع بعرو البحر واساطيل الروم الواقعة الشهيرة يوم
 السبت سادس شوال من عام اربعين وسبعماية وعبر الي جبل الفتح ونزل طريقته
 ثالث شهر المحرم وتمادي حصاره اياها فاعيت واستدعي محصورها ملكهم
 فخرج يقود العسكر اللجب مستمدا صلطان برتقال وسواه واسرع السلطان ابو
 الحجاج بن نصر سلطان الاندلس للحاق به ممد اياه وكان اللقاء بين
 الطايفتين بطاهر طريق وسما التدبير واختل مصاب المسلمين واضاعوا الحزم وخرج
 اهل البلد المحصور وهم شوكة وضيق مجال القتال اجفان الروم نافخة بشايب
 السهام حتي دخل البلد سرعان الروم فوقعت الهزيمة التي حصرت شوكة المسلمين
 واهلكت نفوسهم واكتسحت اموالهم واسلم السلطان مضاربه ومن جملتها
 ازواجه من بنات الملوك وقعت بهن المثلة بعد القتل وكان خطبا علي الاسلام
 قط ما فجع مثله ضحوة يوم الاثنين السابع لجمادي الاخرة من عام احد
 واربعين وسبعماية وفي ليلة اليوم بعده لحق بسبته ولا يوسع الاختصار فوق هذا
 ومن طلب المزيد فعليه بتحفة العصر من تاريخنا

„ paulóque post interfectus est. Quo fa-
 „ ctum, ut eum omnes etiam Arabes,
 „ in ejus verba jurati, summo cum
 „ plausu *Tuneti* Regem exceperint. Cu-
 „ jus tanta nominis, prolatique Impe-
 „ rii percrebuit fama, ut *Ægypti* Re-
 „ ges ejus potentiam extimescere cœ-
 „ perint. Quum autem Arabum mer-
 „ catores Aulicorum concordiam & ty-
 „ rannidem, perinde ac tenue lucrum,
 „ exiguamque compendii spem per-
 „ spexissent; unanimi consensu à Re-
 „ ge discessere, injuriam propulsantes
 „ jusque suum persequentes, additâ
 „ insuper hujusmodi contumelia: *Nos*
 „ *tibi hospitium, atque emolumenta con-*
 „ *cedimus.* His dictis, Regi Arabes bel-
 „ lum indixerunt: quos ipse aggressu-
 „ rus, statim insequitur. (a)

„ Quumque jam non procul ab
 „ urbe *Cairuan* esset, Arabum turba
 „ furore percita, ductu *AHMEDI BEN*
 „ *OTHMAN EBN ABI DABUS*, quem si-

„ bi exercitûs imperatorem delegerat,
 „ Regem ope & auxilio destitutum in
 „ deformem sanè fugam egit; Regique
 „ ararii, armorum, cæterorumque bel-
 „ li instrumentorum est potita. Illum in-
 „ terea ad urbem *Cairuan* confugien-
 „ tem cives, captis armis, ab Arabum
 „ impetu defenderunt. Contigit hujus-
 „ modi clades anno *Egiræ* 749. feriâ
 „ 2. die 7. *Moharami*. Arabes verò sa-
 „ lute Regis, in maximam rerum diffi-
 „ cultatem coniecti, propè desperata,
 „ *Tunetum* advolarunt, in *Aulæ* & *Re-*
 „ *giæ* domûs Principes insolentiùs elati,
 „ omnia miscentes, atque diripi-
 „ entes. Hinc Rex sibi metuens,
 „ arreptâ noctu fugâ, ex urbe *Cai-*
 „ *ruan* ad *Susam* profectus est, Arabi-
 „ bus eum acriter & cursu rapido in-
 „ sequentibus: adeo ut Rex, spoliatis
 „ fufisque comitibus, in tutum demum
 „ se receperit. Inde trajecto mari, *Tu-*
 „ *netum* appulit. Quum autem Arabes
 „ eum

(a) ولما جري علي السلطان القدر بالهزيمة اخذ بالجد في تفقد بلاده والاستعداد
 بطلب ثاره وجبر كسره فرحل الي مراكش ورتب الامور ثم توجه الي بلاده
 القبلية فاتصل به ما كان من وفاة الامير ابي يحيى ملكها وتنازع ولده بعده
 وما كان من توثب ولده عمر وسطوته في الناس ولحق به وجوه الدولة ولاك قطب
 رحاها الشيخ ابي محمد بن تفرابين فاطمعوا السلطان في تملكها وتوسع نظره
 فيها وواجبوا عليه النظر المسلمين بها فتحرك اليها في صفر عام ثمانية واربعين
 وسبعماية واستولي علي مدينة بجاية ثم علي مرفنة قسنطينة وزحف الي مدينة تونس
 وقد ظفرت بعض حصصه بعمر صاحب الامر بتونس فارا عنها فقتل واقتزت الارض
 الي طاعته ودخل العرب في طاعته وحرر الملوك بمصر ماشاع من بسطته وانفساح
 ايبانته وشهرة ذكره ودخل تونس في حقل لم يسمع بمثله ولما راي سكانها من
 العرب المعوضين مضم الدولة وقصر خطرهم وكشع امالهم نفرؤا عنه بواحدة وشرعوا
 بانزاله الشحنا واعتقدوا وصاروا نفسا واحدة علي قباين اغراضهم وناجزوه وجهروا
 بخلافه وقد نهرك محلا منتطول الثوا وغلا الاسعار وناوشوه الحرب فبرز اليهم
 واتبع اثارهم

„ eum ibi etiam obsedissent; ille, mu-
 „ nita urbe, auxilia à Tunetanis petiit,
 „ spondentibus pro ipso amicis, qui
 „ Regi supererant. (a)

„ Inter hæc tristis de ejus filio PHA-
 „ RESO ABU ANANO nuntius affertur,
 „ Regnum videlicet *Fessanum* usurpaf-
 „ se, ejusdem adnitente focero: quare
 „ graviter de utroque ipse conquerens,
 „ casum inauditum, longamque pa-
 „ tientiam tacitus deslebat. Amici igi-
 „ tur Regi mœstissimo discessum, re-
 „ ditumque ad Regnum suadere co-
 „ nati sunt, rati fore ut ipse eo consi-
 „ lio sibi, suisque rebus satis confu-
 „ leret. Porrò ejus filius, qui munifi-

„ centiâ, liberalitate & humanitate cæ-
 „ teros quosque præstabat, Rerum
 „ *Marochi* potitus est, inito cum Rege
 „ *Tremiffeni* fœdere, ut patrem aditu
 „ prohiberet. Rex tam infaulto atque
 „ iniquo tempore navim conscendit,
 „ *Tuneti* relicto in sui locum filio, ami-
 „ corum fidei credito, qui vix navi è
 „ portu soluta, mutato rerum statu,
 „ ab urbe discedere cogitur; idque
 „ mense Scheualo, anno Egræ 750. (b)

„ Jam verò ubi *Tuneti* littora Rex
 „ liquit, suborta repentè procella clas-
 „ sem huc atque illuc distraxit, Re-
 „ giamque navem infestis *Bugia* litto-
 „ ribus allisit; ita tamen, ut Rex nau-
 „ fra-

(a) ولما بلغ ظاهر القيروان اشتد عليهم عليه وقد نصبوا لاقامة امرهم احمد بن عثمان ابن ابي دبوس وخذل الناس وانهمزم السلطان هزيمة شنيعة تخلف لها المضارب والعدد والالات ثم لجأ بنفسه الي القيروان فاستجار بها فدافع عنه أهلها وكانت الهزيمة يوم الاثنين سابع محرم من عام تسعة وأربعين وسبعماية واخذت العرب بمخنفة وديس من النجاة وتوجه اميرهم الي منازلة من قسبة تونس من خواص السلطان والامنا علي بيت ماله وعياله وقد اخذوا لهبتهم فكانوا املك بها الي ان رمع السلطان الفرار ليلا من القيروان فخرج الي سوسة والعريان نظا اذباله وحرابه قنوشه الي ان امن علي نفسه وقد اخذ من معه النهب ومنها توصل في البحر الي تونس فاستقر بها ونازلته العرب فايلي أهلها في الذي عنه وصارهم بمن خلص له من ثقاته وحصن المدينة

(b) ثم اتصل به الخبير الفان في عضده من استبراد ولده فارس ابي عنان بالامر وامتسك حفيده بدرار ملكة فاس مودع ماله فجعل يشكوا منهما الي غير مصمت وينذب في طلل محيل وطلال به الامر واعى من لرية الصبر فحملوه علي الرحيل عن افريقية والرحال ببلاده يحسبون ان جبر حاله مقترن بخبر طلوعه عليها وقد كان ولده سلك سبيلا من البزل والاستيلاف لم يسبق اليه وترحل الي تملك الحضرة وتملكها وسلم في تلمسان لعدوه ليكون من بها سدا بينه وبين ابيه فركب البحر في الفصل المحزور والوقت المشوم وتخلف بتونس ولده لنظر من خلص له من اهل الوطن ردتما نشر قلح سفينة فانزعج الولد عن تونس وذلك في شوال من عام خمسين وسبعماية

„ fragii periculo ereptus, scopulum, ut
 „ potuit, à continente haud distantem
 „ manibus prensaverit, ubi corpore
 „ nudus mortem jam jam sibi immi-
 „ nere credidit. Unde etiam non sine
 „ ingenti animi dolore doctorum no-
 „ biliumque virorum, qui perierant,
 „ corpora fluctibus jactari & scopulis,
 „ quibus adhæserant, avelli prospicie-
 „ bat: ad hæc excubias clamore ma-
 „ gno ipsi mortem minitantes audie-
 „ bat. Tum demum navis quædam in-
 „ ter alias, Deo volente, periculo per-
 „ functa adventans, tempestate jam se-
 „ datâ, Regem ab interitu vindicavit;
 „ illumque in insulam *Algeziram*, vul-
 „ gò *Argel* pervexit: ubi tandem ali-
 „ quando ejus animus quiescere cœpit;
 „ maximè quòd illius cives eum sacra-
 „ mento obstricti pro Rege habuerint;
 „ Arabesque finitimi, necnon exigua
 „ id genus hominum turba ejusdem
 „ partes sequuti sunt. (a)

Julia Casarea, quam Arabes cor-
 ruptè *Algezair* vocitant, Europæi *Argel*
 & *Alger* appellant.

„ Quum autem Rex ad *Tremisse-*
 „ *nensis* Regni confinia se contulisset,
 „ incolæ adventanti occurrunt. Ipse fu-
 „ sis copiis, interfecto filio, turpissimâ
 „ *Tom. II.*

„ fugâ salutem petiit. Mox *ALNASSERI*
 „ filii, qui vulnere accepto in acie
 „ ceciderat, corpore secretiori tumulo
 „ mandato, *Marochum* ingressus est.
 „ Ibi tumultuosè excipitur clamoribus
 „ undique & indignatione partium, eo-
 „ rum maximè qui apud Regem gra-
 „ tiâ & auctoritate præpollebant; sub-
 „ sequiturque continuò Arabum irruen-
 „ tium colluvies. *ABU ANANUS* igitur
 „ ejusdem Regis filius militum delectâ
 „ manu instructus, patri obviam venit;
 „ & cum eo ad Occidentem versùs apud
 „ utramque ripam fluminis, nomine
 „ *Ommirabii*, (cujus descriptionem vi-
 „ desis apud *LEONEM AFRICANUM pag.*
 „ *284.*) congressus eodem anno supra
 „ memorato 750. ejus copias ita fu-
 „ dit, ut parum abfuisse tradatur, quin
 „ caperetur, nisi à suis qui evase-
 „ rant, adjutus, trajecto amne, in
 „ montem *Hentata*, (*LEONI AFRICA-*
 „ *NO Hanteta* dictum *pag. 67.*) sese
 „ recepisset. Ibi Rex, viribus collectis,
 „ rursus filium aggreditur; atque im-
 „ perii summa ad ipsum rediisset, nisi
 „ prælia Deus per summam providen-
 „ tiam ejus morte diremisset: quæ ac-
 „ cidit die 23. Rabii posterioris, anno
 „ *Egiræ 752.* (b)

Hh

„ Re-

(a) ولما فصل عن تونس طرق الاسطول الهول ففرقة شذر مذر وتكشر الجفـ
 المختص بركودة ببعض السواحل من مدينة بجاية وقد تصيرت الي عدوه ونجا بعد
 الغرق فتعلق بحجر قريب من البر عاري الجسد مباشرا للموت وهلك من كان
 معه من الفقهاء والعلماء والكتاب والاشراف والخاصة وهو يباشر مصارعهم وينظر الي
 اختطاف البحر ابيهم من فوق الصخور التي تعلقوا بها وعدو الساحل يصيحبه وبثرة
 الي قتله واتداركه الله باقبال جفن من جملة حايير وقد سكن الهول واستخلصه
 فاستقر بمدينة الجزائر وقد تمسكت بطاعته فانتشقت بها ريح الحياة واقام الرسم
 واستحلف والتف عليه بعض العرب من احوانها واوشاب من قبائلها

(b) ورحل الي الجهات التلمسانية وقد برز من بها الي لقاية فكان لهم الطقم

وهزموه

1997
 „ Regnum itaque adeptus ejus fi-
 „ lius , nomine PHARES ABU ANAN ,
 „ Princeps quidem magnus , ac bellica
 „ virtute , animi constantiâ , eruditione ,
 „ rebusque præclarè gestis eximius , de
 „ Regno in primis restituendo , exor-
 „ nandoque , perinde ac de titulis viro-
 „ rum nobilium augendis cogitare cœ-
 „ pit. Etenim confinia in eas viarum
 „ redegit angustias , ut nullus hosti pa-
 „ teret aditus ; Collegiisque & Hospitiis
 „ extructis , viros ad publicè prælegen-
 „ dum doctrinâ claros accierit. Tan-
 „ dem exercitu in urbem Tremiffenum
 „ inducto , cives trucidavit ; ejusque Re-
 „ gem OTHMANUM unâ cum fratre ca-
 „ ptum interfecit. Cujus Imperio sibi ,
 „ ut sui patris temporibus erat , vindic-
 „ cato , mœnia urbis diruenda curavit ,

„ ne hosti vel præfidio , vel sedi in po-
 „ sterum foret. (a)

„ Hinc Africam profectus , urbe
 „ Bugia captâ , Constantinam expugna-
 „ vit ; mox classè instructus , Tunetum in
 „ suam potestatem redegit , ubi rerum
 „ potitus est à mense Ramdano anni Egi-
 „ ræ 758. ad mensem usque Dilcadat
 „ ejusdem anni. Tandem anno 759.
 „ die 24. mensis Dilhagiat diuturno
 „ morbo confumtus interiit , relictis
 „ duobus filiis , inter quos variè de
 „ Regni summâ certatum : quod pau-
 „ lò post filius ABU BAKERUS ALSAID
 „ Administri sui ALHASSAN BEN OMAR
 „ ALPHADURI operâ adeptus est. Is
 „ quum phthisi laboraret , aliò transf-
 „ latus , siti enectus esse fertur. (b)

„ Occupato ab ABU BAKERO AL-

„ SAID

وهزموه هزيمة شنيعة استوصل فيها فله وقتل الناصر ولده وخلص ناجيا واحتمل ولده
 الناصر جريحا وتوفي فواراه واخفي مدفنه ثم اتصل بمدينة مراكش فدخلها
 وارتابش بما حمله به ولاقه والموملون في جهاتها وغرته العرب وسيلة المكاتب
 والاطماع من قبيله فتحرك وقد نهد اليه ولده في العسكر النصاره وكان اللقا
 بجهة الغرب من ضفتي وادي ام ربيع في العام المذكور ولما التقى الجمعان وقعت
 الهزيمة علي جيش السلطان وكاد يحصل باليد لولا تجا في متبعيه نزعوا واجاب
 الوادي ولحق بجبل هنتاتة وسكن ولده مراكش وصفق عليه بالحصار وعلي ذلك
 فكاد الامر يثوب له وانبت دعائه في بلاد المغرب لولا ان القدر فصل الخطة فتوفاه الله
 حتى انقذ في الثالث والعشرين لربيع الثاني من عام اثنين وخمسين وشعبانية ١١٠٢

(a) وخلص الامر لكف فارس ابو عنان بن علي وهو السلطان الكبير المجـرود
 المخطوط العالم البعيد الهمة المترامي الي الغاية جود الملك وعدد الالقاب وصيـر
 الايالة في اضيغ من الخرت وبنى المدارس والزوايا واستجلب الاعلام ثم تحرك
 الي تلمسان فهزم قبيلها واعمل السيف فيهم وقبض علي سلطانها عثمان واخيه فقتلها
 واستضاف الايالة الزيدانية علي ما كانت عليه ايام ابيه وللحين هن اسوارها كيلا
 تكون محل امتناع علي قبيله ولا دار لملك عدوه ١١٠٢

(b) فتحرك الي افريقية ففتح قسنطينه وذلك بعد ان تملك بجاية ودخل اسطولا

دونس

„ SAID Regno, interfectoque *ABU ZA-*
 „ *IANO* fratre & Imperii amulo, re-
 „ rum summa penès ejus tutorem *AL-*
 „ *HASSANUM OMARI* filium erat. Is ut
 „ Orientalem Africæ partem suæ ditio-
 „ ni subjiceret, exercitum, qui loca pa-
 „ raret, ad urbem *Tremiffenum* misit,
 „ incolas sibi amicos, non hostes ra-
 „ tus. Verùm spem fefellit opinio; nam
 „ *Zaianita* per id temporis animis ar-
 „ mati & audaciâ, *Tremiffenense* Re-
 „ gnum sibi jam creptum recuperare
 „ in animo habebant. Quare *Marino-*
 „ *rum* exercitus, qui *Tremiffenses* Re-
 „ gi *ABU BAKERO* infensos animadver-
 „ terat, timore perculsus, redire sta-
 „ tuit. Quo rerum loco *Tremiffenen-*
 „ *ses MANSOREM BEN SOLIMAN EBN*
 „ *MANSOR BEN ABDELUAHED BEN JA-*
 „ *COB*, virum annis gravem, pruden-
 „ tem, ac rerum experienciâ doctum,
 „ sibi Regem delegere; moxque ipso
 „ duce, ad Regiæ urbis (*Fessa*) obli-
 „ tionem iter maturavere. Iis occurrit
 „ *ALHASSANUS* cum Rege *ALSAID* ag-
 „ Tom. II.

„ gressurus; sed à militibus in acie de-
 „ lertus, ad Regiam urbem cum Re-
 „ ge redire tandem cogitur, apud quam
 „ *MANSOR BEN SOLIMAN* castra metatus,
 „ sic illum afflixit, ut tota ipsi Africa
 „ parere cœperit. (a)

„ Ubi verò *ABU ANANUS* Rex in
 „ solium est evectus, consanguineos &
 „ Sobrinos aliquos ad Hispaniam mitte-
 „ re fatiùs duxit: quos inter numeran-
 „ dus *ABRAHAMUS* Regis *ABULHASSANI*
 „ filius, qui ibidem morandum cen-
 „ sult, ut fortunâ alternante, tempori
 „ consuleret. Quum autem Regnum
 „ Africanum per Principum litteras in
 „ utramque agitari partem intellexisset;
 „ quumque Regis *Granata* subsidium
 „ sibi quoque defuturum certò com-
 „ perisset, Christianum *Hispalis* Re-
 „ gem adiit, à quo humaniter & blan-
 „ dis sanè verbis excipitur; inde navi
 „ quam ipsi Rex ad iter paravit, unâ
 „ cum suis vectus, ad littora *Gomerae*
 „ appulit: ubi diebus aliquot interposi-
 „ tis, spes illi haud exigua *Septa, Tin-*
 „ Hh 2 „ *gis*

تونس فملكها في رمضان من عام ثمانية وخمسين وسبعماية واستمرت دعوتها بها الي
 ذي قعدة من العام وفي الرابع والعشرين لذي حجة من عام تسعة وخمسين
 وسبعماية كانت وفاته لعلة لانتمته وتوقع لولوا امره اضطراب الاحوال بين ولديها
 فبودع منهما ابو بكر السعيد مختار وزيره الحسن بن عمر الفدوري ثم جي
 فراجع فوثة فاستخرج من بيت تميزه الي غيره ونزعوا انه اغتيل وده رمق

(a) ولما استقر الامر علي ولده ابي بكر السعيد وقتل اخيه المنارح فيه ابو نريان
 فهض ونزع الحسن بن عمر بالكل وقام بالامر ونرام ان يضبط عليه ابيالة الشرق
 فوجه الجيش الي تلمسان لتمهيد اوطانها وقد شمر قبيل بني نريان لاسترجاعها وربع
 الجيش المريني لتنفور نفوس اهل تلك الجهات عنه فقدموا سلطانا من انفسهم منصور
 بن سليمان ابن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب رجل كهل من اولي الرجاحة
 والنرسيع الي الامارة وصرفوا به وجوههم الي الحضرة وخرج الوزير بالولد السعيد الي
 مدافعتة ففر عنه الناس ورجع به الي دار ملكه فعمل عليه الانحصار ونارله منصور
 بن سليمان وخلصت له الطاعة في جميع اقطار المغرب

1797
 „ *gis & Asila*, (quam *Arzillam* no-
 „ minat *LEO AFRICANUS pag. 156.*)
 „ incolas sibi subjiciendi affulfit. Quæ
 „ quidem res, *Zaianitarum* factione ad
 „ arma paratissimâ, male illi cessisset,
 „ nisi Deus rerum statum ex inopinato
 „ permutasset. Ea enim tempestate ac-
 „ cidit, ut *ALMANSOR BEN SOLIMAN* à
 „ suis planè destitutus, ad *Risæ* mon-
 „ tes una cum filio confugerit; omnes-
 „ que uno ore *ABU SALEMUM* Regem
 „ salutaverint. Quem ubi adventantem
 „ sensit *ALMANSORIS* Consiliarius in
 „ *Marochi* arce munitus, suis rebus
 „ consulturus, sese in illius fidem per-
 „ misit, Legatis fidelissimis ad ipsum
 „ missis. *ABU SALEMUS* interea urbem
 „ ingressus anno *Egiræ* 760. feriâ 5.
 „ die 15. mensis *Schabani*, universâ
 „ fermè *Africâ* dominari cœpit. (a)

„ Quum ergo rerum potitus esset
 „ *ABU SALEMUS*, *MANSOR* ejusque filius
 „ unâ cum reliquis factiosis, qui in
 „ oppidum *Bedis* (ab Hispanis *Veles de*

„ *Gomera* appellatum apud *LEONEM*
 „ *AERICANUM pag. 163.*) sese recepe-
 „ runt, compede vincti, *Fessam* ducti
 „ sunt, ad cujus portam ad sui igno-
 „ miniam, aliorumque exemplum cor-
 „ pore nudi sunt interfecti. Eodem re-
 „ gnante, *Granata* Rex *EBN NASSE-*
 „ *RUS* variis vexatus incommodis, Re-
 „ gnoque pulsus, ac rebellium armis
 „ non semel impetitus, in urbem *Gua-*
 „ *dix*, ut se ab hostibus tueretur, se-
 „ cedere cogitur. Trajecto exinde ma-
 „ ri, *Fessam* ad Regem *ABU SALEMUM*
 „ se contulit ineunte *Egiræ* anno 761.
 „ feriâ 4. die 6. *Moharami*: qui ei
 „ magnifico & nunquam aliàs viso cum
 „ apparatu, Regia indutus veste, gla-
 „ dio cinctus, generoso equo vectus,
 „ magnaue nobilium caterva stipatus
 „ occurrit; eumque humaniter atque
 „ honorificè Regia domo excepit. Ibi
 „ ille confedit ad diem usque decimum
 „ octavum mensis *Scheuali* anni 762;
 „ inde ad *Hispaniam* cum copiis auxi-
 „ lia-

(a) ولما تصير الامر للسلطان ابي عنان ظهر له ان صرف الي الاندلس طايفة من
 اخوته وبنى عمه اما ابراهيم بن امير المسلمين ابي الحسن فاستقر بها يرتقب تحول
 الاحوال فحين تعرف اضطراب الوطن وحركته مخاطبات روسايه فر الي ملك الروم
 وقد ايس من اسعاف سلطان الاندلس علي هذا الغرض وقدم عليه اشبيلية فرقق
 له ووعدته واستنزله فجهز له جفنا من اسطولة اركبة اياه ومن معه من رفقاه وجهته
 وقصد سواحل البلاد الغربية فنزل بساحل غمارة واستقر لديهم واثاب له امل بدخول
 صبتة وطنجة واصبلا في دعوته وجهزت الحصص الي مدافعتة وكاد امره يفسد لولا ان
 الله ازال الحال بنفرة الناس عن منصور بن سليمان بواحدة وانه لما راي خذلان
 الناس اياه فر علي وجهه الي جبال الربيع هو وولده فتلاحق الناس السلطان ابي سالم
 مبشرين ومستعدين وقد كان الوزير المحصور لما تعرف بجوانحه من الاندلس الي
 طلب الامر اظهر القيام بدعوته فلم يمكثه البدا في امره ولا استيناف الحصار فراسله
 في جملة من ركن اليه وتحرك فرخل البلد الجديد يوم الخميس الخامس عشر
 من شهر شعبان عام ستين وسبعماية واستقام له الامر ودخلت الجهات كلها في
 طاعته

„liaribus missus, *Granata* Regnum si-
„bi demtum recuperavit. (a)

„Die verò vigesimâ mensis Dil-
„cadat ejusdem anni 762. Rex *ABU*
„*SALEMUS*, novæ urbis (*Fessa*) portâ
„sibi clausâ, ad *Fessam* veterem refu-
„git, ratus cives & suas partes sequutu-
„ros, & opem sibi quàm maximam
„allaturos; sed opinione falsus, sui exi-
„tium cùm ibi, tùm ubique invenit.
„Nam fratre, quem habebat lunati-
„cum, nomine *ABU OMAR TASCHPHIN*,
„Rege per id temporis à *Fessanorum*
„factione electo, dissidentium animos
„ad concordiam revocare frustra co-
„natus est. Hinc conjuratorum ma-
„nu in diem invalescente, illius quo-
„que Aulae Principibus, simulque
„amicis ab ipso deficientibus, de sa-

„lute omnino desperavit: adeo ut po-
„stridie captus, ac prope novam *Fes-*
„*sa* urbem adductus, interemtus fue-
„rit. (b)

„*TASCHPHINUS* contemptui jam
„habitus, imperium abdicare cogitur.
„Qua occasione sibi oblata, Princeps
„*ABU MOHAMAD ABDELHALIM*, *BEN*
„*ABI ALI OMAR*, Regis *ABU SAID* ne-
„pos, dominandi cupidus, favorem,
„auramque popularem captavit; &
„*Fessa* obsessa, Legatum suo nomine
„misit urbis Prætorem *ABU SALE-*
„*MUM*, qui à Christianorum in Hispa-
„nia Rege auxilium peteret. Inter
„hæc *ABU ZALANUS MOHAMAD BEN*
„*ABI ABDELRAHMAN* Regis *ABILHAS-*
„*SANI* nepos, *Fessam* venit die 26.
„Scheuali, anno 763. ubi rerum
„sum-

(a) ولما استوثق الامر لابي سالم فقبض علي منصور وولده ومن معهما ببادس وسيقتوا
مكبولين ممثلا بهم وقفرا في الملا وقتلا بباب البلدة وحل في حضرته ابن نصر
اشارة لماجري علي الدولة النصرية لاوليات ايامه من الوثوب بها واقتحام القلعة وفرار
السلطان امير المسلمين بالمدينة عليه المكيدة وامتناعه بمدينة وادي اش ثم جوارحه
البحر مستدعي من قبل السلطان ابي سالم فقدم عليه مدينة فاس في يوم الاربعاء
السادس من شهر محرم عام احد وستين وسبعماية وولي من تحفيته والنزول الي
لقايد بالخلع والمر اكب والمبررات وانسحاب الحرايات علي من له من الخدم
والاتباع ما لم يسمع بمثله واقام لديه مكرما ملطفا الي الثامن عشر من شهر
شوال عام اثنين وستين وسبعماية وصرفه الي طلب حقه واعانه عليه فجهزه الله بسعيه
ورد حقه عليه

(b) وفي يوم العشرين لذي قعدة عام اثنين وستين وسبعماية سد باب البلد الجديد
في وجهه وقد تحول عنه الي سكني البلد القديم ذوقا لاثر قاطع تقوي به وكان
البلا فيه من كلا بالمنطق ووديع به اخوه ابو عمر تاشفين المختبل ثم بادر الامير ابو
سالم الي ضم الناس والشروع في المحاولة فاتسع الخرق علي الراقع وتسابل الناس
الي البلد المخالف وفروا عن السلطان والتف عليه مودك من وزايره وخالصته
قتلوا عنه واقردوه وسقط في يده فساح لايهتدي سبيلا ومن الغر قبض عليه وسيق
الي قريب من البلد الجديد وقتل

„ summâ ad nostram usque ætatem
 „ potitur. (a)

„ *GRANATÆ HISTORIA.*

„ Procemium *ABI ABDALLÆ BEN AL-*
 „ *KHATHIBI ALSALEMI*, viri eruditione
 „ & eloquentiâ clarissimi, in *Granata*
 „ ejusque Regum Historiam.

„ Quum Regum Annales Princi-
 „ pibus viris exemplo, aliis verò docu-
 „ mento sint, ut ii potissimum qui cer-
 „ tissimis hujusmodi monumentis evol-
 „ vendis operam navant, fortunæ vicif-
 „ situdine, rerumque caducarum varie-
 „ tate, ac multorum casuum terrore
 „ perculsi, Deum non faciliè obliviscan-
 „ tur: Historiam idcirco Regum *BENI*
 „ *NASSER* conscribendam, eorumque
 „ memoriam tenebris veluti obrutam ex
 „ Annalium vetustate eruendam existi-

„ mavi: ubi selectissima, quæ illorum
 „ Imperii fines, sedem, resque præclare
 „ gestas spectant, suo quæque ordine
 „ recensebo. Deinde penes quos Princi-
 „ pes, aut Duces genere & nominis
 „ celebritate claros *Granatæ* Imperium
 „ lapsis retro seculis fuerit; qui tum Præ-
 „ tores, qui à Consiliis, qui à Secretis
 „ apud ipsos floruerint; tum etiam qui
 „ Reges summi & potentissimi ipsorum
 „ temporibus extiterint; ac postremò si-
 „ quæ alia notatu digna videantur, refe-
 „ renda curabo. Hanc porrò Epitomen
 „ *Plenilunii Splendorem* inscripsi: in qua
 „ siquid boni dignique reperias, pro-
 „ positum jam sum assequutus & ope-
 „ ris ac laboris pretium, idque ad Dei
 „ laudem & gloriam, cujus ductu &
 „ benignitate hoc operis jam scribere
 „ & in partes distribuere, ut sequitur,
 „ aggredior. (b)

„ Pars

(a) ثم انزل تاشفين وخلع وكان الامير ابو محمد عبد الحلیم بن الامير ابي علي
 عمر بن امير المسلمين ابي شعيب تحرك داعيا لنفسه ودخل الناس في امره ونازل
 البلد الجريد فوجه الامير المستقر ابي سالم الي ارض الروم فوصل ابو نريان محمد
 بن الامير ابي عبد الرحمن ابن السلطان ابي الحسن الي البلاد الجريد ودخله في
 السادس والعشرين من شوال عام ثلاثة وستين وسبعماية وهو الان صاحب الامر

(b) كتاب تاريخ غرناطة

المقدمة

قال الشيخ المتفنن الفصيح ابي عبد الله بن الخطيب السلماي اما بعد فان
 في تاريخ الدول عبرة لاولي الهني وذكر لمن غفل عن الله وسهي لتحول الاحوال
 وتصير الرسوم الي الزوال وتلاعب زعماع الاهوال بالنفوس لاسيما التاريخ الذي لم يهتد
 لضمه لديوان لقلّة عيان او تاخر زمان فالنفوس اليه متطلعة وداجتلا انباية متولعة
 لذلك ما جلبت في هذا الكتاب ذكر ملوك النصيرية علي نسق واطلعت منهم في
 ليل الجمر بدور عسق ان كنت جنيت اخبارهم وقطب مدارهم وزمام دارهم
 فذكرت نبذا من اخبار وطنهم الذي سكنوه وافقهم الذي حسنوه بسيرهم الحميدة
 وزينوه ومن دال به قبلهم من امير او من ذي حسب شهير ثم تعاقبهم بحسب الزمان
 وسعة

„ Pars prior agit de Urbe, totius
 „ eorum Imperii sede, ubi & brevis
 „ ejusdem occurrit Descriptio; secunda
 „ de Provinciis & locis quibusque ad
 „ ejus ditionem pertinentibus; tertia de
 „ Principibus Regibusque qui in ea-
 „ dem urbe imperitarunt; quarta de
 „ ejus civium moribus, variisque do-
 „ tibus; quinta de ejusdem Regum or-
 „ dine, seu ferie, ac rebus præclare
 „ gestis. (a)

„ PARS PRIOR.

„ DE GRANATÆ

„ DESCRIPTIONE.

„ Granata urbs, quam exteri (He-
 „ braei scilicet, seu Phœnices) *Garana-*
 „ *tam*, id est *Peregrinorum Coloniam*,
 „ nostrates *Hispaniarum Damascum* di-
 „ xere, insigne olim *Albiræ* oppidum
 „ erat, ab ea milliariis ferè quatuor dif-
 „ situm. Regia deinde sedes sæculo Egi-
 „ ræ quarto facta, quàm maximè incla-
 „ rescere cœpit. *Granata* porrò ad Clima
 „ quintum spectat, quod ab Oriente,
 „ scilicet *Fagorum* Regno, deductum,
 „ per *Chorasnam*, per *Syriæ* littora,

„ atque tandem per bonam Hispaniæ
 „ partem ad Oceanum usque Occiden-
 „ talem porrigitur. Cœli temperie mi-
 „ tis, cæterisque soli proprietatibus *Da-*
 „ *masco* non absimilis certè est. A *Cor-*
 „ *duba*, prima & antiqua Regum se-
 „ de, quam Deus nobis restituat, mil-
 „ liariis nonaginta (secundùm *GEOGRA-*
 „ *PHUM NUBIENSEM* centum) Orien-
 „ tem inter & Meridiem distat; à ma-
 „ ri verò *Damasceno*, quod ab eo in
 „ Occidentem & Austrum versùs re-
 „ cedit, *Baridas* plus minusve quatuor
 „ abest.

N O T A.

Barida, Persica vox, *Tabellarium*,
 vulgò *Posta*, sonat; estque mensura
 itineraria duabus, vel tribus constans
 parasangis, quarum singulæ secun-
 dùm *ABULPHEDAM*, aliosque rerum
 Orientalium Scriptores III. milliaria
 continent.

„ Ab Oriente & Meridie Mon-
 „ tes, Orientem inter & Austrum *Al-*
 „ *boragelat* (id est *Turres*, vel *Ar-*
 „ *ces*, Hispanis *Alpujarras*); Campum
 „ tandem (vulgò *Campiña*, quæ vox
 „ Arabibus Hispanis etiam usitata)
 „ Me-

وسعة الامكان ومن اختص بهم من قاض وكاتب ووزير او كان علي عهدهم من
 ملك كبير او حادث يليق بتجليد او تسطير وسميته باللمحة البدوية في الدولة
 النصرية فان كانت الاجادة فهو القصد او كاذت الاجري بزل الجهد وحصلت البراة
 من التقصير ولله الحمد وهانا اجتري وبالله اهتدي وعفوه يتعمد ماخطته يدي ويتقسم
 حسبما ما يذكر

(a) القسم الاول في ذكر المدينة التي اقتعد هذا الملك سريرها واحكام
 تدبيرها القسم الثاني فيما يرجع اليها من الافاليم والافطار علي الايجان والاختصار
 القسم الثالث فيمن دال بها من امير وسلطان شهير القسم الرابع في عوايد اهلها
 واوصافهم علي تباين اصنافهم القسم الخامس في نسق الدول واتصال الاواخر منها
 بالاول وما يخص كل دولة من اللقب والاذيال المستظرفة والاعقاب

Meridiem & Occasum versùs ha-
bet. (a)
Est autem *Granata* urbium ma-
ximè maritimarum Metropolis , fu-
perbum totius Regni caput , nobile
mercatorum emporium , classiariorum
militum optima parens , pere-
grinorum undique terrarum con-
fluentium receptaculum , perpetuus
fructuum sibi mutuò succedentium
hortus , gratissima hominum remo-
ra , publicum ærarium , agris locif-
que munitissimis celeberrima civitas,
immensum tritici mare & leguminum
præstantissimorum , necnon serici at-
que sacchari ferax fodina. Non pro-
cul ab ipsa eminet mons , *Sier-
ra* nuncupatus , candore nivium &
aquarum bonitate insignis. Accedunt

aëris salubritas , hortorum amœnissi-
morum copia , ut & herbarum at-
que lectissimorum aromatum varietas.
Inter singulares illius dotes ea in-
primis est censenda , quòd nullo an-
ni die sementes , vireta ac lata pas-
cua desideres. Illius territorium au-
ro , argento , plumbo , ferro , tutia ,
marcalita , & sapphirino lapide af-
fluit. In ejus montibus , paludibusque
peucedanum , gentiana , & spica nar-
di nascuntur. Tandem coccum in ea
reperias , quo bombycina tinguntur ;
bombycis enim maxima ibi copia
cum ad commercium , tum etiam ad
usum colligitur : adeò ut ejusmodi
bombycinæ vestes mollitie , tenuita-
te & nobilitate Afsyrias longè supe-
rare meritò dicantur. (b)

„ Ad

(a) القسم الاول في ذكر مدينة غرناطة

غرناطة اسم اعجمي مدينة كورة البيرة وتسمى شام الاندلس وانتقل الملك
اليها عام اربعماية من الهجرة ومن البيرة علي نحو فرسخ وثلاث فرسخ ولها من
الشهرة بنفسها واعلامها ما هو معلوم وغرناطة من معمور الاقليم الخامس بيندي من
بلاد ياجوج ثم يمر علي خراسان ثم سواحل الشام ثم علي كثير من بلاد الاندلس
الي البحر المحيط الغربي فهي قريبة من الاعتدال شامية في اكثر الاحوال بينها
وبين دار الملك الاول قرطبة اعادها الله تسعون ميلا وهي منها بين شرق وقبلة والبحر
الشامي بين غرب وقبلة علي اربعة برد والجبال بين شرق وقبلة والبراجلات بين
شرق وجوف والكنبانية بين جوف وغرب

(b) فهي لمكان جوار الساحل ميامرة بالسمك والبواكر طيبة للتجار ركاب
للجهاد في البحر ولمكان استقبال مقصودة بالفواكة المتاخرة اللحاق متماسكة
في الجروب معللة بالمدخرات ولمكان استدبار الكنبانية واضطبان البراجلات بحر
من بحار الحنطة ومعدن من معادن الحبوب المفضلة والحديد والسكر ولمكان
جبل الثلج شليبر الشهر في جبال السفرة اطرب بها المياه وصح الهوا وتعددت
المساتين والجنان والتنف الدوح وكثرت الاعشاب الطيبة والعقاقير الروائية ومن
فضايلها ان ارضها لا تعدم زريعة ولا ريحا ايام العام وفي عمالتها المعادن الجوهريّة
من الذهب والفضة الرصاص والحديد التوتيا والمرقشيشا والانزورد وبجبالها وبطاحها
الاندراسيون

„ Ad Campum, seu agrum illius
 „ quod attinet, amœnissimus est, &
 „ *Damascena* Tempe prorsus æmularur;
 „ proindeque ad equitationem & am-
 „ bulationes diù noctûque planè ac-
 „ commodatus locus. In planitiem suâ-
 „ pte naturâ porrigitur; rivis flumi-
 „ nibusque alluitur. Adjacent ubique
 „ complures pagi & horti, qui ædifi-
 „ ciorum pulchritudine, atque arbo-
 „ rum plantarumque cultu illum ma-
 „ ximè exornant; simulque colles ac
 „ montes circumjacentes quadraginta
 „ milliariorum spatium patentes penè
 „ femicirculi facie ambiunt. Neque in-
 „ de procul sita est magna *Granata*
 „ urbs, quæ unâ cum suburbiis præ-
 „ cellis suffulta collibus quinque, par-
 „ tim in clivos amœnos assurgit, par-
 „ tim in latissimam planitiem perpetuis
 „ ædificiis & habitatoribus frequentif-
 „ simam ad locum usque *Cor-Alnah*
 „ protenditur. Præterea quàm felicem,
 Tom. II.

„ quàm formosam illam reddant auræ
 „ lenitas, aëris clementia, pontes extru-
 „ cti, templa egregia, atque fora
 „ commoda, dictu vix facile est. Eam
 „ deinde secat insignis amnis, nomine
 „ *Darro*, qui ab Oriente fluit, deinde
 „ extra urbem flumini *Singili*, quod ab
 „ Meridionali ejus latere præterfluit,
 „ sese adjungens, per medium spa-
 „ tiatur Campum (vulgò *La Vega*); tan-
 „ demque rivulorum, aliarumque irri-
 „ guarum, quæ supersunt, aquarum
 „ copiâ auctum, Nili instar crescit, ac
 „ longè latèque diffusum, *Hispalim*
 „ fertur. (a)

„ Pulchriori rursus prospectu ex
 „ adverfo eminent altera veluti urbs,
 „ nomine *Alhamra* (id est *Rubra*, vul-
 „ gò *Alhambra*) ubi Regia visitur se-
 „ des; spectantur turres præaltæ, ar-
 „ ces munitissimæ, magnifica palatia,
 „ atque alia id genus pulchra ædificia,
 „ quæ suo vel aspectu oculos, animos-
 „ que

الاندراسيون والسنبيل والحنطيانا وبشعار ايها القرمز الي غلة الحرير الذي فضلت تجرا
 وقتبت به هذه الكورة فلا يشاركها في ذلك الا البلاد العراقية مقصرة عنه رقة ولدونة
 وعتاقة

(a) وفحصها الافصح المشبه بالغوطة حديث الركاب وتسمر الليالي قد دحاه الله في بسيط
 تخترقه الجداول والانهار وتتراحم به القري والجنات في احسن الوضع واحفل نرع
 اربعين ميلا تحرق الهضاب والجبال المتظامنة منه بشكل ثلثي دايرة قعدت المدينة
 منه فيما يلي المركز مسندة الي اطواد سامية وهضاب عالية ومناظر مشرقة وبشتمل
 شكل هذه المدينة العظيمة وما يرجع اليها من ارياضها علي جبال خمسة وسهل فسح
 الساحة بعير الاقطار متراكب العمارة لا يتحمله خراب ولايباض علي حد ما عليه
 كور النحل قد ضم من النسيم ما لا يحيط به الا من كتب الحركات واحصي
 الانفاس الي الجسور المحكمة والمساجد العتيقة والاسواق المنتظمة يشق البلد النهر
 الشهير المسمي بهرارة اتيا من جهة الشرق ويجتمع بخارجها بوادي شنجل الاتي
 من قبلها يشق الفحص الافصح ولايزال يعظم مره بما يضاف اليه من فضول السقي
 ومواقع الانهار باحوارها الي ان يمر باشبيلية وقد صار نبلا عظيما

„ que in admirationem sui planè ra-
 „ piunt. Hinc maxima aquarum copia,
 „ quæ ex variis fontibus ingenti mur-
 „ mure & strepitu è longinquo exau-
 „ ditur, perlabens, agros camposque
 „ irrigat. *Granata* similiter exteriora
 „ mœnia circumdant horti amplissimi,
 „ ac lectissimi, ut & arbores sepium
 „ instar confertæ; ita tamen ut venu-
 „ stiora illa ædificia inter ejusmodi vi-
 „ ridaria tanquam stellæ quædam mi-
 „ care videantur. Neque ibi est locus,
 „ qui pomariis, vineis & hortis careat.
 „ Deinde planities, quæ longè latèque
 „ patet, tot fruges atque olera fundere
 „ solet, ut nonnisi viri principes eorum
 „ pretia æquare opibus suis possint. Cu-
 „ juslibet enim horti annuus proven-
 „ tus quingentis nummis aureis æsti-
 „ matur; atque ex iis omnibus mi-
 „ næ triginta Regi persolvuntur. Plures
 „ præterea agri multiferi circumjacent,
 „ ubi nec folia virentia, nec fruges
 „ tempore ullo desideres. Quo fit ut
 „ perpetuus eorum sit cultus, eorum-
 „ que redditus annuus viginti quinque
 „ aureorum millium summam ad no-
 „ stra usque tempora conficiat. (a)

„ Cernas & ibi Regis rura sum-
 „ ptuosissima, arborum serie, planta-
 „ rumque varietate mirum in modum
 „ jucunda. Pulchro etiam aspectu su-
 „ per eminent turre; ampla patet pla-
 „ nitias; confluunt aquæ & ad balneo-
 „ rum usus & ad molarum commoda
 „ perennes, quorum proventus in ur-
 „ bis cedit munitiones. Regia itaque
 „ hujusmodi prædia milliariorum XX.
 „ spatiis continentur: quorum quidem
 „ cultui & nitori complures coloni
 „ validi, ac lectissima animalia infer-
 „ viunt; in plerisque etiam arces, mo-
 „ lendina & sacræ ædes visuntur. Ad
 „ hæc prædiorum ornamenta accedit
 „ mira telluris pinguitudo & ubertas,
 „ quæ sanè præcipua rei rusticæ pars
 „ est. Contingunt hujusmodi prædio-
 „ rum fines complura oppida circum-
 „ jacentia, cum agro, tum populis in-
 „ signia. Qua in latissima regione sunt
 „ etiam arva cultui & pascuis destina-
 „ ta; suppetunt villæ, suburbia, atque
 „ loca frequentissima; rura quoque
 „ patent, quæ ad unum, vel duos,
 „ pluresve pertinent. Eorum omnium
 „ porro locorum nomina supra tercen-
 „ tum

(a) ومدينة الحمرا دار الملك مطلة علي معمورها في سمت القبلة تشرف عليه منها الشرفات البيض والابراج السامية والمعاقل المنبوعة والقصور الرفيعة تغشي العيون وتبهر العقول وتندرد من فضول امياها وافيض حوايرها ودرکها في سفحة جداول تسمع علي البعد اهزاجها ويحق بسور المدينة البساتين العريضة المستخلصة والادواح الملتفة فيصير من ذلك خلق سياج تلوح نجوم الشرفات البيض اثنا خضراية فلا تعري جهة من جهاته علي الجنات والكروم والبساتين واما ما حانزه السهل من حوفية فمني عظيمة الخضرة متناهية القيم يضيق حدة من عدا اهل الملك علي الوفا باثمانها منها من يغفل في السنة شطر الالف من الذهب علي حمول اثمان الخضرة بهذه المدينة يختص منها بمستخلص للسلطان ما يناهز ثلاثين مائة ويحيط بها ويتصل بازيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريح وما ينتهي المرجع العملي منه الي نحو خمسة وعشرين الف ديناراً من الذهب لعهدنا هذا

„ tum numerantur. Collegia ac tem-
 „ pla sunt quinquaginta; molæ autem
 „ aquariæ, quæ extra urbem visuntur,
 „ plus centum & triginta recensentur. (a)

„ De anno quo capta sit *Granata*
 „ multum variant Auctores. Scriptor
 „ enim *EBN ALCUTHIA* memoriæ pro-
 „ didit *FULIANUM*, qui (ut nemini latet)
 „ acceptas à *RODERICO* Rege injurias
 „ armis ultum ire decreverat, Arabas
 „ ad Hispaniam expugnandam inflam-
 „ maste, & *THAREKUM BEN ZAIAD* Du-
 „ cem, fufis Christianorum apud flu-
 „ vium *Guadalete* copiis interfectoque
 „ Roderico, sic alloquutum esse: Quo-
 „ niam Hispanos in fugam vertisti, eo-
 „ rum Proceres profligasti, metumque
 „ omnibus incussisti; reliquum est ut
 „ primariam illorum urbem in tuam
 „ redigas potestatem: quare auctor ti-
 „ bi sum ut collectas copias in plura
 „ agmina distribuas, eaque in varias
 „ eorum regiones mittas. Interim iter
 „ *Toletum*, Hispaniarum caput, para;
 „ *Tom. II.*

„ ibique Christianorum animos in alia
 „ atque alia distractos à fœdere cum
 „ eorum Principibus avertere curabis.
 „ *TAREKUS* ergo, nullâ interpositâ mo-
 „ râ, divisio in legiones exercitu, qua-
 „ rum unam *Cordubam*, duce *ALRO-*
 „ *MEO* gente Christiano, Imperatoris
 „ *ALVALIDI* liberto, alteram *Malacam*,
 „ tertiam ad urbes *Illiberim* & *Gra-*
 „ *natam* misit. *Toletum* expugnaturus,
 „ *Faenum* copias unâ cum Proceribus
 „ eduxit. Exercitus, *Malacâ* captâ,
 „ cum altero *Granatam* misso agmine
 „ conjunctus, *Illiberim* ad deditio-
 „ tandem aliquando coegit, quàm po-
 „ steà Judæis colendam, Arabibus tuen-
 „ dam tradidit. *MOAVIA* verò *BEN HE-*
 „ *SCHAM* (Regis Hispaniarum filius)
 „ aliique Scriptores supra memorata-
 „ rum urbium expugnationem dilatam
 „ esse tradunt ad Ducis *MUSÆ BEN*
 „ *NASSERI* in Hispaniam adventum,
 „ qui ineunte anno Egiræ 93. unâ
 „ cum filio *Tadmirum*, *Albiram* & *Ma-*
 „ *lacam* subegit. (b)

li 2

„ Hi-

(a) وفيه مستخلص السلطان ما تصيف عنه بيوت الاموال ذرعا وغبطة وانتظاما يرجع
 الي دور ناجمة ودروج سامية وديادر فسيحة وقصاب للحمايم والدواجن ما نلت منها
 في حمي البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف علي العشرين بها
 الجميل الضخمة من الرجال والفحول من الحيوان للذخيرة وعلاج الفلاحة وفي كثير
 منها الحصون والارحا والمساجد ويتخلل هذا المتاع الغبيط الذي هو لباب الفلاحة
 وعين هذه المدرة الطيبة ساير القرى والبلاد التي جايري الرعية مجاورة لحدودها
 ذكر بلاد عربضة وقرى اهلة منها ما انسبط وقدمن فاشترك فيه الالوف من الخلق
 وتعددت فيه الاشكال ومنه ما انفرد بملك واحد او اثنين فصاعدا وتنيف اسماؤها
 علي ثلثمائة تنصب في نحو خمسين منها مناجر للجمعات بها وبشتمل سور هذه المدينة
 وما وراء من الارحي الطاحنة بالما المعين علي ازيد من مائة وثلاثين رحا بها

(b) فصل

واختلف المورخون في خبر افتتاحها فقال ابن القوطية ان يليان الذي تدب العرب
 الي غزو الاندلس طلبا بوثره من ملكها لزيق بما هو معلوم قال لطارق بن زياد
 مفتتحها

„ Hispaniam felicissimè expugna-
 „ tam Arabes undique confluentes in-
 „ colere cœperunt : quos inter jure
 „ memorandi nobilissimi Syri, qui huc
 „ cum *BALEGIO* Principe, *BASCHERI AL-*
 „ *COSAIRI* filio, ad decem equitum mil-
 „ lia advenere. Ii proinde *Syro-hispa-*
 „ *ni* vocitantur ; qui verò cum *MUSA*
 „ & *TAREKO* Hispaniam sunt ingressi,
 „ jure Regio *Hispani* nudè dicuntur.
 „ *Syri* autem cum Legione Damasce-
 „ na in regione *Albira* confedere, quæ
 „ ab eadem exinde *Damascus* dicta est ;
 „ quemadmodum urbs *Faen* à Legione
 „ *Kiniferinensi* *Kiniferina* (hæc vetus &
 „ primaria *Syriæ* urbs, diei unius iti-
 „ nere ab *Alepo* distita : videtis *GO-*
 „ *LIVUM* in Notis ad *ALPHERGANUM*, pag.
 „ 276.) ; *Hispalis* à Legione *Emessena*,
 „ *Emessa* ; atque ita loca alia ab aliis
 „ copiis nomen acceperunt. Hanc præ-
 „ terea *Illiberitanam* Regionem nobi-
 „ liores Arabum familiæ, quæ ad no-

„ stra usque tempora ibidem spectan-
 „ tur, frequentarunt, in iis videlicet
 „ *CAISI AILANI*, *ABSI BEN BAGHISI*,
 „ *ASGEI BEN RAIEB*, *BAELI*, *SALEMI*
 „ *BEN MANSOR*, *GEDELI*, *KALEBI BEN*
 „ *RAEIA*, *AKELI BEN CAB*, *HALALI BEN*
 „ *AMER*, *ALNAMAIRI BEN AMER*, *ALSA-*
 „ *LELI*, *ALGAPHEKI BEN ALHASCHEK* ;
 „ necnon complures aliæ quæ ex variis
 „ *Africae* & *Arabiae* locis egressæ, in
 „ *Hispania* sedem fixere, ut *AVASITÆ*,
 „ *KHAZRAGITÆ*, *GASSANITÆ*, *AZADITÆ*,
 „ *GAUTHARITÆ*, *BAGILITÆ*, *KHATHAMITÆ*,
 „ *KENDITÆ*, *SAKASKITÆ*, *TAGIBITÆ*, *GE-*
 „ *ZAMITÆ*, id est *ADITÆ* ; *KHAULANITÆ*,
 „ nempe *BEN OMAR* ; *ALMOAPHERITÆ*,
 „ *MADHAGITÆ*, *HAKEMITÆ*, *HADHRA-*
 „ *MITÆ*, *GIAPHITÆ*, *SADITÆ*, *HAMDA-*
 „ *NITÆ*, *HOMAIRITÆ*, *ZIASAHITÆ*, *JAH-*
 „ *SABITÆ*, scilicet *BENI MALEK* ; *KALE-*
 „ *BITÆ* qui sunt *BENI VABRA*, ac deni-
 „ que *GIOHANITÆ*. (2)

„ PARS

مفتتحها عند ما كسر جيش الروم علي وادي لكه وقتل لرنديق قد فضضت جيش
 الروم ودوخت حاميتهم وصيرت العرب في قلوبهم فاصمد لبيضتهم ففرق جيوشك بينهم
 في البلدان واعمد الي طليطلة مهظمعم واشغل القوم عن النظر في امورهم والاجتماع
 الي اولي مراتبهم ففرق طارق جيوشه من سجة فبعث معينا الرومي مولي الوليد الي
 قرطبة وبعث جيشا اخر الي مالقة وارسل جيشا اخر الي مدينة البيرة وغرناطة
 وسار هو في معظم الناس الي كورة جيان يردد طليطلة فمضي الجيش الي مالقة
 فافتتحها ثم لحق بجيش غرناطة فحاصر مدينتها ثم فتنحها عنوة والقوا بها بهودا
 ضموم الي قصبته مع طايقة من المسلمين يسرونها وقال معودة بن هشام وغيره
 ان فتح ما ذكر تاخر الي دخول موسي بن نصير في سنة ثلاث وتسعين فوجه ابنه
 في جيش الي جهة تدمير فافتتحها ثم مضي الي البيرة فافتتحها ثم توجه الي
 مالقة

(2) فصل

فلما استقر الفتح وبلغ حيث بلغ من النجوم سكنت العرب الافطار وتباوت
 الديار ثم دخلت بعد ذلك العرب الشاميون مع الامير بلج بن بشر القشيري في عشرة
 الاف

„ PARS SECUNDA
 „ DE
 „ GRANATÆ REGIONIBUS,
 „ LOCISQUE AD EAM
 „ pertinentibus.

„ Nobile hocce Regnum Regiones
 „ XXXIII. complecti dicitur: quas in-
 „ ter sunt Regio *Aunil*, Regio *Cam-*
 „ *pestris*, *Tagerat Algibel*, (fortè *Texo-*
 „ *ra*) & Castellum *Masanbath*, ubi *Lo-*
 „ *xa*, nostrorum olim majorum patria,
 „ spectatur, quæ, uti refert in sua *Hi-*
 „ *storia EBN HAMAMA*, ad Occasum
 „ *Illiberim*, ad Meridiem *Cordubam*
 „ habet. Eam autem ad ripam amnis
 „ *Singilis* conditam esse anno ab Egira
 „ 280. Hispaniarum Rege *ABDALLA*
 „ *EBN MOHAMAD*, *ALNASSERI* Regis avo
 „ paterno, auctor est *GARIBAI*. Est au-
 „ tem *Loxa* urbs pervenusta, soli uber-
 „ tate & aquarum copia insignis, ut &
 „ oppidis populisque frequentissima. Re-
 „ gio, *Albujarat*, aliàs *Cais* dicta, ubi
 „ Mons *Aluzena*, atque oppidum *Lo-*
 „ *xa* visuntur: similiter *Albujarat An-*

„ *dras*, & oppidum *Canales*; *Albuja-*
 „ *rat Abi Gioraire* (fortè *Ereyra*), quæ
 „ & *Arx Becar*, (an *Vacares*, aut *Vi-*
 „ *car?*) dicitur; *Albujarat Alboliola*,
 „ & Mons *Montexicar*; *Calat Fahseb*
 „ (*Alcalà la Real*): quæ quidem Regio
 „ Occidentem inter & Meridiem *Gra-*
 „ *natam* spectat, à qua milliaribus
 „ XX. abest. Regio *Vega*, ubi sita est
 „ urbs insignis (*Granata*). Memoratam
 „ utramque Regionem temporibus no-
 „ stris post prælium *Taripha* expugna-
 „ vit hostis, magnam nobis afferens
 „ cladem. Regiones *Moschilat*, *Morril*
 „ & *Cabazaca*, quas etiam improbus
 „ hostis eripuit. Regio *Camb Cais* (id
 „ est *Tribus Caisitarum*); Regio *Camb*
 „ *Jemnitarum*; *Aluchar*, ad cujus jurif-
 „ dictionem pertinet oppidum *Nules*;
 „ Regio *Schalobonia* (hodie *Salobreña*),
 „ ubi magnum ad maris littora extru-
 „ ctum cernitur Præsidium, Regis etiam
 „ spectantur ædes, aliaque ædificia at-
 „ que horti pensiles. Sequitur Regio
 „ *Almankab* (vulgò *Almūñecar*), ubi
 „ jacet perverusta hujus nominis urbs,
 „ pluribus mirisque monumentis spe-
 „ ctan-

الاف فارس من اعلام أهل الشام ويسمون بالشاميين فالداخلون مع موسى وطارق
 يسمون بالاندلس في الرسوم والخطوط بالبلديين فاما الشاميون اختصوا بكورة
 البيرة وهي النبي اوقعوا عليها اسم دمشق جند دمشق وذكورة جيان جند قنسردين
 وباشبيلية جند حمص وسواها من الكور بهذه النسبة وقرلت هذه الكورة
 الالبيرية من اعلام العرب الذين بها الي هذا العهد ديوتهم جملة من القبائل منهم
 ديوتان من قبس عيلان ومن عبس بن بغيص ومن اسجع بن مريب ومن جاهله ومن
 سليم بن منصور ومن جديلة ومن كلاب بن ربيعة ومن عقيل بن كعب ومن
 هلال بن عامر ونمير بن عامر ومن سلول ومن غافق بن الشاهك ومن الاقصار بنو الواس
 والجنزرج ومن غسان ومن الانرد ومن الغوث ومن بجيلة ومن خثعم ومن كنده ومن
 السكاسك ومن تجيب ومن جزام بن عدي ومن خولان بن عمرو ومن المعافدين
 ومن مدرج ومن حكم ومن حضرموت ومن جعفي ومن سعد من همدان بن
 حمير من ذي اصبح من يحصب بن مالک من كلب بن وجره ومن جهينة

„ Etanda; Regio *Boscherat Puchera Beni Giasan*, ubi *Verja, Adra, Casti-*
 „ *lieja, Xobeles, Dalias*, quas fertilem
 „ hominum, frugumque, terram, at-
 „ que locupletem Serici fodinam me-
 „ ritò dixeris; *Ferrera, Orgiba, Lange-*
 „ *ron*, & pernobilis urbs *Andarax*;
 „ *Orce, Cais, Marchena, Monduxar,*
 „ & *Boldod* (hodie *Boldui*). Item *Or-*
 „ *ce, Iemanitarum* Regio, ubi *Almeria*
 „ visitur, Mahometanorum propugna-
 „ culum, simulque metropolis, atque
 „ emporium insigne, sive hortorum
 „ pulchritudine, sive nobilium civium
 „ frequentia spectabilis. Ad hujus di-
 „ tionem non pauca pertinent oppida,
 „ ab illius Ortu & Occasu interjacen-
 „ tia, ut *Tabernas*, urbs quidem ani-
 „ plissima, delubris & balneis incly-
 „ ta. Accedit *Orce* (id est *Colonia*) Ara-
 „ bum, ubi cernere licet Oppida *Fu-*
 „ *lianella & Guenaje*. Ad Regionem
 „ verò *Orce Aliamnin* (vulgò *Uraci-*
 „ *na*) spectat Civitas *Beni Sam Ben*
 „ *Mohalhal*, aliàs *Guadix* nuncupata,
 „ inter præcipuas Mahometanorum ur-
 „ bes memoranda, aquis etiam irri-
 „ guis, munimentis, & pulchritudine
 „ nulli secunda; complura & nobilia ha-
 „ bet oppida, in quibus sunt *Alcolea,*

„ *Monda*, unde etiam visitur *Finiana*
 „ urbs, aquarum, frugumque uberta-
 „ te inclyta. Iis accensenda sunt Re-
 „ giones *Azara, Beni Auas, Benioma-*
 „ *ia, Phornes*, ubi Castrum, nomi-
 „ ne *Alfokhairat*, reperias; *Duria* (vi-
 „ detur *Dulias*); denique Regio, *Al-*
 „ *phohs* dicta, (hodie *Alboz*), quæ ci-
 „ vitates quinque complectitur, *Ham-*
 „ *dan* videlicet, *Alphojar, Anbolat,*
 „ *Colubas, & Alkanaies*. Earum Re-
 „ gionum hucusque recensitarum me-
 „ minere Scriptor *ABULCASSEM AL-*
 „ *MALAEUS* & alii in *Hispana Hi-*
 „ *storia*: ubi illi *Granatam*, non pro
 „ ejus magnitudine ac dignitate de-
 „ scripserunt; quippe plura præter-
 „ miserint quàm memoravere. Cæte-
 „ rum ex iisdem Regionibus aliquot
 „ eadem nostrâ etiam ætate retinent
 „ nomina; aliæ alia sortitæ sunt; aliæ
 „ everse omnino; complurium tan-
 „ dem temporis progressu, ut fieri so-
 „ let, nomina ex hominum memo-
 „ ria excidere; unus enim Deus est
 „ suapte naturâ immutabilis. Qui ve-
 „ rò plura scire cupiat, nostram con-
 „ sultat Historiam, cui titulus *Alaha-*
 „ *that.* (a)

PARS

(a) القسم الثاني فيما يرجع اليها من الاقاليم والاقطار

قالوا يرجع الي هذا الوطن الشريف من الاقاليم ثلاثة وثلاثون اقليما منها اقليم
 اوزيل اقليم الفحص اقليم تاجرة الجبل وحصن مسنبط وهو بلدنا لوشة قال ابن
 حمامه في تاريخه لوشة من البيرة غربا وقبلتة من قرطبة علي نهر شنيل بنيت عام
 ثمانين ومايتين في زمن عبد الله ابن محمد جد الناصر قاله غريب في كتابه وهي
 بلد جليل كثير الخصب مترفق المياه كثير الحصون والقري جامع للمرافق
 واقليم بن حبيلة قيس وفيه منت لوزنة وحصن لوشة واقليم جرجيلة اندرة وفيه حصن
 قنالش واقليم جرجيلة ابي جردر وهي حصن دكور واقليم جرجيلة البليول وفيه
 منتشافر واقليم قلعة يحصب بين غرب وجوف من البيرة علي عشرين ميلا واقليم
 باغة

» PARS TERTIA
» DE GRANATÆ REGIBUS
» ET PRINCIPIBUS.

» Omnium primus Regiam hanc
» urbem constituisse incoluisseque fer-
» tur ALHAGEBUS ABU MOTHU ZAVI
» BEN ZIRI BEN MANAD ALSANHA-
» GI, aliàs ALMANSOR appellatus, id-
» que anno Egiræ 403. quum SOLIMA-
» NUS Barbarorum militum Princeps,
» Cordubâ captâ, bonam Hispaniæ par-

tem subegit. Ille magna nominis ce-
» lebritate sibi per universam Hispa-
» niam parta, postquam *Granata* an-
» nos septem rerum potitus erat, in
» Africam ad suos trajecit. In ALMAN-
» SORIS locum statim suffectus est ejus
» nepos HABUS BEN MAKSEN, vir for-
» titudine & arte bellica nobilis. Fato
» functus est anno ab Egira 429. Cui
» successit filius BADIS, cognomento
» ALHAGEBUS ALMODHPHER. Hic mor-
» tuus est anno 465. Regnum deni-
» que obtinuit ejusdem nepos ABD-

» ALLA

باغ ودة المدينة الشهيرة وهذان الاقليمان استولي عليهما العدو علي عهدنا عفت بن
الكابينة بطريق فاعظم فيها الفجع و: واقليم مشيلية اقليم القبراق وهو ايضا مما تقدم
التغلب عليه جبره الله واقليم قنب قيس اقليم قنب اليمن اقليم الاشر وفيه حصن
نوالش اقليم شلوذانية وفيه المعقل العظيم بشاطي البحر فيه للسطان قصر وديانة
ودساتين عظيمة اقليم المنكب وفيه المدينة العتيقة ذات الاثار العجيبة اقليم بشرة
بني جسام وفيه حصن برجة والعزرة القليعة حصن شبالش ودلاية و: وبهذا الاقليم
عبط كثير وعمران عظيم وهو معدن من معادن الحديد و: اقليم قريده وفيه حصن
ارجبة ولانجرون وحصن اندرش وهو جليل و: واقليم ارش قيس وفيه مرشانة مندوشر
وحصن بلزون و: واقليم ارش اليمن وفيه مدينة المربة معقل الاسلام ذات القصبنة
الشهيرة والجباية الغزيرة والبساتين النضيرة والزمم الخضيرة ويرجع اليها من الحصون
بشرقيها وغربيها عدد كثير كطبرنش وهي بلد كبير فيه المساجد والعمام و:
واقليم ارش اليمانية وفيه جليئالة ووانجة و: واقليم ارش اليمانيين فيه مدينة بني سام
بن مهلهل وهي مدينة وادي اش احدي قواعد الاسلام لانظير لها سقيا ومنعة وفضارة
ويرجع اليها من الحصون البنية الجليلية جملة واقليم ارش اليماني فيه القليعة ومننت
مروي وفيه مدينة فنيانة وهي كلها غزيرة السقيا والثمار واقليم فزارة اقليم بني اوس
اقليم بني امية واقليم فرنش وفيه حصن الصخيرة و: واقليم دور واقليم الفحص خمسة
اقاليم همدان الفخار انبلاط وقلوبش والكنائس و: ذكر ذلك ابو قاسم الملاحسي
وغيره واغفل اكثر مما اثبت وجلالة هذه المدينة اعظم وهذه الاقاليم منها ما استمرت
الي الان شهرته بما دعي به ومنها ما عم الجهل به علي عادة الدهر ميلي الاسماء
والمسميات وماحي الاعلام والسمات والمقاللة و: ومن اراد استيفا فضائل هذه البقعة
فعليه بكتابتنا المسمي بالاجاطة و:

» *ALLA BEN BALKIN BEN BADIS*, qui
 » anno 483. imperium abdicare co-
 » ctus est, *JOSEPHO BEN TASCHPHIN*
 » *LAMTUNITA* Hispaniæ Regnum capes-
 » sente. (a)

» *Granata* Regnum adeptus *Jo-*
 » *SEPHUS BEN TASCHPHIN* supra me-
 » moratus, successorem reliquit fi-
 » lium. Inde complures ex eadem Re-
 » gia *Lamtunitarum* stirpe provinciam
 » ibidem obtinere: in his Princeps
 » *ABIHASSAN BEN ALHAGI*; *MAGUZ*,
 » ejusque frater nomine *MUSA*; Prin-
 » cept *ABI BAKER BEN ABRAHIM*;
 » Princeps *ABI THAHER TAMIM*; Prin-
 » cept *ABI MOHAMAD BEN MAZDA-*
 » *LI*; Princeps *ABI BAKER BEN MO-*
 » *HAMAD*; *OTHMAN BEN IADA*; *ALI*
 » *BEN GANIA*: qui omnes rebus per

» ea tempora præfuerunt, donec *Al-*
 » *morabidarum* tandem Imperium ever-
 » sum est, anno videlicet Egiræ 540.
 » succedentibus *Almohaditarum* Regi-
 » bus. (b)

» *ABDELMUMEN ABU MOHAMAD*,
 » (*Almohaditarum* Princeps) Hispania-
 » rum imperio sibi vindicato, *Grana-*
 » *tæ* Præturam propinquis suis dedit,
 » nimirum *OTHMANO ABI SAID*, Cali-
 » phæ filio; Principi *ABI ABRAHAMO*;
 » ac Principi *ABI ABDALLA* (ad annu-
 » usque Egirianum 626.). Hos impe-
 » rio dejecit *ABU ABDALLA MOHAMAD*
 » *BEN JOSEPH BEN HUD ALGEZAMI*,
 » aliàs *ALMOTUAKEL ALALLA* nuncupa-
 » tus: quem etiam non multò post
 » *BENI NASSERI* Reges, viribus im-
 » parem bello aggressi, regno expule-
 » re;

(a) القسم الثالث فيمن دال بها من امير وسلطان

اول من سكن هذه المدينة وصيرها دار ملك الحاجب المبصور ابو مثنى نراوي
 بن زيري بن مناد الصنهاجي لما تغلب جيش البربر مع اميرهم سليمان بن الحكم
 علي قرطبة واستولي علي الكثير من كور الاندلس عام ثلاثة واربعماية وظهر علي
 طوايف الاندلسيين واشتهر امره وبعد صيته ثم اجاز البحر الي بلد قومه بافريقيّة
 بعد ان ملك بغرناطة سبع سنين واستخلف عليها ابن اخيه حبوس ماكسن وكان
 حازما داهية فتوسع النظر الي ان مات سنة تسع وعشرين واربعماية ثم بعده ابنه
 الحاجب المظفر باديس وتوفي عام خمسة وستين واربعماية وبعده حفيده عبد الله
 بن بلقين بن باديس الي ان خلع في عام ثلاثة وثمانين واربعماية وتصير امرها
 الي ملك الامرا من لمتونة لما ملكوا امر المسلمين بالاندلس

(b) فصل

وتصير الامر بها الي الامير يوسف بن ناشفين ثم الي ولده من بعده فتناوب امارتها
 جملة من ابنا ملوك لمتونة كالامير ابي الحسن بن الحاج ومجوز واخيه موسي
 الامير ابي يحيى بن بكر بن اجرهيم الامير ابي الطاهر تميم الامير ابي
 محمد بن مردلي الامير ابي بكر بن محمد عثمان بن يده وعلي بن غانية
 الي ان انقرض امرهم منها عام اربعين وخمسماية وتصير الامر بها الي ملك بني
 عبد المومن المنتسمين بالموحدين

„ re; atque etiam nunc rerum ibidem
„ potiuntur. (a)

„ PARS QUARTA

„ DE

„ GRANATENSIVM MORIBVS,
„ institutis varioque habitu.

„ Granatenses religione sunt Or-
„ thodoxi, hæresi nullâ infecti; sectâ
„ verò & disciplinâ Malekitici. Regi-
„ bus ad omnia morigeri; laboris pa-
„ tientes & valde munifici; formâ ve-
„ nusti; naso mediocri præditi; ore
„ albo, capillo plerumque nigro; com-
„ modâ staturâ. Sermo, quo utuntur,
„ Arabicus, dictione elegans, sententiis
„ frequens atque ornatus, quamvis
„ paulò fusior. In differendo, disce-
„ Tom. II.

„ ptandoque superbi ac pertinaces. Ple-
„ rique genere sunt exteri, maxime
„ Barbari. Eorum ferè vestes sunt Per-
„ ficæ virgatæ Byssinæ pretiosissimæ,
„ lanæ subtilissimæ, lineæ, fericæ, xy-
„ linæ, atque aliæ ex tenuissimis fi-
„ lis contextæ. Pallio Africano, seu Tu-
„ netano (vulgò *Albornoz*) hyeme in-
„ duuntur; æstate verò sindone alba.
„ Itaque tales in Templo eos aspicias,
„ quales in amœno prato verni flores
„ spectantur. (b)

„ Militum autem duo sunt genera,
„ quidam Hispani, Barbari alii. Hispani,
„ quibus Princeps Regi sanguine con-
„ junctus, vel quis alius in Aula di-
„ gnitate conspicuus præesse solet, ar-
„ mis apud Hispanos milites etiam
„ usitatis, loricâ videlicet latâ, clypeo
„ Kk pen-

(a) فوليتها الامير ابو محمد عبد المومن بن علي وقرابته كالسيد ابي سعيد عثمان
بن الخليفة والسيد ابي ابراهيم والسيد ابي عبد الله الي ان انقرض امرهم واختل
ملكهم فقام عليهم بالاندلس الامير المنوكل علي الله ابو عبد الله محمد بن
يوسف بن هود الجزامي عام ستة وعشرين وستماية ثم اضطرب الامر ولم ينشئ ان
تدار عليه هذا البيت من بني نصر ملوكها الي الان

(b) القسم الرابع في عوايد اهل هذه المدينة واصنافهم علي

اختلاف اصنافهم

احوال هذا القطر في الدين وصلاح العقائد احوال سنية والاهوا والنحل فيهم
معدومة ومذاهبهم علي مذهب مالک ابن انس امام دار الهجرة جاريد وطاعتهم
لامر محكمة واخلاقهم في احتمال المعاون الجبائية جميلة وصورهم حسنة معتدلة
انوفهم بيض الوانهم مسودة غالبا شعورهم متوسطة قدودهم فصيححة السننتهم غريبة
لغاتهم لتخليها عرف كثير وتغلب عليها الامالة واخلاقهم ابية في معاني المنانعات
وانسابهم غريبة وفيهم من البرجر كثير ولباسهم الغالب علي طبقاتهم
الفارسي بينهم الملق المصبع شتا تتفاضل اجنا البزير منه بتفاضل الجزرات المعازير
الكتان الحرير القطن والمرعزي والاردية الافريقية والمقاطع التونسية والمساند
المشفوعة صيفا فتبصرهم في المساجد كانهم الانهار المفتحة في البطاح الكريمة
تحت الاهودية المعتدلة

„ pendulo, æncâ galeâ, hastis cuspide la-
 „ tioribus, atque rudi ephippiorum ge-
 „ nere olim usi sunt. Hinc Vexilliferi,
 „ quorum vexillis singula inter se distin-
 „ guebantur agmina, equo insidentes,
 „ ea comitari solebant. Temporis tamen
 „ progressu relicto hujusmodi armorum
 „ usu, brevem loriam, galeam
 „ levem, ephippia Arabica, scuta co-
 „ riacea, hastasque exiles adhibere cœ-
 „ perunt. (a)

„ Milites autem Barbari ex variis
 „ nationibus conflati, ut sunt *Marini*,
 „ *Zaianita*, *Tagianita*, *Agisita*, atque
 „ *Arabes Africani*, in varias Cohortes
 „ dividuntur, quarum singulæ suum
 „ habent Præfectum; Præfecti verò uni
 „ Imperatori parent, qui & nobili *Ma-*
 „ *rinorum* genere clarus, & *Maurita-*
 „ *nia* Regi propinquitate conjunctus
 „ esse solet. Ex iis pauci admodum
 „ sunt, qui Granatensium more, si eorum
 „ Sacerdotes, Judices, Doctores-
 „ que excipias, Cidari utantur. Eorum
 „ arma ut plurimum sunt baculi oblon-

„ gi, aliis bacillis in medio nodatis
 „ complicati, quos manibus pugnando
 „ in hostes impellunt. Id genus baculos
 „ *Amras*, (id est *Funes*) appellant. Ad
 „ usum verò quotidianum baculos Ro-
 „ manis usitatos gestant. Ædificia ipso-
 „ rum mediocris sunt structuræ; dies
 „ festi visu sanè digni; scurrilia & ob-
 „ scœna in cauponis magnâ juvenum
 „ frequentia canunt. (b)

„ *Granatensium* porrò quotidianus
 „ cibus panis est ut plurimum frumen-
 „ taceus, & quidem optimus. Pauperes
 „ verò & operarii pane hordaceo præ-
 „ stantissimo interdum per hyemem
 „ vescuntur. Omni fructuum gene-
 „ re pascuntur, maximè uvis, quarum
 „ ingens copia suppetit ob vineta læ-
 „ tissima: adeo ut annuus illorum pro-
 „ ventus nostrâ etiam ætate decem &
 „ quatuor aureorum millibus æstime-
 „ tur. Magna est illis quoque fructuum
 „ aridorum vis, quos inter sunt ficæ,
 „ uvæ passæ, mala Metiana, mala Pu-
 „ nica, castanæ, glandes, nuces,
 „ amy-

(a) وجنودهم صنفان اندلسي وبربري الاندلسي منه يقوده رئيس من القرابة او اخطيا
 الدولة وزيدهم في القديم شبيه بزى جيرانهم واقتلاهم من الروم في اسبغ السروج
 وتعليق الترسنة وجفا البيضات واتخان عرض الاسنة وشاعة قرابيس السروج واستركاب
 حملة الرماية خلفهم كل منهم بسمة تخص سلاحه وشهرة يعرف بها ثم عدلوا الان
 عن هذا الزي الي الجواشن المستحصرة والبيضات المزهفة والسروج العربية

(b) والبربري منه ترجع قبائل المرينية والتنجانية العجيسية والعرب المغربية التي
 اقطاب وروس يرجع امرهم الي رئيس علي روسايهم وقطب لعرفايعهم من كبار
 القبائل المرينية يمت الي ملك المغرب بنسب والعماميم تقبل في ذي هذه الحضرة
 الاماشن في شيوخهم قضاتهم وعلمايهم والجنود الغربي منهم سلاح جمهورهم العصي
 الطويلة المثناة بعصي صغار ذات عري في اوساطها ترفع بالانامل عند قذفها تسمى
 بالامراس قسي الفرنجة يحملون علي التدريب بها علي الايام ومبانيهم متوسطة واعبادهم
 حسنة مايلة الي الاقتصاد والغنا بمدينتهم فاش حتي بالركاكين التي تجتمع
 كثير من الاجداث

„ amygdalæ , atque alia id genus quæ
 „ nulla anni tempestate desiderantur.
 „ Præterea hîc uvæ recentes , corru-
 „ ptionis expertes ad alteram anni par-
 „ tem servantur. (a)

„ Eorum Moneta, quæ bonitate nul-
 „ li profectò primas concedit , ex ar-
 „ gento , auroque purissimo conflata
 „ est. Sua non defunt civibus otia , qui
 „ tempore vindemiæ in rura suburba-
 „ na quotannis sese conferre solent ;
 „ alii verò suis viribus & armis alia
 „ prædia unà cum suis domesticis pe-
 „ tunt ; indeque hostes aggressuri , illo-
 „ rum confinia incursionibus vexare
 „ audent. Inter nobilium autem fœmi-
 „ narum , aliarumque gratiâ , auctori-
 „ tate insignium ornamenta , quæ ho-
 „ die in usu sunt , sese offerunt cin-

„ gulum , balteum , fasciæ cruales , ca-
 „ lantica , auro purissimo argentoque
 „ mira arte intertexta , præter varios
 „ pedum ornatus. Ex lapidibus verò
 „ pretiosis hyacinthum , chrysolitum ,
 „ smaragdum lectissimum , & alia com-
 „ plura gemmarum genera ostentant.
 „ Mulieres denique sunt venustæ , at-
 „ que staturæ mediæ : ita ut proceras
 „ non nisi rarò in illis reperias ; molles,
 „ comam promissam nutriunt ; dentium
 „ candore insignes , & odore fragran-
 „ tes exquisito ; gressu agiles , ingenio
 „ acuto , sermonis lepore præditæ. Cæ-
 „ terùm ætatis nostræ mulierum eò pro-
 „ cessit ostentatio , simulque ars sese
 „ lautè , opulenter , magnificèque ve-
 „ stiendi atque ornandi , ut illarum
 „ luxum insaniam penè dixeris. (b)

Tom. II.

Kk 2

„ PARS

(a) ووقوهم الغالب البر الطيب عامة وربما اقتات في فصل الشتاء الضعفة والفعلة الذرة
 العزبة امثل اصناف القطاني الطيبة فواكههم مرغدة والعنب بحر لانافة كرومه النبي
 ثمالها الخرج علي اربعة عشر الفا لهذا العهد وفواكههم اليابسة عامة العام متعردة
 يوزخرون العنب سليما من الفساد الي ثلثي العام الي غيره من التين والزبيب
 والتفاح الرمان القسطل البلوط الجوز اللوز الي غير ذلك مما لا ينقطع ولا يفصل

(b) وصرفهم فضة خالصة وذهب ابريز محفوظ لا تفضل سكتهم سكة وعادة اهل
 هذه المدينة الانتقال الي حلال العصير اوان ادراكه بما يشتمل عليه دورهم والبروز
 الي الفحوص باولادهم وعيالهم معولين علي شهامتهم واسلحتهم علي كتب عدوهم
 واتصال ابصارهم بحدود ارضه وحليهم في الفلايد والرمالج والخللاخيل الشبوق
 الذهب الخالص في اولي الجرة واللجين في كثير من الات الرجلين والاحجار
 النفيسة من الياقوت والزبرجد الزمرد ونفيس الجواهر كثير فيمن ترفع من طبقاتهم
 المستندة الي ظل دولة او اعرف اصالة موقورة وحريهم حريم جميل موصوف
 باعتدال السحن وتنعيم الجسم واسترسال الشعور ونقا الثغور وطيب الشذا وخفة
 الحركات نبل الكلام حسن المحاوراة الا ان الطول يندر فيهن وقد بلغن من التفنن
 في الزينة لهذا العهد والمظاهرة بين المصبغات والتمنافس في الذهبيات والديماجات
 والتماجن في اشكال الحلبي الي غاية بعيدة

» PARS QUINTA
» DE
» GRANATÆ REGIBUS,
» eorumque Serie.

» Regum *Granata*, qui *Nassarita* &
» *Beni Nasser* vocitantur, Princeps at-
» que Auctor fuit *MOHAMAD ABU ABD-*
» *ALLA BEN JOSEPH BEN MOHAMAD*
» *BEN AHMAD BEN MOHAMAD*, *BEN*
» *KHAMIS BEN AKIL Alkharagita*, Fi-
» delium Imperator, necnon Hispaniæ
» Rex, cognomento *ALGALEB BILLA*. Is
» in urbe *Arjona*, quæ ad felicissimum
» feracissimumque *Corduba* agrum (vul-
» gò *Campina*) pertinet, claris, iisque di-
» tissimis parentibus natus, insignium
» virorum nactus est disciplinam. Ubi
» autem ille jam adolescens sanguinem
» venis sensit effervesce, imperandi
» cupidine flagrare, ac magna moliri
» cœpit. (a)

» Ad illius mores quod attinet, vir
» erat domi militiæque planè admira-
» bilis; miles enim egregius, plenusque
» animi & roboris semper est habitus;
» otii inimicus & sui commodi non
» studiosus; cultu perparcus & fruga-
» lissimus Princeps; in acie expertus
» simulque temporum callidus, aspe-
» ctu etiam & auctoritate verendus;
» expeditissimus Dux, atque magnus
» discriminum contemptor. Uxores non

» nisi genere pares sibi adjunxit; do-
» mesticorum commodis confulebat;
» atque Regia vectigalia pari cum mo-
» deratione exigebat. Præliis ipsemet
» interfuit, quæ Historici fusè latèque
» profequuntur. Veste vulgari indutus
» in ocreis incedebat; suarum rerum
» ita satagebat, ut labori nulli parce-
» ret. Die autem veneris (anni 629.)
» prospero Marte urbem *Faen*, mox
» *Granatam* expugnavit. Memoriae pro-
» ditum est illum, ubi solium ascen-
» dit, *Granatæ* pauperibus, senibus, cæ-
» terisque labori ineptis hominibus vi-
» tæ præsidia suppeditasse, quæ etiam-
» num ipsi obtinent. Rerum quoque
» *Hispaniæ* & *Corduba* ad tempus per-
» breve potitus est, ut fufius suo loco
» disseruimus. *Granatæ* regnum ade-
» ptus, de arce *Alhamra*, (vulgò *Alham-*
» *bra*) extruenda cogitavit. Quamob-
» rem necessitate impulsus, vectigalia
» quædam subditis ad ejus ædificii ex-
» tractionem imposuit: cui & ipse ad-
» fuit ac præfuit. Eo tandem opere
» jam absoluto, aquisque illuc dedu-
» ctis uberrimis, sedem ibidem Re-
» giam fixit. Inito cum finitimis Regi-
» bus fœdere, sic divitiis affluere cœ-
» pit, ut Regium ærarium auro, ar-
» gentoque cumulaverit, & horrea Ar-
» ci contermina frumento, omnium-
» que leguminum genere compleverit.
» Montem præterea præfidiis, armif-
» que

(a) القسم الخامس في نسق الدول واتصال الاواخر منها بالاول

امير المسلمين ابو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن احمد بن محمد
بن خميس بن عقيل الخنزرجي الانصاري سلطان الاندلس ودايلها وجزم الامر
النصريين بها يلقب بالغالب بالله ﷻ نشا بارجونة من كنبانية قرطبة اطيب البلاد
مدرة وافرهما غلة في ظل نعمة وعلاج فلاحه ودين يدي نجدة وشهرة بحيث اقتص
ذلك ان نبض له شريان طلب الملك وانطوت افكاره علي تامين الامر والرياسة
فقد حوا رغبته وانهاروا طمعه ﷻ

„ que munivit , ac undique circumse-
 „ pfit. Iis sanè feliciter ille potitus est
 „ quæ sibi & cogitandi & agendi fo-
 „ lertiâ comparaverat. (a)

„ De illius verò vitâ. Sub initium
 „ jam Hispaniæ , jam Africæ Regibus
 „ ad tempus paruit : quibus & opes
 „ & copias acceptas postea retulit.
 „ Nondum Regnum adeptus , supre-
 „ mam Caliphæ *ALMOSTANSERI* ex *Ab-*
 „ *basidarum* stirpe auctoritatem unâ
 „ cum Rege *BEN HUD* in Hispania
 „ sustentavit , atque acerrimè defen-
 „ dit. Jamque Rex creatus , in heb-

„ domada bis admittendis , audien-
 „ disque viris injuriâ affectis , perinde
 „ ac supplicibus operam dabat ; faci-
 „ lis etiam Poëtis , ac Legatis patebat
 „ ad ipsum aditus. De rebus autem
 „ gravissimis populi Primores , Judi-
 „ ces , cæterosque etiam viros dignitate
 „ spectatissimos frequenti senatu con-
 „ sultebat ; easdemque exinde in secre-
 „ to consilio proponens , suis singulas
 „ causas Judicibus permittebat ; curam-
 „ que quibusdam militiae Ducibus de-
 „ mandabat. (b)

„ Filios reliquit tres , *MOHAMETUM* ,
 „ fui

(a) حالة كان هذا السلطان اية من ايات الله في السلامة والجهورية جنديا تغربا
 شهما ايرا عظيم التجلد رافضا للردعة والراحة موثرا للقشقى والاجتزا باليسير متبلغا
 بالقليل بعيدا من التصنع جافي السلاح شديد الحزم مرهوب الاقدام عظيم التشمير
 محتقرا للعظيمة مقرنا لصنفة مصطنعا لاهل بيته قطا في طلب حقه مباشرة للحرب
 بنفسه تنغالي الحكاة في موقع سلاحه يخصص النعل ويلبس الخشن ويوتر التبري
 ويستشعر الجرد في اموره وسعد بيوم الجمعة ان كان فيه تملكه مدينة جيان ثم
 حضرة الملك فرناطة وقيل يوم قيامه شرع الصدقة الجارية علي ضعفا اهل الحضرة
 وترمناهم الي اليوم ☉ وتملك اشبيلية وقرطبة برهة يسيرة ثم خرجتا عن نظره فسي
 خبر طويل ولما تم له تملك الحضرة اضطر الي المال فعظم علي العمل ضغطه وابتني
 حصن الحمرا وجلب له الماء وسكنه وياشر بنفسه الحسابات بتوفر ماله وغصبت
 بالصامت خراينه وعقد السلم الكبيرة وذهبا امره وامكنه الاستعداد فافعم الاهرا
 وملا بطن الجبل المتصل بمعقله حبوبا مختلفة وخراين دوره مالا وسلاحا واواريه
 ظهرها وكراعا فوجد فايدة استعداده ولجا الي ما انخره من عقاده ☉

(b) سيرته ☉ تعاير لاول امره بطاعة الملوك بالعدوة وافريقية فخطب لهم نرمانا بشيرا
 وتوصل بسبب ذلك الي امداد منهم بمال واعانة ولقب ما افتتح امره بالدعا للمستنصر
 العباسي ببغداد حاندا حزو سمية بن هود للهج العامة في وقته بتقلد تلك الدعوة من
 جالعراق لقد ابعرت مرماك الي ان نزع عن ذلك كله وكان يعقد للناس مجلسا عاما
 يومين في كل اسبوع يرتفع اليه الطلامات ويشافة طلاب الحان وبنشده الشعرا
 ويدخل اليه الوفود ويشاور ارباب النصاب في مجلس يحضره اعيان الحضرة وقضاة
 الجماعة ☉ ثم ينتقل الي مجلس خاص ينظر فيه في اموره فيصرف كل قصة الي
 من

„ sui Successorem, *Fidelium Imperato-*
 „ *rem* nuncupatum; & Principes *BEN*
 „ *FARGIAM*, ac *JOSEPHUM*, qui, viven-
 „ te patre, fato functi sunt. (a)

„ Viros à secretis habuit illustres:
 „ in his *ABU MARUANUM ABDELMALE-*
 „ *KUM BEN JOSEPHUM BEN SANANID*,
 „ genere, ac nobilitate suæ civitatis
 „ *Jaen* facilè principem, qui & Vizira-
 „ tûs honores præ aliis suæ gentis me-
 „ ruit; *ALI BEN ABRAHIM ALSCHAIBANI*
 „ *AZADITAM* inter Granatenses genere &
 „ virtute clarum, cui postea in eodem
 „ munere successit *MOHAMAD* ejus fi-
 „ lius, vir naturâ summè lenis & ho-
 „ nestissimus; *ABU ABDALLA MOHA-*
 „ *MAD BEN MOHAMAD BEN ALRAMIMI*,
 „ olim classis Præfectum, cujus pater
 „ in *Almeria* urbe ob res præclare ge-
 „ stas magnum sibi nomen adeptus
 „ est; *IAHIAM BEN ALKATEB*, *Granata*
 „ nobili stirpe editum, atque alios,
 „ quos enumerare nimis longum es-
 „ set. (b)

„ Ab Epistolis verò & libellis in-
 „ ter alios recensentur *ABULHASSENUS*

„ *ALI BEN MOHAMAD BEN ALI BEN*
 „ *MAIDHAM ALRAINI*, genere con-
 „ spiciuus; *ABU BAKER BEN KHATHAB*;
 „ & *ABU OMAR JOSEPHUS BEN MOHA-*
 „ *MAD BEN SAID ALIAHSI Loxanus*. (c)

„ Judices quos nactus est, præcipui
 „ fuerunt *ABU AMER IAHA BEN ABD-*
 „ *ELRAHMAN BEN RABII Alascharita*,
 „ genere & dignitate spectatissimus;
 „ *ABU ABDALLA MOHAMAD BEN ABRA-*
 „ *HIM BEN MOHAMAD BEN ABDELGIA-*
 „ *LIL BEN GALEB ALANSAREUS*, familia,
 „ & Jurisprudencia clarus; *ABU ABD-*
 „ *ALLA MOHAMAD BEN ABRAHIM BEN*
 „ *ABDELSALAM ALTAMIMI*, criminum
 „ Quæsitore, mei parentis consobri-
 „ nus; *ABU ABDALLA MOHAMAD BEN*
 „ *AIADH BEN MOHAMAD BEN AIADH*
 „ *MUSA ALIAHSABI*, pronepos Judicis
 „ *ABILPHADH AIADH*, vir nobilis in pri-
 „ mis & continens, ut & veritatis
 „ acerrimus defensor, atque integerri-
 „ mus; *ABU ABDALLA BEN ADHA*, fa-
 „ milia conspicuus, qui brevi rebus
 „ humanis ereptus est; *ABULCASSEMUS*
 „ *ABDALLA BEN ABI AMER BEN IAHA*
 „ *BEN*

من يليق به النظر فيها وديواكل في العشيات خاصة من قرابتهم ومن يليهم من نهبوا
 القواد

(a) اولاده اعقب ثلاثة من الزكور محمدا ولي عهده وامير المسلمين علي اشره
 والامير بن فرجا ويوسف قوفيا علي حياته

(b) وزير اوه جماعة من الوزراء الجليلة منهم الوزير ابو المروان عبد الملك بن يوسف
 بن صنانيد نعيم قاعدة جيان وهو الذي امكنه من ناصيتها وعلي ابن اجرهيم
 الشيباني من وجوه اهل غرناطة انردي النسب فاضل متخصص ثم ابنه محمد بعده من
 اولي الرماتة والوقار والقائد الرئيس ابو عبد الله محمد بن محمد بن الرميمي ولاجيه
 الظهور بمدينة المربة وبعيني بن الكاتب من اهل حضرته وارباب النعم وغيرهم ممن
 لم تنفسح له المدة

(c) كتابه ابو الحسن علي بن محمد بن علي بن مبيض الرعيني شهر بنسبه وادي
 بكر بن خطاب وادي عمر يوسف بن محمد بن سعيد البهصيبي اللوشي

„ BEN ABDELRAHMAN BEN RABII Al-
 „ scharita ; denique ABU BAKER MO-
 „ HAMAD BEN PHATH BEN ALI , aliàs
 „ ALASCHBARON nuncupatus , patriâ Hi-
 „ spalensis. (a)

„ Regum autem Mahometano-
 „ rum qui , eo Rege , cùm in Africa,
 „ tùm Marochi imperitabant , hæc se-
 „ ries. ALMAMUNUS EDRIS BEN ALI BEN
 „ ABDELMUMEN ex Almohaditarum stir-
 „ pe , quicum IAHIA ALNASSERI filius
 „ acriter de principatu certavit , mox
 „ victus fufusque loca in montibus tu-
 „ tiora sibi quæfivit. ALMAMUNO jam
 „ demortuo , Regnum sibi vindicavit
 „ ejus filius ABDELVAHED ABU MOHA-
 „ MAD , cognomento ALRASCHID , in-
 „ eunte nimirum anno Egiræ 630. ad
 „ annum usque 640. Cui postea suc-
 „ cessit illius frater ALI ABULHASSENUS
 „ BEN EDRIS , aliàs ALSAID appellatus ,
 „ qui tandem anno Egiræ 646. extra
 „ urbem Tremiffenum interfectus est.
 „ In ejus locum suffectus OMARUS BEN
 „ ISAC , alio nomine ALMORTADHI ; ve-
 „ rùm hic etiam ab EDRISO ABU DA-
 „ BUS , cui cognomen ALHUATHECUS , vi-

„ ta & Regno spoliatus est , idque sub
 „ initium anni 665. Is tamen EDRI-
 „ SUS regnum haud diuturnum tenuit.
 „ Ex quo factum est , ut Marinorum
 „ Princeps rerum summâ Marochi po-
 „ tiretur : unde inclyti prodire fratres
 „ & Reges OTHMANUS ABU HAMU,
 „ ABU IAHIA , atque Fidelium Impera-
 „ tor ABU JOSEPH JACOBUS , qui ad
 „ Regis Granatæ obitum , de quo ser-
 „ mo , regnum perduxit. Præterea per
 „ id temporis in urbe Tremiffeno re-
 „ gnabat IAGMARASANUS , Zaiamitarum
 „ Princeps. celeberrimus & memoriâ
 „ dignissimus , ubi & priùs Regni gu-
 „ bernacula tenuerat ejusdem fratris
 „ uxor. Tuneti verò Rex erat ABU ZA-
 „ CHARIA IAHIA BEN ABDELVAHED ex
 „ Haphfitarum Dynastia , qui ab eo-
 „ dem Granatæ Rege per litteras opem
 „ consequutus est , ut alibi memini-
 „ mus. Post hunc ejus filius ABU ABD-
 „ ALLA ALMOSTANSERUS BILLA imperi-
 „ tavit ad annum usque 674. Grana-
 „ tæ jam Rege memorati MOHAMEDI
 „ ABU ABDALLÆ filio. (b)

„ Ex Regibus verò Christianorum,
 „ FER-

(a) قضائه جملة منهم ابو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الاشعري من جلة
 الاندلس بيتنا ومنصبنا ثم الفقيه الجليل القاضي ابو عبد الله محمد بن ابراهيم بن
 محمد بن عبد الجليل بن غالب الانصاري ثم الفقيه القاضي ابو عبد الله محمد
 بن ابراهيم بن عبد السلام التميمي وهذا الرجل عم اخي والدي لامة احد قضاة العدل
 ثم القاضي العدل ابو عبد الله محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى
 اليحصبي حفيد القاضي ابا الفضل عياض من اهل الورع والجلالة والتصميم في الحق
 لا تاخذه في الله لومة لائم ثم القاضي الحسين بن عبد الله بن اضحي وبيتته شهير
 ولم تطل مدته ثم القاضي العالم ابو القاسم عبد الله بن ابي عامر بن يحيى بن
 عبد الرحمن بن ربيع الاشعري ثم القاضي ابو بكر محمد بن فتح بن علي
 الاشبيلي الملقب بالاشبرون

(b) الملوك علي عهد بوطن المغرب ثم بمراكش المامون ادريس من بني عبد المومن
 بن

„ FERANDUS ALPHONSI filius, SANCTII
 „ Imperatoris nepos, *Castella* Rex, qui
 „ *Cordubam* & *Hispalim* expugnavit.
 „ Quum autem diem obiisset, in re-
 „ gnum successit filius ejus ALPHONSUS,
 „ qui anno XXXIII. regnavit ad filii
 „ usque MOHAMEDI tempora. Deinde
 „ JACOBUS PETRI filius, ac ALPHONSI
 „ nepos, *Barcinonis* Comes, idemque
 „ *Aragonia* Rex. Hic *Valentiam* Regi
 „ ARU GIOMAIEL ZAIAN BEN MARZ-
 „ DANISCHO eripuit, ibique Regiam fi-
 „ xit sedem. (a)

„ Memoranda. EBN KHALEDUS, BE-

„ NI KHALEDORUM avus, urbis *Faen*
 „ Princeps, ab eodem Rege arcessitus,
 „ *Granatam* venit sub finem mensis
 „ *Ramdani*, anno *Egira* 635. ibique
 „ addictiorem clientelam illi professus
 „ est..... Anno verò 643. inducias
 „ ad multos annos iniit cum *Christia-*
 „ *norum* Rege, postquam illum apud
 „ arcem *Bolullos*, à *Granata* milliariis
 „ XII. distitam, ingenti clade affe-
 „ cerat. Anno denique 662. filium
 „ Regni sui successorem designavit.
 „ Exercitum præterea ex variis natio-
 „ nibus conflatum in prælia coegit. (b)

„ Na-

بن علي مزاحما يحيى ابن الناصر فارا امامة معتصما بالجبل و لما توفي المأمون
 ولي ولده الرشيد في اول سنة ثلاثين وستماية وهو ابو محمد عبد الواحد توفي عن
 عشرين من السنين وولي اخوه ابو الحسن علي بن ادريس الملقب بالسعيد وقتل بظاهر
 قلمسان سنة ثمان واربعين وستماية وولي ابو حفص عمر بن اسحق المرتضي الي ان
 قتل ادريس الواثق ابو دجوس في اوائل عام خمسة وستين وولي بعده يسيرا واستولي
 علي مراکش ملك بني مرين فتعاقبت منهم ملوك جللة منهم الامير عثمان واخوه
 حمو واخوهما ابو يحيى بنو عبد الحق واستقر الملك في اي املاكهم امير المسلمين
 ابني يوسف يعقوب الي اخر ايامه وبتلمسان يغمراسن بن نزيان اول ملوكهم
 وتقدمته امرأة اخيه قبله ولاكن يغمراسن حاز الشهرة واستحق الذكر وبتونس
 الامير ابو تركريا يحيى بن عبد الواحد بن ابي حفص وقد مر ذكره وخاطبه
 السلطان والنمس رفة و لما توفي ولي ولده بعده ابو عبد الله المستنصر بالله
 واستمرت ايامه مساوقة الي ايام السلطان الي ان توفي بعده علي ايام ولده عام اربعة
 وسبعين وستماية

(a) ومن ملوك النصارى بقشتالة فرانده بن الفونش بن شانجه الانبرطور وهو الذي
 ملك قرطبة واشبيلية و لما هلك ولي بعده الفونش ولده ثلثة وثلاثين سنة واستمر
 ملكه مدة ولايته وصدرامن دولة ولده بعده ودرغون جايمش بن بيطره بن الفونش
 قمتا برشلونه وهو الذي اخذ مدينة بلنسية وصيرها دار ملكة من يدي ابي جميل
 نزيان بن مرثيش

(b) بعض اخباره قام بدعوة ابن خالد جد بني خالد بقرنطة واستدعاه وهو بجيبان
 فبادر اليها في اخريات رمضان من عام خمسة وثلاثين وستماية وفي سنة ثلاث
 واربعين

„ Natus est in urbe *Arjona* anno
 „ prælii de *Alarcos* dicti, *Egira* videli-
 „ cet 591. Christi 1194. (Auctori
 „ nostro consonant Arabum Scriptores
 „ optimæ notæ, illiusque ævi æquales,
 „ qui uno ore testantur prælium de *Al-*
 „ *arcos* commissum esse anno *Egira* 591.
 „ feriâ 4. die 9. mensis *Schabani*; atque
 „ ut alios præmittam, *ALHOMAIDEUS*,
 „ & eruditissimus *EBN ALABARUS*). „ An-
 „ no verò 671. die 15. *Gemadi* poste-
 „ rioris jam senex ætate confectus, dum
 „ ingenti fortissimorum hostium exer-
 „ citui extra urbem occurrit, in gra-
 „ vem morbum incidit. Quare urbem
 „ repetere cogitur curru invecus &
 „ Proceribus comitatus, quos inter prin-
 „ cipem sibi vindicat locum *SABERUS*
 „ *MAGNUS*. Quum autem morbus in-
 „ terea ingravesceret, iterque profequi
 „ minimè valeret; in loco quodam de-
 „ cubuit, ubi accedente bilioso vomitu,
 „ vitam finivit anno eodem qui supra,
 „ feriâ 6. die 29. *Gemadi* poste-
 „ rioris; sepultusque in antiquo & com-
 „ muni cœmeterio; ejusque corpus
 „ ibi in arca argentea conditum: hoc
 „ autem epitaphium marmoris inscul-
 „ Tom. II.

„ ptum ad hanc usque diem extat. (a)
 „ Hic jacet magnus & excelsus
 „ Rex, Mahometanorum gloria, ho-
 „ minum pulchritudo, noctium dierum-
 „ que decus, suæ gentis auxilium, ros
 „ misericordia, Dominus & Princeps
 „ populi, Legis lux atque defensor, Ve-
 „ ritatis gladius, hominum Rector, Leo
 „ belli, hostium excidium, rerum colu-
 „ men, confinium Propugnator, exerci-
 „ tum Debellator, Tyrannorum &
 „ Infidelium Domitor, Fidelium Impera-
 „ tor, Dux populi delecti & pii, Fi-
 „ dei tutamen & Regum honor: qui
 „ bella Dei gessit, ejusque ope hostes vi-
 „ cit, *ABU ABDALLA* videlicet *MOHAMAD*
 „ *BEN JOSEPH BEN NASSER ALANSARÆUS*,
 „ quem Deus in summo honorum gradu
 „ inter Prophetas, Justos, Martyres,
 „ Sanctosque collocet. Hic in lucem edi-
 „ tus, felicem, Deo annuente, sortem
 „ nactus est anno *Egira* 591. obiit verò
 „ feriâ 6. horis pomeridianis die 29. *Ge-*
 „ *madi* posterioris, anno 671. Laus
 „ Deo, cujus imperium perpetuum, re-
 „ gnum æternum, ævum perenne. Non
 „ est Deus præter Deum misericordem
 „ simulque pium. (b)

Ll

„ Mo-

واربعين صالح طاغية الروم وعقد معه السلم الممتدة ووقع قبل بالعدو الراتب تجاه
 باب حضرة المتحصن بحصن بلبش علي بريد من الحضرة وكان الفتح به عظيما
 وفي حدود اثنى وستين وستماية عقد البيعة لولي عهده واستدعي القبائل للجهاد

(a) مولده عام احد وتسعين وخمسماية بارجونة في عام الاركان وفي منتصف
 جمادي الثانية من عام احد وسبعين وستماية ورد عليه وقد اسن جملة من كبار
 الرعا يقودون جيشا خشينا من اتباعهم فبرز الي لقباهم بطاهر الحضرة ولما كسر
 ايبا الي قصره سقط ببعض طريفة وقا مرة خضرا واركب وردوه بعض كبار
 ممالكة برعا صابرا الكبير وكان وفاته ليلة الجمعة التاسع والعشرين
 لجمادي الثانية المذكورة ودفن بالمقبرة الجامعة العتيقة في سنام السبيكة وعلي
 قبره اليوم منقوشا في الرخام

(b) هذا قبر السلطان الاعلي عز الاسلام جمال الانام فخر الليالي والايام غير
 الامة

„ MOHAMAD, Regis MOHAMEDI su-
 „ pra memorati filius, ex BENI NAS-
 „ SERI stirpe secundus Imperator, &
 „ Princeps potentissimus. Is, ut ex no-
 „ stra Historia, cui titulus *Temporum*
 „ *Res nova & mira*, liquet, Reges om-
 „ nes magnificentiâ, fortitudine, bel-
 „ licâ virtute, industriâ, prudentiâ, con-
 „ stantiâ & magno rerum usu atque
 „ experienciâ superavit. Etenim Au-
 „ læ Administros honoribus, militiae
 „ Duces præmiis amplissimis ornavit;
 „ ac Regnum tandem, diversas gen-
 „ tes miscens, commercio locupletavit.
 „ Ad hæc accedunt summa illius for-
 „ mæ, habitûsque pulchritudo, soler-
 „ tia, animi liberalitas ac patientia. Im-
 „ perii socius à patre, cui post obitum
 „ successit, delectus est. Ad folium vix
 „ dum evectus, morem optimatibus
 „ gessit; ad inimicorum voluntatem
 „ dexteritate, atque mira arte se fin-

„ xit; amicos verò præmiis cumulavit.
 „ Cum iis, aliisque animi dotibus Cal-
 „ ligraphiæ peritiâ, perelegantem
 „ etiam ac singularem condendorum
 „ carminum rationem conjunxit, in
 „ quibus & falis & acuminis multum
 „ demireris. Ita viris sapientissimis stu-
 „ duit, ut Medicorum, Astronomo-
 „ rum, Philosophorum, Oratorum ac
 „ Poëtarum consuetudinem in deliciis
 „ semper habuerit. Exorta sub regni
 „ initium ingenti discordiarum tempe-
 „ state, quam conjuratorum colluvies
 „ fovebat non sine Hispaniarum motu
 „ & metu; patientiâ & constantiâ mu-
 „ nitus, animo nunquam fluctuavit;
 „ quin imò cunctando rebelles, cæte-
 „ rosque sibi infensos callidè Imperio
 „ conciliavit. Plura bella feliciter gessit.
 „ Diù vixit, & magnam sui nominis
 „ celebritatem ubique terrarum ade-
 „ ptus est. (a)

„ Fi-

الامة غيث الرحمة قطب الملة نور الشريعة حامي السنة سيف الحق كافل الخلق
 اسد الهيجا حمام الاعدا قوام الامور ضابط الثغور كاسر الجيوش قامع الطغيات قاهر
 الكفرة والبعثة امير المؤمنين علم المهتدين قدوة المتقين عصمة الدين شرف
 الملوك والسلاطين الغالب بالله المجاهد في سبيل الله ابو عبد الله محمد بن يوسف
 بن نصر الانصاري رفعة الله اعلي عليين والحق بالذين انعم عليهم من النبيين
 والصديقين والشهداء والصالحين ولد مرضي الله عنه واقام رحمة من لونه عام احدى
 وتسعين وخمسماية وكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر التاسع والعشرين
 لشهر جمادي الاخرة عام احدى وسبعين وستماية فسبحان من لا يفني سلطانه ولا يبين
 ملكه ولا ينقضني زمانه لاله الاهو الرحمن الرحيم

(a) امير المسلمين محمد ولد المترجم به ثاني الملوك من بني نصر وعظيمهم وفحل
 جماعتهم حاله من كتاب طرفة العصر من تاليفنا كان هذا السلطان اوحى
 الملوك جلالة وصرامة وحزما ممد الدولة الذي وضع القاب خدمتها وقرر مراتبها
 واستجاد ابطالها واقام رسوم الملك فيها واستدر جبايتها مستظها علي ذلك بسعة
 الزرع واصالة السياسة مرصانة العقل وشدرة الاسر ووفور الدرهما وطول العنكة وتملو
 التجربة ملبح الصورة تام الخلق بعيد الهمة كريم الخلق عظيم الصبر كثير الاناة
 قام

„ Filii, quos genuit, tres recensentur: MOHAMAD videlicet, de quo, Deo adjuvante mox acturi sumus; PHARAGIUS qui ab eodem fratre in vincula est coniectus; & ALNASSERUS Princeps, ac postea Regni Successor. Inter præcipuos ejus Consiliarios maximè commendatur AZIZUS BEN ALI BEN ABDELMELEM, qui nobili familiâ Denia natus, ex Oriente genus duxit: vir formâ in primis & dignitate spectatissimus. Ferunt enim illum à Rege ob mutuam, quam uterque invicem habebat, ætatis, oris, habitûs, religionis atque morum similitudinem ad supremi Viziratus honorem profectum fuisse. (a)

„ Ex viris autem à Secretis & Epistolis fuere ABU BAKERUS BEN JOSEPH Loxanus, Aliahsobita, qui Regi MOHAMEDO hujus Regis patri à Secretis etiam fuerat; tum ejus postea filius; Tom. II.

„ deinde ABU ALI ALHASSANUS, & ALHASSAINUS MOHAMADI BEN JOSEPH Aliahsobita filii, ac fratres gemini nobilissimi, quos par morum elegantia, animi liberalitas, eruditio non vulgaris, ac denique idem ferè obitûs tempus conjunxit. Id laudis etiam habet hæc Loxanorum Familia, quòd antiqua affinitate Reges BEN NASSERI contingeret. In eorum postea locum suffectus est ABULCASSEMUS MOHAMAD BEN ALABED ALANSAREUS, vir doctrinâ & eruditione insignis, qui eo munere tandiu perfunctus est, donec eum dignitate Regi libuit deturbare. Electus tandem ABU ABDALLA MOHAMAD ABDELRAHMANI BEN ALHAKIM, Regis MOHAMADI olim Viziri filius, nobilis Rondensis, atque Jurisconsultus inclytus. Quod quidem munus obivit ad extrema usque Regis tempora. (b)

Ll 2.

„ In-

قام بالامر بعد ابيه وداشده مباشرة الوزير ايام حياته فجري علي سنن من اصطناع اجناسه ومداراة عدوه واجزا صدقائه واربي عليه بخلال منها جراعة الخط وحسن التوقيع واتيار العلما من الاطبا والمنجمين والحكما والكتاب والشعرا وقراض الابیات من الشعر وكثرة الملح وحرارة النادرة وطمه عليه بحر من الفتنة لاول امره وتكاثر المنتزون عليه وارقتجت الاندلس فثبت لزلزالها رابط الجاش ثابنت المركز وذل من الاحتيال والدها المنكوفين بجميل الصبر وطال عمره وبعده صبته واشتهر في الافاق ذكره وعظمت غزواته

(a) بنوه ثلاثة ولي عهد وسمية الاتي ذكره بحول الله وفرج نالیه المغتال ايام اخيه المذكور ونصر الامير بعده اخيه ونراوه كان وزيره الوزير الفاضل ابو سلطان عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني منسوب الي بلده دانبة من الشرق وبيتة معدود في بيونات الاشراف من اهل صقع الشرق اخلق الناس رعموا بوزارته هذا السلطان لتقارب الشبه في السن والصورة وفضل الذات الي متانة الدين وصحة الطبع

(b) كتابه تولى له خطة الخطابة به والرياسة العليا لقلم الانشا جملة منهم كاتب ابيه وابن كاتبه ابو بكر بن يوسف اللوشي اليحصبي ثم الاخوان ابو علي

» Inter Judices denique sese offerunt *ABU BAKERUS MOHAMAD BEN PHATH BEN ALI*, vulgò *ALASCHBARONI*, patriâ *Hispalensis*. Is morum jam Cenfor, ita ad omnes casus erat paratus, ut quum militem quemdam in foro ebrium, simulque insolentiùs in populum circumfusum irruentem offendisset; ipse unus accurreret, mox in illum arreptum captumque severissimè animadverterit. Huic postea successit *ABU ABDALLA MOHAMAD BEN MOHAMAD BEN HESCHAM*, *Ilicitanus*, Judex adeò æquus & sapiens, ut suam illi integritatem ipse Rex, non semel expertus, gratularetur. (a)

» Ad prælia quod attinet, ipsemet & præfens & ante alios emicans aciem ducebat. Equidem ille vix è vivis sublato *SANCTIO*, *ALPHONSI* filio, *Christianorum* Rege, ineunte ni-

» mirum anno *Egiræ* 695. validissimo exercitu coacto, urbem *Quesadam* invadit: quam unà cum variis locis ad eam pertinentibus strenuè expugnatam præsidio munivit, & genti *Alhama* colendam dedit. Anno etiam 699. urbem *Alcabdhac* (id est *Alcaudete*, quæ milliariis circiter XVIII. ab urbe *Jaen* distat, *GEOGRAPHO NUBIENSI* *Alghidhac* *الفيزاق* dictam) arcta cinxit obsidione: quam tandem, incenium parte diruta, victor ingreditur, effuso multorum civium sanguine, cæteris in celebrem illius arcem inclusis. Hæc autem urbs, quæ mirâ Dei providentiâ capta fuit anno *Egiræ* 699. Christi 1299. feriâ 1. die 8. *Schevali*, situ pulchra est, præsidio insignis, agro & aquarum bonitate felicissima; tum etiam inter limitanea hostium præsidia præcipua habetur. (b)

» Ex

علي الحسن والحسين ابنا محمد بن يوسف اللوشي وكانا تومين وعلي احسن منن من فضل الاخوة وكرم النفس وبضاعتهما في الادب متوسطة الغرض ووفاتهما متقاربة ولهذا البيت اللوشي ببني نصر اختصاص لجوارن سابقته ثم كتب له ابو القاسم محمد بن العابد الانصاري احد الشيوخ وبقيّة الصدور الادبا اقام كاتباً عنه مدة الي ان ارمه انحطاطه في هوي نفسه وتولي له كتابة الانشا الفقيه المحدث الاصيل ابو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم الرندي الوزير لوالده فاضطلع بها الي اخر دولته

(a) قضائه تولي خطة القضا ابو بكر محمد بن فتح بن علي الاشبيلي الملقب بالاشبرون بعد ان تقلد له قبل خطة السوق فلقبي سكرانامن الجند قد افترط في الفخة واشتد في العربة وحمل علي الناس فافرجوا عنه فاعترضه بنفسه وقبض عليه واستبصر في حده ودالغ في نكالة ثم ولي القضا بعده الفقيه الفاضل القاضي العدل ابو عبد الله محمد بن محمد بن هشام من اهل الش بحكاية غبطت السلطان به ودلته علي محله من العدل والفضل

(b) جهاده باشر الوقايح فانجلت ظلماتها عن صبح نصرته ففي شهر محرم من

„ Ex Regibus verò Mahometanis
 „ qui in Africa tunc temporis regna-
 „ bant , principem sibi vindicat locum
 „ *JACOBUS ABU JOSEPH BEN ABDELHAC*,
 „ Princeps naturâ lenis & animi can-
 „ dore insignis , qui *Almohaditarum*
 „ imperio funditus everso , Africam oc-
 „ cupavit ; indeque in Hispaniam , ut
 „ alibi significavimus & mox patebit ,
 „ ad hostem debellandum ter & ampli-
 „ us trajecit. Varium tamen erga se
 „ supra memoratum *Granatæ* Regem
 „ sensit , illum modò hostem , modò
 „ amicum expertus. *JACOBUS* deni-
 „ que , dum bellum adversus eundem
 „ Regem gereret , diem obiit in *Insula*
 „ *Viridi*, ineunte *Egiræ* anno 685. Re-
 „ rum postea potitus ejus filius *JOSE-*

„ *PHUS ABU JACOB* , in Hispaniam ve-
 „ nit ; ibique *Granatæ* Regem prope
 „ *Mertolam* convenit , ut arma & vi-
 „ res uterque ad expeditionem *Hispa-*
 „ *lensem*, *Cordubensem* & *Murcianam*
 „ pararet. Præterea *ALPHONSUS FERNAN-*
 „ *DI* filius , *SANCTIO* filio ab eo per ea
 „ tempora deficiente , ad *JACOBUM* jam
 „ laudatum Regem , qui in Hispania
 „ ea tempestate aderat , non procul ab
 „ oppido *Tugia* ad confinia *Sierra* con-
 „ fugit. Eo autem mortuo , succes-
 „ sit *SANCTIUS* , qui Regis *Granatæ* tem-
 „ poribus , quicum varia habuit col-
 „ loquia , interiit anno *Egiræ* 694.
 „ Christi 1294. Ejus filius *FERNANDUS*,
 „ adolescens in folio collocatur ; regna-
 „ vitque annos XVII. (a)

„ Rex

من عام خمسة وتسعين وستماية علي تقيّة طاغية الروم شانجة بن انفونش فحشش
 اهل الاندلس واستقر المسلمين فاغتنم الراعية وتحرك في جيش بجرحه الشوك
 والمدر ونازل مدينة فيحاطة ففتحها الله علي يديه وتملك بسببها جملة من الحصون
 الراجعة اليها واسكنها جيشا من المسلمين وطايقة من الحامية في وفي عام
 تسعة وتسعين نازل مدينة القبزاوق واخذ بمخنقتها واضرم القتال حولها وهذ النقب
 طايفة من سورها بين يدي القتال فدخلها عنوة واعتصم اهلها بمعقلها الشهير واحيط
 بهم فتملكها علي حكمة وهي من جلالة الوضع وشهرة المنعة وخصب الساحة
 وطيب الماء والوصول الي افلان فواد الكفر والاطلاع علي عوارثه بحيث شهر فكان
 تيسير فتحها من غرايب الوجود وذلك في صلاة الظهر من يوم الاحد الثامن لشهر
 شوال عام تسعة وتسعين وستماية في

(a) من كان علي عهده من الملوك المسلمين بالمغرب السلطان الجليل ابو يوسف
 يعقوب بن عبد الحق وكان ملكا صالحا ظاهر السزاجة سليم الصدر مخفوض
 الجناح وهو الذي استولي علي ملك الموحددين واجتث شجرتهم من فوق الارض
 وورث سلطانهم واجتاز الي الاندلس كما تقدم مرات ثلاثة او ازيد منها وغزاه
 العدو وجرت بينه وبين السلطان المترجم به امور بين سلم ومناسبة وعتب واعتاب في
 توفي بالجزيرة الخضراء في عنفوان وحشة بينه وبين هذا السلطان في محرم من
 عام خمسة وثمانين وستماية وولي بعده السلطان ابو يعقوب يوسف وجاز الي
 الاندلس

» Rex autem *Aragoniae* erat *AL-*
 » *PHONSUS JACOBI* filius, Petri nepos.
 » Huic interea loci mortuo successit fi-
 » lius, nomine *JACOBUS*, qui *Alme-*
 » *riam NASSERO* hujus Regis *Granatae*
 » filio ereptam ad illius usque obitum
 » tenuit. Erat sane *JACOBUS*, si fortitu-
 » dinem, sagacitatem & calliditatem
 » spectes, Princeps incomparabilis. Cæ-
 » terum Regis *MOHAMETI* temporibus
 » seditiones & bella gravissima, ipsum
 » inter & Principes *BENI ASCHCALIV-*
 » *LAT* oborta, crudescere & ardere
 » cœperunt, maximè inter *ABU MO-*
 » *HAMAD*, & *ABULHASSAN* urbis *Guadix*
 » Principes, & inter *ABU MOHAMAD*
 » *ABDALLAM*, ac *ABU ISACUM*, qui po-
 » stea in urbe *Malaca* & *Comares* re-
 » rum potiti sunt: quibus tandem in
 » Principatum successit *ABU MOHA-*
 » *MAD ABDALLÆ* filius, qui in Africa do-

» minandi cupidus, dolo & arte *Ma-*
 » *lacam* deseruit. Hanc postea aucto-
 » re *OMARO BEN MOHLI*, ejus præfe-
 » cto, *ABU JOSEPHUS* Rex Africae si-
 » bi vindicavit. Postremò supra memo-
 » rati urbis *Guadix* Principes vectiga-
 » les ad tempus ab eodem Rege fa-
 » cti, permutata urbe cum *Casfer Ko-*
 » *tama*, quodam Africae castro, illuc
 » tandem discedere coguntur. (a)

» Prætereà ejusdem Regis tempo-
 » ribus *JACOBUS ABU JOSEPH BEN ABD-*
 » *ELHAC*, de quo supra, ex *Marinorum*
 » stirpe Rex, in Hispaniam se contulit
 » Mahometanorum salutem acerrimè
 » propugnaturus, anno videlicet in-
 » eunte 672. quo quidem tempore fi-
 » lius à patre *Christianorum Rege* odio
 » & armis diffidebat; *Mahometani* ve-
 » ró viribus fracti, quàm maximè lan-
 » guebant. Inter hæc *JACOBUS*, ut suis

» con-

الانزاس علي عهد واجتمع به بظاهر مرجلة هو وابوه علي اشبيلية وقرطبة ومرسية
 وغيرها واتصلت ايام الفنش بن فرانده الي ان اثار عليه ولده شانجه واقترضت الحال
 اجازة سلطان المغرب واستجار به وكان من لقاية ابيه باحوار الصحرة من
 كورة تاكرنا lege تاكرنا ثم هلك وملك بعده ولده شانجه واتصلت ولايته مرة
 ايام السلطان وجرت بينهما خطوب الي ان هلك عام اربعة وتسعين وستماية وولي
 بعده ولده هرانده سبع عشرة سنة وصار الملك اليه وهو صبي صغير

(a) وجرثون الفنش بن جايماش بن بطره ثم هلك وولي بعده ولده جايماش الذي نازل
 المرية علي عهد نصر ولده واستمرت ايام حياته وكان لانظير له في الحزم والرها
 والقوة ومن الاحداث في ايامه ثفاقم علي عهد الشر واعبادا الفتنة ولقحت حرب
 الروسا من بني اشغليولة فمن دونهم فكان بمدينة وادي اش الريسان ابو محمد وادو
 الحسن ودمالقة وقمارش الريس ابو محمد عبد الله وقمارش اخيرا الريس ابو
 اسحق فانما الريس ابو محمد فهلك وقام بامر ولده ثم خرج عنها في سبيل الانحراف
 والمناجزة الي ملكة ملك المغرب ثم قصير امرها الي السلطان بعد علي بن واليها
 من بني محلي واما الريسان فصاجرا ومرنا علي المقاطعة بوادي اش نرمانا طوبلا
 وكان اخر امرهما الخروج عن وادي اش الي ملك المغرب معوضين بقصر كرامة

„ confuleret, *Granata* Regem conve-
 „ nit, quem quum domesticis rebelli-
 „ busque prius reconciliaverat. Anno
 „ *Egira* proximè sequenti *NUNNIUM*,
 „ *Christianorum* magni nominis Ducem,
 „ penitus fudit ac profligavit. Anno
 „ rursus 677. sub initium mensis Ra-
 „ bii prioris in Hispaniam trajecit, ca-
 „ straque ad urbem *Taripha* posuit; in-
 „ de *Granata* Regis jam amici viribus
 „ prope *Cordubam* sese adjungens, *Hi-*
 „ *spalim* obsedit. Verum quum pax in-
 „ ter utrumque diù subsistere minùs
 „ posset; *JACOBUS Malacam*, cedente
 „ illius Principe, occupat eodem anno
 „ *Egira* 697. feriâ 1. die 29. Ram-
 „ dani (scribendum anno 677. quum
 „ textus sit mendosus). Denique, co-
 „ dem *Granata* Rege, *Christianorum*
 „ Rex *Insulam Viridem* circumfedit,

„ quam parum profectò abfuit quin
 „ caperet. At Deo favente, paucorum
 „ militum ope urbis obsidione soluta,
 „ nostri noctis illius periculo perfun-
 „ cti, respirare cœperunt die 15. Ra-
 „ bii prioris, anno 678. (a)

„ Natus *Granata* anno *Egira* 633.
 „ diem obiit anno 701 ad vesp̄as fe-
 „ riâ 1. die 8. mensis *Schabani*, re-
 „ gnum ausp̄catus anno 671 feriâ 1.
 „ die 7. *Schabani*. (b)

„ *MOHAMEDUS tertius*, *MOHAMETI*
 „ filius, & *MOHAMETI BEN NASSERI*
 „ nepos, *Granata* Rex, aliàs *ABU ABD-*
 „ *ALLA* nuncupatus, Princeps nominis
 „ celebritate & solertiâ omnium clarif-
 „ simus, formâ etiam insignis: Rex fa-
 „ nè incomparabilis, tum consilio, tum
 „ ingenio felicissimus. Is, patre Re-
 „ ge atque Duce, optimam nactus est
 „ di-

(a) وفي أيامه جازر السلطان أبو يوسف يعقوب ابن عبد الحق الي الاندلس عازمًا
 ومجاهدا في سبيل الله في اوائل عام اثنين وسبعين وستماية وقد فسد ما بين ابن
 سلطان الروم وبين الملك ابيه واغتم المسلمون الغرة واستدعي السلطان ملك المغرب
 المذكور ولحق به السلطان المترجم به وجمع مجلسه بينه وبين المنتزبين عليه من
 قرابته واجلت الحال عن وحشه وفي العام بعده كانت الوقعة بالزعيم الكبير من
 نرعا الروم المسدي ذنونه واستبصال شافته ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه الي
 العدو واحتل بمدينة طريف في اوائل ربيع الاول عام سبعة وسبعين وستماية ونزل
 اشبيلية وكان اجتماع السلطانين بظاهر قرطبة فاتصلت اليه وصلحت الضماير ثم لم
 يلبث الحال ان استحال الي الفساد فاستولي ملك المغرب علي مالقة بخرج
 المنتزبي بها اليه يوم الاربعاء التاسع والعشرين لرمضان عام سبعة وتسعين وستماية
 وعلي عهده نزل طاغية الروم الخضرا واخذ بمخنفها واشرف علي افتتاحها فرفع
 الله عنها ونفس حصرها وعلي يدي الفية الفليلة من المسلمين فعظم المنح واسفر
 الليل وانجلت الشرة في وسط شهر ربيع الاول من عام ثمانية وسبعين وستماية

(b) مولده بقرنطة عام ثلاثة وثلاثين وستماية وفاته في ليلة الاحد ثامن شعبان من
 عام احد وسبعماية وتصير اليه الملك يوم الاحد السابع شعبان من عام احد
 وسبعين وستماية

„ disciplinam ; quippe ad imperii ad-
 „ ministrationem eruditus , rerumque
 „ jam expertus , rempublicam unà
 „ cum ipso tractavit : cui postea in
 „ regnum successit , ejus vestigiis om-
 „ nino insistens. Gravissimis Regni cu-
 „ ris , id postulante iniqui illius tem-
 „ poris ratione , distentus , ad multam
 „ usque noctem prælucentibus funali-
 „ bus de Reipublicæ & domûs Re-
 „ giæ commodis cogitando , frequen-
 „ ter vigilare solebat , excubantibus
 „ quibusdam qui transactas horas an-
 „ notarent : unde epiphorâ laborare
 „ cœpit. Cæterum res illi omnes , for-
 „ tuna comite , ad nutum fluebant ;
 „ quippe qui hostes non semel vicerit ,
 „ pacemque cum Regibus inierit. Poë-
 „ ta ille erat insignis & Orator : adeo
 „ ut Poëtis materiam proponeret mul-
 „ tiplicem , ac versibus etiam alternis
 „ contenderet. Viros eruditos penitus
 „ noverat ac plurimi faciebat ; cum
 „ Principibus convivari solitus erat.
 „ Ad hæc accedunt summa , qua emi-

„ nebat rerum scientia , ingenii acu-
 „ men , scribendi peritia , & exarandi
 „ litteras elegantia : Rex quidem opti-
 „ mus , nisi fuisset naturâ crudelis. (a)

Plures hîc occurrunt ejusdem Re-
 „ gis versus præclari , quos nos , brevita-
 „ ti consulentes , prætermittendos duxi-
 „ mus.

„ Ex magnificis illius monumen-
 „ tis posteritati relictis est Templum
 „ maximum , quod in Regia urbe (vul-
 „ gò *Alhambra*) pereleganti forma ex-
 „ truxit , musivo opere pictum , co-
 „ lumnisque magnis mira quidem arte
 „ elaboratis , capitulo insuper & basi
 „ argentea insignibus suffultum ; illud-
 „ que postremo relictibus Balnei , quod
 „ de Christianorum & Judæorum tri-
 „ butis ex adverso condiderat , piæ do-
 „ nationis titulo assignatis locupletavit ;
 „ agris præterea emptis quos colonis
 „ ferendos , metendosque ad illius emo-
 „ lumentum tradidit : opus quidem sin-
 „ gulare & eximium , ac Principe illo
 „ incomparabili prorsus dignum. (b)

„ Ubi

(a) أمير المسلمين محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر أبو عبد الله ثالث
 ملوكهم ☞ حاله كان من أعظم أهل بيته صبيا وهمة أصيل المسجد مليح الصورة
 عزيز الأمانة ميمون النقيبة سعيد النصبه عظيم الإدراك فهنا العيش مدة أبيه ودمه
 السياسة حياته وياشر الأمور بين يديه ☞ ثم تولي الأمر بعد أبيه فاجراه علي دبرنة
 وتقبل سيرته ونسج علي منواله وقد كان الدهر ضايقه في حصه الصحة ونعصه ملان
 الملك بزمانة سدكة بعينية لمواصلة السهر ومباشرة أنوار ضخام الشمع ان كانت
 تتخذ له جزوع في اجمادهامواقبت تخبر بانقضا ساعات الليل وعلي التزام
 لكنه وغيبوته في كبر بيته فقد خرمته السعود واملت باجه الفتوح وسالمت
 الملوك ☞ وكان يقرض الشعر فيجيز الشعرا ويروضهم للندما ويعرف مقادير العلماء
 ويواكل الاشراف والروسا مليا من كل تجربة وحنكة حار النادرة حسن
 التوقيع مليح الحظ يغلب علي خلقه الفظاظه والقسوة ☞

(b) وأعظم مناقبه ابتنا المسجد الأعظم بالحمر من غرناطة علي ما هو عليه من الطرف
 التنجيد والتزقيش من فخامة العمد واحكام أنوار الفضة وإبداع ثرياواتها ووقوف
 له

„ Ubi regni gubernacula suscepit,
 „ urbem *Almandhar* (id est *aspectu pul-*
 „ *chram*) vi cepit, captivosque ejus ci-
 „ ves duxit, in his Reginam nobilissi-
 „ mam, simulque pulcherrimam, quæ
 „ famulis comitata, curru vecta & splen-
 „ didè vestita *Granatam* intravit. Eam,
 „ ut fertur, uxorem sibi adjunxit *Mauri-*
 „ *tania* Rex. Insignis fuit hæc victoria,
 „ & ubique gentium celeberrima. (a)

„ Inter plures illi à Secretis fuit
 „ *ABU SOLTHAN AZIZ BEN ALI BEN*
 „ *ABDELMENEMUS*, *Deniæ* stirpe nobili-
 „ natus, qui diu Viziratum obtinuit.
 „ Inde delectus *ABA ABDALLA MOHA-*
 „ *MAD BEN ABDELRAHMAN BEN ABRA-*
 „ *HIM BEN ALHAKIM* ex *Ronda*, vul-
 „ gò *ALAKHAMI*, cujus alibi facta nobis
 „ mentio, anno scilicet labente 703.
 „ Huic uni Rex se, regnique admini-
 „ strationem omnino credidit. (b)

Tom. II.

„ A Libellis verò & Epistolis complu-
 „ res recensentur, ingenio, eruditione &
 „ morum elegantiâ conspicui: quos in-
 „ ter sese ultrò offerunt *ABU BAKERUS*
 „ *BEN SCHABERIN*, dignitate Judex; *ABU*
 „ *ABDALLA BEN ASSEMUS*; *ABU ISAC BEN*
 „ *GEBER* Orator; *ABU ABDALLA BEN ALO-*
 „ *SCHI*, arte Poëtica insignis; *ABU MO-*
 „ *HAMAD Alhadhramira*; *ABU ALHAGIA-*
 „ *GEUS*, patriâ *Dertusanus*; & *ABU ELAB-*
 „ *BAS BEN CARACO*, Poëta disertus. (c)

„ Judices denique inter alios fue-
 „ re *ABU ABDALLA MOHAMAD BEN*
 „ *MOHAMAD BEN HESCHAM Ilicitanus*,
 „ æquitate morumque integritate nul-
 „ li secundus, qui dum Judicis mu-
 „ nere fungeretur, fato functus est
 „ anno Egiræ 704 Subiit verò in ejus
 „ locum *ABU GIAPHAR AHMAD BEN*
 „ *MOHAMAD BEN AHMAD ALCARSCHI*,
 „ cognomine *PHARCON*. (d)

Mm

„ In-

له الحمام بانراية وانفق فيه مال جريرة غرمها من يلية من الكفار فدرا بها نزعها
 جهز جيشا صايفه لانتسافه فظفر بها منقبة يتيمية ومعلوة فاق بها من تقرمه

(a) جهاده اغزا الجيش لاول امره مدينة المنظر فاستولي عليها عنوة وتملك من
 اشتملت عليه ومنهم العليجة صاحبة المدينة من افراد عقايل الروم فقدمت الحضرة
 في جملة من البني نبيهة المركب ظاهرة الملبس رابعة الجمال خص بها ملك
 المغرب فاتخذها نزعوا لنفسه وكان هذا الفتح عظيما والصيت لاجله بعيدا

(b) وثرأوه الشيخ الوزير ابو سلطان عزيز بن عبد المنعم الراني وتماذي امره جرحة
 ثم انهض للموزارة كاتبه ابا عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن ابراهيم بن
 الحكيم اللخمي الرندي وقد مر ذكره من عام ثلاثة وسبعماية وصرف اليه تدبيره
 والقي في يده انزمة الملك

(c) كتابه وكان جملة نباهي بهم الدول ادبا تفننا فضلا وظر فاكالشيخ الفقيه
 القاضي ابي بكر بن شبرين وابي عبد الله بن عاصم والاديب ابي اسحق بن جابر
 والوزير الشاعر ابي عبد الله بن اللوشي والرئيس ابي محمد الحضرمي والقاضي
 ابي الحجاج الطرطوشي والشاعر المكثّر ابي العباس بن الفراق

(d) قضائه ابو عبد الله محمد بن محمد بن هشام اللشي قاضي العدل وخاتمة
 اولي

„ Inter Reges, qui ejus tempori-
 „ bus inclaruere, primus occurrit Jo-
 „ SEPHUS ABU JACOB, Jacobi Regis, AL-
 „ MANSORIS dicti, filius, Fessa ex Mari-
 „ norum stirpe Rex: qui rebus composi-
 „ tis, deletisque propinquis atque aliis,
 „ quorum vires & potentiam extime-
 „ sceret, Imperii fines protulit, opes am-
 „ plificavit. In Hispaniam belligerandi
 „ causâ profectus est ante & post patris
 „ obitum. Tremissenum urbem obsedit,
 „ quam ineunte mense Dilcadat anni
 „ 706. subegit. Eo mortuo, regni gu-
 „ bernacula suscepit ejus nepos AMERUS
 „ ABI THABET BEN ALAMIR ABI AMER
 „ ABDALLA, EBN JOSEPH BEN JACOB.
 „ Is bello superatis æmulis, primoribus
 „ etiam interfectis, quos inter Prin-
 „ ceptus ABU IAHA, ABI JOSEPHI Re-
 „ gis filius, & Princeps ABU SALEMUS,
 „ Regis ABU JACOBI filius. AMERO qui
 „ regnaverat ad annum usque Egiria-
 „ num 708. successit frater SOLIMANUS,
 „ ABU ELRABI dictus. (a)

„ Tremissenense verò Imperium erat
 „ penès Principem ABU SAID OTHMAN
 „ BEN IAGMARASANI; inde penès ejus
 „ fratrem ABU ZAIAN; tandem illud
 „ suo ordine sibi vindicarunt ABU AMU,
 „ ejusque filius, ac Princeps ABU TA-
 „ SCHPHIN ABDELRAHMANUS, qui re-
 „ gnum ad nostri Granata Regis obi-
 „ tum perduxit. (b)

„ Tuneti autem Rex erat ABU ABD-
 „ ALLA MOHAMAD BEN ALVATEK BIL-
 „ LA ex Regia Haphsitaram familia,
 „ Princeps temperantiâ, pietate, mo-
 „ destiâ, prudentiâ atque amore erga
 „ viros integerrimos inclutus. Obiit
 „ mense Rabio posteriori, anno Egi-
 „ riano 709.

„ Castella verò Rex HERANDUS;
 „ SANCHII filius, & ALPHONSI nepos,
 „ qui defuncto patre puer relictus, in
 „ tutelam, ut moris est, traditur. Quo
 „ factum est ut cum ipso, dum vixit,
 „ pace inita, nostri jam tuti interquie-
 „ scere cœperint.

„ Ara-

اولي الفضل الي ان توفي عام اربعة وسبعماية وتولي له الفضا ابو جعفر احمد بن
 محمد بن احمد القرشي المنبر بادن فركون

(a) من كان من الملوك علي عهد واول ذلك بفاس ابو يعقوب يوسف ابن يعقوب
 المتصور بن عبد الحق وهو الذي وطد الدولة وجبى الاموال العريضة واستاصل من
 يتقي شوكتة من القرابة وغيرهم وجاز الي الاندلس في ايام ابيه وبعده غانريا ثم
 حاصر تلمسان وملك عليها في اوائل ذي قعدة عام ستة وسبعماية ثم صار الملك
 الي حافده ابي ثابت عامر بن الامير ابي عامر عبد الله بن يوسف بن يعقوب بعد
 اختلاف وقع ونزاع انجلي الامر فيه عن قتل جماعة من اكابرهم منهم الامير ابو
 يحيى ابن السلطان ابي يوسف والامير ابو سالم ابن السلطان ابي يعقوب واستمر
 الامر للسلطان ابي ثابت الي شهر صفر عام ثمانية وسبعماية وصار الامر بعده الي
 اخيه السلطان ابي الربيع سليمان

(b) وتلمسان الامير ابو سعيد عثمان بن بغمراسن ثم اخوه ابو نريان ثم ابوه الامير
 ابو حمو ثم ولده الامير ابو تاشفين عبد الرحمن الي اخر مرثة

„ *Aragonia* denique Rex *JACOBUS*,
 „ *ALPHONSI* filius, *PETRI* nepos. (a)
 „ Eiusdem Regis memoranda.
 „ Quum anno 703. Princeps *ABULHA-*
 „ *GIAGEUS BEN NASSER*, ejus confan-
 „ guineus, ab ipso cum civitate *Gua-*
 „ *dix* defecisset; illum prælio victum,
 „ patruelis operâ interficiendum cura-
 „ vit. Anno verò ab Egira 705. men-
 „ se Scheualo *Septam* non sine magna
 „ sui nominis celebritate expugnavit,
 „ regno pulso *ABI TALEBO ABDALLA*
 „ *BEN ABIELABBASO* ex *Algarphitarum*
 „ familia, ejus Principe, cujus opes
 „ resque pretiosas sub initium mensis
 „ Moharami anni proximè sequentis
 „ sibi vindicavit. (b)
 „ Die Paschatis anni Egiriani 708.
 „ Regni Proceres, Fratrilque Regis
 „ partium fautores, qui Regi infidias
 „ dudum moliti erant, imminente jam
 Tom. II.

„ fatali illius hora, ædem Regiam mi-
 „ lites infederunt: mox in primarium
 „ illius Administrum *ABU ABDALLA BEN*
 „ *ABDELHAKIM* irruentes, ejus domum
 „ opibus immensis, armis, supellecti-
 „ libus refertam unà cum ampla Bi-
 „ bliotheca diripuerunt; *NASSERUM*que
 „ ejusdem Regis fratrem, Regem con-
 „ salutarunt. Itaque rumore divulgato,
 „ ad inopinatum casum magnus fit
 „ populi tumultus, qui catervatim &
 „ licentiùs ad *Alhambram* convolans,
 „ omnia miscet, domos expilat, ma-
 „ nus etiam in Vizirum insolentiùs
 „ injicit. Ad vesperam tandem ejusdem
 „ diei Rex, imperio coram Judicibus
 „ abdicato, in Arcem Principis extra
 „ *Granatam* ad tempus perbreve, in-
 „ de in urbem *Almuñecar* transfertur.
 „ Hujusmodi Regis casus Mahometa-
 „ nis quàm acerbissimus accidit. (c)

Mm 2

Quum

(a) وبتونس السلطان ابو عبد الله محمد بن الواثق بالله من بني ابي حفص من
 اولي العفة النودة الفضل الحشمة والعقل والعناية بالصالحين هلك في ربيع الاخر
 عام تسعة وسبعماية

وبقشتاله هرانده ابن شنجة بن الفونش هلك ابوه وتركه صغيرا مكفولا علي
 عاقبتهم فتنفس المختق وانعقدت السلم واتصل الامان مدة ايامه
 وجرغون الطاخية جايمش بن الهونشه بن بطره

(b) بعض الاحداث في عام ثلاثة وسبعماية ثار عليه قريبه الرئيس ابو الحجاج بن
 نصر جمرينة وادي اش وبادره فتغلب عليه فقتله صبوا بيد احدي بني عمه وفي شوال
 من عام خمسة وسبعماية فرغ الاسما النبا الغريب من تملكه مدينة سبتة
 وانتزاعها من يد ريسها ابي طالب عبد الله بن ابي العباس الغرقي واستاصل ما كان
 لروساها من الخزرايين والذخاير فكان ذلك غرة المحرم من العام بعده

(c) خلعه وفي يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعماية تمت الحيلة عليه واحيط به
 وهو من مصاب بعينه مقعد في كنه داخلت طايقة منهم من كبار الدولة اخاه
 ففتكت جوزيرة ابي عبد الله بن عبد الحكيم ونصبت للناس اخاه المذكور نصرا
 وكبس منزل السلطان فاحيط به وجعل عليه العرس وتسومع بالكاينة فوقع الهفت

وسال

„ Quum autem Nasserus Rex an-
 „ no 710. sub finem mensis Gemadi
 „ posterioris gravissimâ apoplexiâ cor-
 „ reptus esset , adeo ut jam mortuus
 „ crederetur ; fautores de Rege ABU
 „ ABDALLA Reipublicæ & Regno resti-
 „ tuendo cogitarunt. Quare in urbem
 „ Almuñecar , ubi ille exulabat , pro-
 „ fecti , lecticâ delatum in urbem Gra-
 „ natam invexerunt ineunte mense
 „ Ragebo ejusdem anni. Verùm fra-
 „ tre per id temporis ex morbo con-
 „ valescente , sua omnino spe decidit.
 „ Post hæc diem obiit sub initium
 „ mensis Scheuali , anno 713. qui,
 „ ut fertur , in lacum ex insidiis con-
 „ jectus , interiit. Corpus tandem Re-
 „ gio Sepulchro conditum est , hocce
 „ Epitaphio in marmore inciso. (a)

„ Hic jacet Rex pernobilis ; Pon-
 „ tifex justus , pietate & morum in-
 „ tegritate nulli secundus ; Signifer &
 „ Dux strenuus , Deo gratus , pius ac
 „ religiosus ; virtutis & sanctimonia ve-
 „ ra cultor , animo verbisque integerrimus ;
 „ hominum Rector , Veritatis
 „ Defensor , simulque pietatis & vir-

„ tutis Exemplar : qui sibi subjectos cum
 „ honore & clementiâ rexit ; iisque
 „ morum probitate & industriâ pacem
 „ ac securitatem peperit ; qui dum vi-
 „ xit , ita se gessit , ut vitâ functus
 „ amplio rem meruerit gloriam ; qui exi-
 „ mia virtutis exempla omnibus prodidit ;
 „ nam perpetuum Infidelibus indixit
 „ bellum , iisque fortiter restitit ; ju-
 „ stitiam æqua lance expendendam cu-
 „ ravit , servatis ubique clementie le-
 „ gibus ; sui juris Tutor , ac Religio-
 „ gionis propugnator ; suorum majorum
 „ virtutum , quorum vestigiis in regen-
 „ da tuendaque Republica insistere si-
 „ bi proposuit , & Heres & Imitator ;
 „ Mahometanorum Imperator , ac Fi-
 „ delium Adjutor : Rex sanè excelsus ,
 „ idemque Dux inclytus ; Nubes roris ,
 „ & legum Vita ; sua gentis Decus ,
 „ ac fidei Propugnaculum , ABU ABD-
 „ ALLA , Rex & Regis ALGALEBI BILLA
 „ filius , stirpe Nasserita , cujus ani-
 „ mam Cæli excipiant hospitia. Natus
 „ est anno Egiræ 655. feriâ 4. die 3.
 „ Schabani ; obiit verò divina gratiæ
 „ & quietis compos anno 713. ad

„ ve-

وسال من الغوغا البحر فتعلقوا بالحمرأ يسلون علي الحادثة فشغلوا بانها—اب دار
 الوزير وبها من مال وذخيرة وكتب وسلاح وفرش وأذية وخرثي ما يفوت الوصف
 وكان الفجع في اضعته علي المسلمين عظيما وانطلقت عليه الايري الخبيثة وفي
 اخر اليوم المذكور ادخل علي السلطان قوم من الفقها اشهرهم بخلع نفسه ونقل
 الي القصر المنسوب الي السيد بخارج الحضرة اقام به يسيرا ثم نقل الي مدينة
 المنكب

(a) وفي اخرية شهر جمادي الاخرة من عام عشرة وسبعماية اصابت السلطان نصرا
 مكنته توقع منها موته بل شك في حياته فوقع التفاوض الذي تمخض عن التوجية
 عن السلطان ابي عبد الله الي محل اعتقاله بالمنكب ليعود له الامر فاسرع به الي
 قرناطة في محفة فكان حلولة بها في غرة شهر رجب من العام المذكور وافاق
 اخوه من مرضه ثم شاعت وفاته اوائل شوال عام ثلاثة عشر وسبعماية فذكر انه
 اغتيل تغريبقا في البركة ودفن بمقبرة السبيكة مرفن قومه وعليه مكتوب

„ *vesperas feria 2. (id est feria 1.)*
 „ *die 3. Scheuali. Illum Deus in supre-*
 „ *mis Cæli sedibus cum beatis justif-*
 „ *que Prophetis collocet; & Domino*
 „ *nostro MOHAMEO, ejusque familia*
 „ *etiam atque etiam benedicat. (a)*

Ex altero marmoris latere versus
 XX. in litteram Δ similiter desinentes
 leguntur : quos, quum unum eundem-
 que sensum præ se ferant, consultò
 prætermittimus.

„ *NASSERUS MOHAMEDI, BEN MO-*
 „ *HAMEDI, JOSEPHI Nasseritæ filius,*
 „ *ABA ALGEIUSCH dictus, Hispaniæ Rex*
 „ *& fratris patrisque successor extitit,*
 „ *insignis oculis formâ & staturâ Ju-*
 „ *venis; ad hæc natura & ingenio le-*
 „ *nis, modestus & ad pacem natus,*
 „ *necnon virtutis, ejusque cultorum*

„ *maximè studiosus. Astronomicæ &*
 „ *Gnomonicæ scientiæ, præceptore*
 „ *ABU ABDALLA BEN ALRACAM, viro*
 „ *incomparabili disciplinisque Mathe-*
 „ *maticis apprimè ornato, sic avidè &*
 „ *feliciter operam dedit, ut instrumen-*
 „ *ta Mathematica miro artificio, sua*
 „ *ipse manu elaborarit. Tabulas etiam*
 „ *Astronomicas, uti & Horologia affa-*
 „ *brè ac ad amussim descripsit. Prin-*
 „ *ceps erat munificus & affabilis; sui*
 „ *tamen juris severus assertor. Adoles-*
 „ *cens annum agens XXIII. fratre*
 „ *die Paschatis, anno videlicet 708. è*
 „ *Regia dignitate deturbato, ad solium*
 „ *evectus est. Egregiam ac Imperato-*
 „ *riam illius formam vestium quoque*
 „ *cultus & elegantia comitabatur:*
 „ *adeo ut singulare quoddam naturæ*

„ *mi-*

(a) هذا قبر السلطان الفاضل الامام العادل علم الاتقيا احد الملوك الصالحين
 السمجت الاواه المجاهد في سبيل الله الرضي الاروع الاخشي لله الاخشع المراقب
 لله في السر والاعلان المعمور الجنان بذكره واللسان السالك في سياسة الخلق
 واقامة الحق منهج التقوي والرضوان كافل الامة بالكرامة والحنان الفاتح لها
 بفضل سيرته وصدق سيرته ونور بصيرته اجواب اليمن والامان المنيب الاولب العامل
 بكل ما يجده نورا يوم الحساب في الآثار السنية والاعمال الطاهرة العلية القاييم
 في جهاد الكفار بماضي العزم وخالص النية مقيم قسطاس العدل منير منهج
 الحلم والفضل حامي الزمار وناصر دين المصطفى المختار المفتردي باجراده الانتصار
 المتوسل بما اسلفوه من اعمال البر والجهاد ورعاية البلاد والعباد الي الملك الغفار
 امير المسلمين وظهير المومنين وقامع المعتدين المنصور بفضل الله ابي عبد الله بن
 امير المسلمين السلطان الاعلي امام الهدي غمام النداء محي السنة معز الملّة
 المجاهد في سبيل الله الناصر لدين الله ابي عبد الله ابن امير المسلمين الغالب
 بالله ابي عبد الله بن يوسف بن نصر كرم الله مثواه ونعمه برضاه ولد مرضي الله
 عنه في يوم الاربعاء الثالث لشعبان المكرم من عام خمسة وخمسين وستمائة
 ودفني قدس الله روحه وجرده ضريحه ضحوة يوم الاثنين الثالث لشوال عام ثلاثة عشر
 وسبعماية مرفعة الله الي اعلي منازل اوليائه الاجرار والحقة بايمة الحق الذين لهم
 عقبى الدار وصلي علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم تسليما

„miraculum diceret. Quum patris fra-
 „trisque jura & instituta minimè ser-
 „vasset, dura atque iniqua nactus est
 „tempora; nam hostis viribus auctus
 „& audacia, in Mahometanorum, ut
 „suo loco dicitur, capita crudelissi-
 „mè sævit. Magnus profectò Princeps,
 „utpote magnæ expectationis ado-
 „lescens, extitisset, si numen ei &
 „fors secunda favissent. (a)

„Ejus Consilarii & Administræ *ABU*
 „*BAKERUS ATICUS BEN MOHAMAD BEN*
 „*ALMUL*, amplissimâ *Corduba* ortus
 „familiâ, vir ingenio & bello acer...
 „... & *MOHAMAD BEN ALI BEN ABD-*
 „*ALLA BEN ALHAGI*, Regni discordia-
 „rum artifex, cujus opera & fraude

„Rex imperio tandem exutus est: ho-
 „mo callidus in primis & audax, at-
 „que etiam in Hispanorum Historia
 „rebusque gestis abundè versatus.
 „A Libellis verò & Epistolis cele-
 „bratur *ABULHASSENUS BEN ALGIAB*,
 „eruditione insignis & penè incom-
 „parabilis, qui ad Regis usque obi-
 „tum id munus obiit. Inter Judices
 „autem occurrit *ABA GIAPHARUS BEN*
 „*ALCARSCHI*, aliàs *BEN Alpharcon* di-
 „ctus, cujus facta est alibi mentio. (b)

„Inter Reges ejus temporum aqua-
 „les Rex erat *Africa ABULRABIUS SO-*
 „*LIMANUS BEN ABDALLA BEN ABI FA-*
 „*COB JOSEPH* ex *Marinorum* stirpe, cui
 „Regnum *Tingitanum* post fratris *ABU*
 „*THA-*

(a) أمير المسلمين نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصر الأمير بالاندلس
 بعد أخيه وأبيه يكنى أبا الجيوش في حالة كان فتى ملا العيون حسنا وقام
 صورة دمت الاخلاق لبن العريكة عفيفا محبوبا علي طلب الهدنة محبا في الخير
 وأهله اخذا من صناعة التعديل بخطر رغيب يخط التقاويم الحسنة والجدول
 الصحيحة الطريقة ويصنع الآلات العجيبة بيده اختص في ذلك الشيخ الامام ابا
 عبد الله بن الرقام وحيد عصره ظرفا واحكاما وكان حسن العهد كثير الوفا
 حملة الوفا علي اللجاج في امره تقدم يوم خلع أخيه يوم الفطر من عام ثمانين
 وسبعماية وسنة ثلاث وعشرون سنة وكان من تمام الخلق وجمال الصورة والتائق
 في رفيع اللباس وملوكي البرة اية من آيات خالقه واحتذي مرسوم ابيه وأخيه
 وكانت أيامه كما شا الله أيام نوح مستمر شملت المسلمين فيها ولازمنة
 واحاط بهم الزعر وكلب العدو وسيمر في ذلك ما فيه كفاية وكان فتى اي فتى
 لوساعده الجرد والامر لله من قبل ومن بعد

(b) وثريا دولته القايد ابو بكر عتيق بن محمد بن المول الشهم النجد وبيت بني
 مول بقرطبة بيت اصالة... ثم قولي الوزارة محمد بن علي بن عبد الله بن
 الحاج الميسر اخلعه وكان خبا داهية اعلم الناس باخبار الروم واثارهم فحدثت
 بين السلطان وبين أهل حضرته الوحشة بسببه كتابه شيخنا ابو الحسن بن
 الجياب نسيج وحده الي اخر مرته في فضائه الشيخ الفقيه ابا جعفر بن القرشي
 المنبر باجن فركون وقد تقدم ذكره

» *THABETI AMERI* decessum obrigit, an-
 » no videlicet *Egira* 708. mense Sa-
 » pharo. Hic qui Rempublicam summa
 » cum laude administraverat, *Septam* suis
 » restituit. Obiit denique in urbe *Teza*,
 » (de qua consule *LEONEM AFRICANUM*
 » *Lib. III. pag. 179.*) sub initium men-
 » sis *Ragebi*, anno *Egira* 710. In cu-
 » jus locum statim subiit *ABU SAID*
 » *OTHMANUS BEN ABI JOSEPHUS JA-*
 » *COB*, qui regnum ad *NASSERI* Regis
 » ejusque successoris tempora perdu-
 » xit. (a)

» *Tremissenensis* verò Regni gu-
 » bernacula tenebat *MUSA ABU HAMU*
 » *BEN OTHMAN BEN IAGMARASAN*, in-
 » signe fortitudinis, vigilantia, con-
 » stantiaque animi exemplar; imperii
 » tamen idem severitate, ac vitiorum
 » magnitudine nobilissimus; regna-
 » vitque ad annum 718. donec suus
 » eum filius *ABDELRAHMANUS ABU TA-*
 » *SCHPHIN* Regno expulit. (b)

» *Tuneti* etiam Rempublicam per
 » id temporis regebat *ABU ABDALLA*
 » *MOHAMAD BEN IAHLIA BEN ALMO-*
 » *STANSER ABI ABDALLA MOHAMAD*, qui
 » diem obiit mense *Rabio* posteriori,
 » anno ab *Egira* 709. Hinc Regnum

» sibi vindicat *ABU BAKERUS BEN ABD-*
 » *ELRAMAN* ejusdem propinquus, quem
 » oppugnaturus Princeps *ABULBACA*
 » *KHALEDUS BEN ALAMIR*, eodem &
 » sanguine conjunctus, *Bugia* profectus
 » est; inde in *Tuneti* Regnum inva-
 » dens, illum ita fudit, ut fugâ saluti
 » consulens, cujusdam horti latebras
 » petierit. Ibi deprehensus, ad Princi-
 » pem *ABULBACAM* ducitur; moxque
 » Ministrorum hujus consilio interfi-
 » citur. Rerum itaque *ABULBACA* poti-
 » tus est die 4. *Gemadi prioris*, anno su-
 » pra memorato, idque ad adventum
 » usque *ABU IAHLIA ZACHARIE EBN*
 » *AHMAD*, cognomento *ALLAHIANI*, vi-
 » ri inter *Haphsitas* & ætate & poten-
 » tiâ commendatissimi, qui *Tripoli* ad
 » tempus belli celeritate retardata, *Tu-*
 » *netum* tandem pervenit. Is ibi ex-
 » ceptus ab *ABU ABDALLA ALMAZDU-*
 » *RI* familiari suo principatum armis
 » affectare pergebat, quem demum
 » die 9. *Gemadi prioris*, anno 711.
 » obtinuit. *ABULBACA* regno exutus &
 » in vincula coniectus, decessit men-
 » se *Scheualo*, anno 713. *ABU IAHLIA*
 » igitur regnavit ad tempora usque
 » *NASSERI* Regis *ABIELGIUSCHI*: quam
 » rem

(a) من كان من الملوك علي عهدہ بالمغرب السلطان أبو الربيع سليمان بن
 عبد الله بن أبي يعقوب يوسف قصير الامر اليه بعد وفاة اخيه السلطان أبي ثابت
 عامر باحوار طنجة في صفر عام ثمانية وسبعماية وكان مشكور الولاية وفي دولته
 عادت سبتة الي الولاية المرينية ثم توفي بتانري في مستهل شهر رجب من عام
 عشرة وسبعماية وتولي الملك بعده أبو سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب واستمرت
 ولايته الي تمام أيام هذا الامير وكثيرا من أيام من بعده ١٠

(b) وتلمسان الامير أبو حمو موسى بن عثمان بن يغمراسن المثل السائر في
 العزم والنيقظ وصلابة الوجه واحكام القحة والاعراب في خبت السيرة واستمرت
 ولايته الي عام ثمانية عشر وسبعماية الي ان سطا به ولده عبد الرحمن ابـ
 تاشفين ١١

„ rem fatis in nostro Poëmate indica-
„ vimus. (a)

„ Ex Regibus autem *Christianorum*
„ erat *HERANDUS SANCHII* filius, &
„ *ALPHONSI* nepos, qui, *NASSERO* Re-
„ ge, *Insulam Viridem* obsedit: à qua
„ postmodum, pactis quibusdam legi-
„ bus, simulque numeratâ pecuniâ, di-
„ scessit. Hic verò quum extremis ejus-
„ dem Regis temporibus arcem *Al-*
„ *caudete* circumfederet, fato functus
„ est. Hinc ejus corpus, obsidione mi-
„ nimè solutâ, & morte triduo celatâ,
„ ad urbem *Faen* translatum, donec

„ ejus successor planè renunciatus est.
„ Cæterum singularis & scitu fanè di-
„ gna de illius morte fabula narratur,
„ quam nos in *Nobilium Virorum*
„ *Chronologia* retulimus. Itaque in ejus
„ locum successit filius, nomine *AL-*
„ *PHONSUS*, regnavit ad annum 750.
„ Rex autem *Aragonia* *JACOBUS PETRI*
„ filius, qui fuso delectoque Maho-
„ metanorum exercitu, *Almeria* obsi-
„ dionem ad ultima Regis *NASSERI*
„ tempora protraxit. (b)

„ Casus memoratu digniores. Ubi
„ primùm *NASSERUS* rerum summâ

„ po-

(a) ويتونس الامير ابو عبد الله محمد بن يحيى بن المستنصر ابي عبد الله محمد بن
ثم توفي في شهر ربيع الاخر من عام تسعة وسبعماية فولي الامر قريبه الامير ابو
بكر بن عبد الرحمن ونهض اليه من بجاية قريبه السلطان ابو البقا خالد بن
الامير ابو تركريا والتفيا بارض تونس فهزم ابو بكر بن عبد الرحمن ونجا
بنفسه فدخل بستانا مختفيا فيه فسعي به الي ابي البقا فامر بعض القرابة بقتله
صبرا وتم الامر الي ابي البقا في رابع جمادي الاولى منه الي ان دخل الشيخ ابو
يحيى تركريا ابن احمد المعروف بالبحياني وهو كبير ال ابي حفص سنا وقبرا
فاقام بطرابلس وانفذ الي تونس خاصته الشيخ ابا عبد الله المردي محاربا
لابي البقا وطالبا للامر فتم له الامر وخلع ابو البقا تاسع جمادي الاولى عام احد
عشرة وسبعماية وتم الامر للشيخ ابي يحيى واعتقل ابو البقا فلم ينزل معتقلا الي ان
توفي في شوال عام ثلاثة عشر وسبعماية واتصلت ايام الامير ابي يحيى الي ان
انقضت مدة الامير ابي الجيوش وقد تضمن الاساع ببعض ذلك الرجز من نظمنا

(b) ومن ملوك النصرى بقتلتاله هرانده بن شنجه بن الفونشة نازل علي عهد
الجزيرة الخضراء ثم اقلع عنها عن شروط وضريبة ثم نازل في اخريات ايامه حصن
القبذاق وادركه الم الموت بظاهرة فاحتل من المحلة الي جيان ونقيت المحلة
منيخة علي الحصن الي ان تملك بعد موت الطاغية بايام ثلاثة كتموا فيها موته
ولموتة حكاية غريبة تضمنها كتاب طرفة العصر من قاليفنا وقام بعده ولده
الفونشة واستمرت ايامه الي عام خمسين وسبعماية ودرغون جايمش بن بطره وهو
الذي نازل مدينة المريية وشن جصارها وهزم جيش المسلمين بخارجها الي تمام
ايامه

„ potitus est, *Castellæ* Rex castra pro-
 „ pe *Insulam Viridem* metatus, eam
 „ circumfedit à die 21. mensis Sapha-
 „ ri ad postremos Schabani dies anno
 „ Egiræ 709. post urbem *Gibraltar* vi-
 „ tricibus armis sibi subjectam. Rur-
 „ sùs eodem anno, incunte mense Ra-
 „ bio priori, *Barcinonis* Rex *Alme-*
 „ *riam* obsedit ad finem usque mensis
 „ Schabani, Mahometanis & fufis &
 „ ingenti clade affectis. Solutâ verò ob-
 „ sidione, Arabes tot malis fractos Deus
 „ consolari quidem, sed ad breve dum-
 „ taxat tempus, voluit. Quippe vix
 „ quiescere cœperant, quum diffidia
 „ & bella inter ipsos quàm acerrima
 „ exorta sunt, auctore nimirum & du-
 „ ce Regio Administro, qui concitans
 „ inimicitias, Christianorum cum ope,
 „ tum consilio adjutus, factiones & bel-
 „ la fovit. Quo factum, ut *Malacæ*
 „ Princeps *ABU SAIDUS BEN ISMAEL*
 „ sanguine illi conjunctus, ab ejus de-
 „ ficiens fide, imperium usurparit &
 „ Regis insignia, quæ filius inani spe
 „ captus etiam affectavit. Ad hæc ac-
 „ cessit populi *Granatensis* tumultus &
 „ dissensio partium, quæ, omni ratione
 Tom. II.

„ abjectâ, sine lege, sine pudore mi-
 „ scent turbantque omnia, & maxima
 „ quæque audent: ita ut complures
 „ timore perculsi domum sese abdide-
 „ rint. Rex intereà, civium saluti con-
 „ sulturus, profiluit ex arce & hostes
 „ in fugam egit. Quæ acta die 25.
 „ Ramdani, anno 712. Factiosi conti-
 „ nuò ad *ABU SAIDUM*, qui & *ABULVA-*
 „ *LID* dicitur, *Malacæ* Principem, sese
 „ adjunxerunt, ejus animum ad dimi-
 „ candum excientes. Tandem die 27.
 „ feriâ 5. mensis Scheuali ejusdem an-
 „ ni (apud eundem Auctorem alibi
 „ anni 713.) castra ad urbis portas po-
 „ suit. Mox fautores vociferantes ac-
 „ currere, quos statim ultro sequitur
 „ turba popularis. Die ergo 29. feriâ
 „ 7. ejusdem mensis *ABU SAIDUS* à sub-
 „ urbio, quod *Albaizin* (id est *Acci-*
 „ *pitrariorum*) vocant, *Granatam* ingre-
 „ ditur; veterem arcem, quæ *Alham-*
 „ *bram* spectat, primùm, deinde Re-
 „ giam occupat. Quare *NASSERUS*, im-
 „ perio exutus, in urbem *Guadix*, quæ
 „ sibi pactis legibus cesserat, se rece-
 „ pit; ibique, quoad vixit, inter arma
 „ & inducias confedit. (a)

Nn

„ Na-

(a) بعض الاحداث في ايامه نازل علي اول امره طاغية قشتالة الجزيرة الخضراء
 في الحادي والعشرين لصف من عام تسعة وسبعماية واقام عليها الي اخريات شعبان
 من العام المذكور ثم اقلع عنها بعد ظهوره علي جبل الفتح وفوز قراحه به ونازل
 صاحب برجلونه مدينة المربة غرة ربيع الاول من هذا العام واخذ بمخنتقها وتفرقت
 الطبعا علي خراش ووقعت علي جيش المسلمين الناهد اليه وقعة كبيرة واستمرت
 المطاولة الي اخريات شعبان ونفس الله الحصر وفرج الكرب وما كاد اهل الاندلس
 يستنشقون ريح العافية حتي نشا نجم الفتنة ونشأت ريح الخلاف واستفسد ونريد
 الدولة ضماير اهلها واستهدف الي مرعيتها بايثار النصري والصابغية الي العدو واظهروا
 الرئيس صاحب مالقة ابو سعيد بن اسمعيل صنو الغالب باللة والامتسك بما بيده
 والردا لنفسه وقدم ولده الداجيل الي طلب الملك وثار اهل الحضرة يوم الخامس
 والعشرين من رمضان هذا العام واعلن منهم من اعلن بالخلاف ثم خانهم التدرج
 وخبطوا

„ Naturæ ibidem concessit anno ab
 „ Egira 722. ad vespertas feriæ 4. (feriâ
 „ 3.) die 6. mensis Dilcadat, sepultus-
 „ que in Templo maximo. Inde prima
 „ die mensis Dilhagiat ejusdem anni Re-
 „ gis NASSERI corpus Granatam tran-
 „ slatum, ubi in Regio templo coram
 „ Rege & magnâ populi frequentia
 „ justis ritè perfolutis, die 6. mensis Dil-
 „ hagiat, feriâ 5. avito conditur sepul-
 „ cro, inscripto hujusmodi elogio. (a)

„ Hic jacet Rex dignitate excel-
 „ sus, stirpe conspicuus, genere incly-
 „ tus, generosis & piis Regibus pro-
 „ creatus, origine clarus, Princeps in-
 „ comparabilis & ampla cognatione in-
 „ signis, imperio dignus, fortitudine
 „ præstantissimus; Quartus ex Nasserit-
 „ tarum Dynastia Rex, qui Fidei pro-
 „ pugnatore extiterunt acerrimi, mu-
 „ nifici, liberales, ac relictis monu-
 „ mentis splendidissimi: Rex, inquam,
 „ pietate nobilis, proindeque Dei veniâ

„ & misericordiâ dignus, NASSERUS,
 „ cognomento ABILGIUSCHI, filius Re-
 „ gis ABI ABDALLÆ, & nepos Regis
 „ ALGALEBI, Principis excellentissimi &
 „ bellicosissimi, æquitate morumque in-
 „ tegritate commendatissimi: qui Ma-
 „ hometanam Religionem defendit &
 „ idolorum cultum evertit; qui, jactis
 „ Sectæ Mahometanæ fundamentis, pie-
 „ tatem cum illa conjungere studuit.
 „ Hujus delictis ignoscat Deus clemen-
 „ tissimus, ejusque animam cælo in
 „ Sanctorum cætum accipiat. Natus an-
 „ no Egiræ 686. die 24. Ramdani
 „ (Alibi & quidem rectius ex eodem
 „ Auctore, die 26.) feriâ 2. Rex crea-
 „ tus anno 708. die 2. mensis Scheua-
 „ li, feriâ 6. obiit anno 722. feriâ 4.
 „ (Lege feriâ 3.) die 6. (Alibi apud
 „ eundem die 8.) mensis Dilcadat. Laus
 „ Deo vero & per se noto, terra &
 „ omnium in ea existentium heredi ac
 „ heredum optimo. (b)

„ Is-

وخبطوا العشوا ونزل الحشم فلان الناس منهم جديارهم وبرز السلطان الي باب القلعة
 متقدما بالعفة عن الناس وفر الحاسرون علي القناع فلحق بالسلطان ابي الوليد
 بمالقة واستنهضوه الي الحركة وقصد الحضرة واجابهم فاطاعتهم الحصون بطريق
 واحتل خارج غرناطة صبيحة يوم الخميس السابع والعشرين لشوال من العام
 فاجتدره الناس من صايح ومشير بثوبة ومنتطرح بنفسه فدخل البلد من ناحية ربيض
 البياترين واستقر بالقصبة القديما تجاه الحمراء وفي ظهر يوم السبت الناس
 والعشرين من الشهر كان دخوله دار الملك وانفصل السلطان نصر الي مدينة وادي
 اش موفي شرطة من الاستبدا بها وتعيين مال خالص وغير ذلك ورحل واستمرت
 الحال بين حرب ومهادنة الي حين وفاته

(a) توفي ليلة الاربعاء سادس ذي قعدة من عام اثنتين وعشرين وسبع مائة بوادي اش
 ودفن بجامع القصبة منها ثم نقل في اول ذي حجة منه الي الحضرة وبرز السلطان
 والجمع الكثير من الناس وصلي علي سريره بالمصلي العيدي اثر صلاة العصر
 من يوم الخميس السادس من الشهر ووري بتربة جده وعلي قبره

(b) هذا قبر السلطان الرفيع المقدار الكريم البيت العظيم النجار سلالة الملوك

„ ISMAEL BEN PHARAGI BEN NAS-
 „ SERI , aliàs ABULVALID nuncupatus,
 „ Granata Rex , gratiâ fuit corporis,
 „ & aspectu pervenustus ; solertiâ quo-
 „ que , animi candore , modestiâ , fide
 „ atque constantiâ clarissimus , necnon
 „ pudicus in primis & castus ; quippe
 „ qui ab omni tum puerorum , tum
 „ alieni juris fœminarum consuetudine
 „ maximè abhorruerit . Studiosus ma-
 „ gnorum Regum imitator sic vixit,
 „ ut illum sibi , & gloriæ tantummo-
 „ dô vixisse credideris ; totus enim in
 Tom. II

„ venatu , in armorum delectu , atque
 „ in equitatione versabatur . A suis de-
 „ mum adjutus , favente etiam tem-
 „ poris opportunitate , Imperium au-
 „ spicatur gloriosissimum , Rempubli-
 „ cam rectè gerens , & suorum , Dei-
 „ que hostium impetum , furoremque
 „ frangens . Qua in re ita se gessit , ut
 „ suæ familiæ decus & quasi margar-
 „ ita , suæque ætatis simul ornamen-
 „ tum haberetur . (a)

„ Filios habuit quatuor , quorum
 „ natu maximus MOHAMAD , paterni
 Nn 2 „ Re-

الاعلام الاخيار الصريح النسب في صميم الانتصار الملك الاوحد الذي له السلطنة في
 العالي المنار في الملك المنيع الزمار رابع ملوك بني نصر انتصار دين المهدي
 المختار المجاهدين في سبيل الملك الغفار البانزين في رضاه كرايم الاموال
 ونفايس الاعمار المقدس المرحوم ابي الجيوش نصر ابن السلطان الاعلي الهمام
 الاسمي المجاهد الاحمي الملك العادل الطاهر الشمالي ناصر دين الاسلام ومبيد عبدة
 الاصنام الموجد المنصور المقدس المرحوم امير المسلمين ابي عبد الله السلطان
 الجليل الملك الشهير موسى قواعد الملك علي التقوي والرضوان وحافظ كلمة
 الاسلام وناصر دين الايمان الغالب بالله المنصور بفضل الله المقدس المرحوم امير
 المسلمين ابي عبد الله بن نصر تغمد الله برحمته وغفرانه ودواه منائر احسانه
 وكتبه في اهل رضوانه وكان مولده في يوم الاثنين الرابع والعشرين لشهر
 رمضان المعظم عام ستة وثمانين وستماية ووديع يوم الجمعة غرة شوال عام ثمانية
 وسبعماية وتوفي ليلة يوم الاربعة السادس لشهر ذي قعدة عام اثنين وعشرين
 وسبعماية فسبحان الملك الحق المبين وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين
 (a) اسماعيل بن فرج بن نصر امير المسلمين بالاندلس يكنى ابو الوليد حاله كان
 جميل الخلق حسن الروا رجل جد سليم الصدر كثير الحيا صحيح العقول ثبتا في
 الموافق عفيف الانرار ناشيا في حجر الطهارة بعيدا من الصبوة بريدا من المعاقرة
 نشا مشتغلا بشانه مختصا باثيار السلطان منقطعاً الي الصيد مصروف اللذة الي
 استجداة سلاحه وانتقا مراكبه واستفراه جوارحه الي ان اقضي اليه الامر
 ومساعدته الايام وانتقل به الي بيت الملك وقوي في عقبه الذكر فبذل العدل في
 رعيته واجتهد في مدافعة عدو الله وهدوه وسد ذلم تغره فكان غرة في قومه ودررة
 في بيته وحسنة من حسنات دهره

Regni successor; secundus PHARA-
 GIVS, qui fratre MOHAMEDO Rege,
 in exilium pulsus, ac Almeriæ in cu-
 stodiam traditus, interiit anno Egræ
 751: tertius ABULHAGIAGÆVS, qui
 MOHAMADO in regnum successit, Rex
 quidem optimus, idemque felicissi-
 mus; quartus denique & eorum na-
 tu minimus ISMAEL, qui, quoad
 ejus frater vixit, in deterrimo quo-
 dam Africæ præsidio asservatus est. (a)
 „ Sub initium illi à Consiliis fuit
 „ Dux ABU ABDALLA MOHAMAD BEN
 „ ABI ALPHATH NASIR BEN ABRAHIM
 „ Alphahrita, perillustri familia natus:
 „ cui postea datus est comes ABULHAS-
 „ SANUS ALI EBN MASSUD ALMOHARE-
 „ BEVS, civis Granatensis nobilissimus.
 „ At hic invidiâ ardens, Viziratûs mu-
 „ nus & honorem sibi uni asciscere
 „ voluit: quod non multo post, extin-

cto Duce ABU ABDALLA, summâ
 „ cum voluptate assequutus est. (b)
 „ Dum Rex ABULVALIDUS degeret
 „ Malaca, atque etiam ubi Granatam
 „ venit, aliquandiu ab Epistolis usus est
 „ ABU GIAPHARO BEN SAPHUAN, patriâ
 „ Malacitano, & professione Juriscon-
 „ sulto. Exinde ad id muneris sibi dele-
 „ git ABULHASSANUM BEN ALGIAM, vi-
 „ rum divitiis affluentem & eruditione
 „ clarum, qui dignitatem ad illius usque
 „ obitum retinuit. (c)
 „ Præfectus verò Cohortis Regio-
 „ nis Occidentalis (vulgò Algarbiorum)
 „ quam primus instituit Rex ABULVA-
 „ LIDUS, erat OTHMANUS ABU SAIDUS
 „ BEN ABILALI EDRIS BEN ABDELHAC,
 „ vir & prudentiâ & solertiâ inter
 „ suos facile princeps. (d)
 „ Ex Regibus autem, qui eo Re-
 „ ge imperitabant, primus sese offert
 „ OTH-

(a) اولاده تخلف من الولد أربعة اكبرهم محمد ولي عهد والامير من بعده وفرج
 شقيقة التالي له المنصرف عن الاندلس بعد ملك اخيه المتغلب اخيرا في الايالات
 المتوفي معتقلا في المرية عام احد وخمسين وسبعماية ثم امير المسلمين اخوه ابو
 الحجاج اقعده القوم في الملك وابعدهم امدا في السعادة ثم اسمعيل اصغرهم المبتلي
 بالاعتقال المخيف مدة اخيه المستقر بالمغرب

(b) وزير اول امره القايد ابو عبد الله محمد بن ابي الفتح نصير بن ابراهيم
 الفهري وبيت هولا القواد شهير ثم اشترك معه في الوزارة ابا الحسن علي بن
 مسعود المحاربي من اعيان الحضرة وزوي النباغة فجازب رفيقه حمل الخطة ونازع
 لباس الحطوة حتي ذهب باسمها وهلك القايد ابو عبد الله فخلص اليه شربها

(c) كتابه كتب عنه لاول امره بمالقة ثم بطريقه الي غرناطة واياما يسيرة بها
 الفقيه الكاتب ابو جعفر بن صفوان المالقي ثم القي المقادة الي كاتب الدولة
 ابي الحسن بن الحبيب فاضل الحطة وباري القوس واقتصر عليه الي اخر ايامه

(d) مريس جنده العربي ومن اول هذه الدولة نهبت هذه الرقبة واستحقت افرادنا
 اياها الشيخ الهمة لباب قومه وكبير قريته ابو سعيد عثمان بن ابي العلي ادريس
 بن عبد الحق

„ OTHMANUS ABU SAID BEN ABI JO-
 „ SEPH JACOB BEN ABDELHAC (ex Ma-
 „ rinorum stirpe), Africae & Fessae Rex
 „ celeberrimus, qui ad Regem ABU-
 „ LVALIDUM Legatos misit, & ab alijs
 „ exceptit. Tremiffenense similiter Re-
 „ gnum ea tempestate habebat Prin-
 „ cepts ABU HAMU MUSA BEN OTHMAN
 „ BEN FAGMARASEN Zaianita, quem
 „ filius, nomine ABDELRAHMANUS ABU
 „ TASCHPHIN, die 16. Gemadi poste-
 „ rioris, anno Egirae 718. dominandi
 „ cupidus interfecit, Regnumque sibi
 „ vindicavit, quod ad Regis ABULVA-
 „ LIDI obitum & ultra perduxit, qui-
 „ cum is per Legatos commercium
 „ non semel habuit. Caeterum hujus fi-
 „ lius, patre jam mortuo, rerum sum-
 „ mam, minimè suffragante temporum
 „ ratione, obtinere non valuit, nisi
 „ Regis ABULHAGIAGI tempore. (a)

„ Tuneti verò Rex erat ABU IAHLA
 „ ZACHARIA BEN ABILABBAS, vulgò AL-
 „ LAHLANI, ex Haphsitarum Dynastia,
 „ qui Tunetum anno Egirae 711. die

„ 9. Gemadi posterioris KHALEDO Re-
 „ gi, aliàs ABULBACA dicto, eripuit;
 „ cumque captum in vincula con-
 „ jecit, tandemque anno 713. men-
 „ se Scheualo relegavit. ABU IAHLA, re-
 „ bus ex sententia minimè succedenti-
 „ bus, Tripolim se contulit anno 715.
 „ mense Gemado posteriori, relicto in
 „ perpetuum Tuneti Regno, illiusque
 „ regimine Principi ABU ABDALLAE BEN
 „ ABI AMRAN, genero suo.... (b)

„ Ex Christianorum denique Re-
 „ gibus erat Castella Rex, qui incunte
 „ ABULVALIDI regno vivere desuit, HE-
 „ RANDUS nempe SANCHII filius, AL-
 „ PHONSI nepos & HERANDI prone-
 „ pos. Hic HERANDUS postremus Le-
 „ gionis & Castella provincias ad im-
 „ perium adjunxit, Cordubamque, Hi-
 „ spalim, Murciam, Jaen in suam po-
 „ testatem redegit. Idem etiam fuit pro-
 „ nepos Regis ALPHONSI, qui in præ-
 „ lio de Alarcos superatus, in altero
 „ prælio, de las Navas dicto, insignem
 „ retulit victoriam; atque iterum pro-

„ ne-

(a) الملوك علي عهدہ واولا بالمغرب ثم بفاس السلطان الشهير ابو سعيد عثمان ابن
 ابي يوسف يعقوب بن عبد الحق وجرت بينهما المراسلات وتسلمسان الامير ابو حمو
 موسي بن عثمان بن يغمراسن بن نريان ثم توفي فتبلا بامر ولده علي عهدہ سادس
 عشر جمادي الثانية من عام ثمانية عشر وسبع مائة وولي الامر ولده المذكور ابو
 قاشفين عبد الرحمن بن موسي واستمرت ايامه بعد مهلك السلطان المذكور
 واستغرقت ايام ولده الوالي بعده الي ان ملك في صدر ايام السلطان ابي العجاج
 وجرت بينه وبين السلطان ابي الوليد مراسلات ومهادات

(b) ودمينة تونس ابو يحيي نكريا بن ابي العباس بن ابي حفص المدعي
 باللحياني المتوثب بها علي الامير ابي البقا خالد تملك تونس ناسع جمادي
 الاخرة من عام احد عشر وسبعمايةة ودم له الامر واعتقل ابا البقا بعد خلعه ثم
 اغتاله في شهر شوال عام ثلاثة عشر وسبعمايةة ثم رحل عن تونس لما ظهر له من اضطراب
 امره بها وتوجه الي طرابلس في وسط عام خمسة عشر وسبعمايةة واستتابه
 الشيخ ابا عبد الله بن ابي عمران ولم يعد اليها بعد ذلك.....

nepos *SANCHII* Regis , necnon illius
 etiam cui cognomentum *Imperator* ,
 qui genero in filia dotem *Lusitania*
 tradidit. Regnabat quoque eâ
 tempestate in *Andalusia* Orientali
Aragonia Rex *JACOBUS* , *PETRI* filius ,
 & *JACOBI* pronepos , qui *Valentiam*
 subegit. Eo tandem mortuo , sub ex-
 tremâ *ABULVALIDI* Regis tempora , re-
 rum potitus est illius filius *ALPHONSUS* .
Lusitania denique Rex erat *ALPHON-*
SUS DIONYSII filius , *ALPHONSI* nepos &
 pronepos *SANCHII* , & rursus *ALPHON-*
SI , qui Comes de *Boloña* dictus est
 (*Bolonia* scilicet apud Gallos). (a)

Ut res *ABULVALIDI* Regis altiùs
 ac veluti ab origine repetamus , hæc
 in primis attingere libuit. *NASSERO*
 Rege electo , *ABULVALIDUS* quum
 sui fautores animis cecidisse intellexisset ,
 abjecta imperandi spe , ad patris
 opem , per ea tempora *Malaca* ,
Algecira & *Septa* Principis , confugit.
 Hujus verò principatum mox
 vehementer ambire cœpit. Hinc

Granatenfis Regni cupidus , civium
 aliquot operâ in urbem clanculùm
 inducitur ; inde vi expulsus , *Malaca*
 rediit imperii irritus. Quo factum
 est , ut anno ab Egira 708. die
 17. Ramdani pater à *NASSERO* Rege
 desciverit ; filiumque suum *ABULVALIDUM*
Granata Regem renunciaverit. Quare
 hic complura ditionis *Malacæ*
 oppida circumfedit , eaque tandem
 expugnavit. Calendis exinde mensis
 Moharami , anno 712. castra ad
 oppidum , quod vocant *Athocha* ,
 posuit , ubi *NASSERUS* Rex die 13.
 ejusdem mensis cum numerofo exercitu
 armis virisque deletis instructo illi
 occurrit. Verùm prælio superatus ,
 fufis *Granatenfium* copiis , equo
 calcaribus concitato in stagnum ,
 unde boves bibere solent , delapsus
 est. At ex eo discrimine liber tandem
NASSERUS , *Granatam* victus
 ingreditur ; exercitus verò *Malacitanus*
 palam populo urbem *Malacam*
 repetiit. (b)

„ Fœ-

(a) ومن ملوك الروم اولا بقشتالة كان علي عهد وفي الزمن القريب من ولايته
 وفاة الطاغية هرنده ابن شانجه بن الفونش بن هرنده المجتمع له ملك ليون وقشتالة
 وهو المتغلب علي قرطبة واشبيلية ومرسية وجيان بن الهونش الجارية له وعليه وقعة
 الارك والعقاب بن شانجه والمسمي انبريزور وهو الذي افرد صهره نروح بنته بملكي
 جرتقال و من ملوك ارغون بشرق الاندلس الطاغية جايمش بن جيطره بــــــن
 جايمش الذي تغلب علي بلنسية ثم هلك في اخريات ايامه فولي ملك ارغون بعده
 الهونش بن جايمش و جرتقال الهونش بن ذوفيش بن الهنش بن سانجه بــــــن
 الهونش وتسمي اولادونا

(b) بعض الاحداث في جراية امره ولما تصير الامر الي السلطان نصر تنازعت بطانته
 وسات سيرة ملكه فاغري بالرئيس الكبير صاحب مالقة وبيده الجزيرة وسبتة
 وتغلب عليه كثير من التصرف فيما بينه ثم لما وصل الي الحضرة مباحيا داخله بعضهم
 مخدرا ومشيرا بالامتناع فاستعجل الانصراف واظهر الاستبداد في رمضان في سابع
 عشر منه وقام رسم الملك بولده السلطان ابو الوليد هذا وتحرك فنزل الحصون
 المجاورة

„ Fœdus eodem anno 712. mense
 „ Rabio priori inter utrumque initur,
 „ quod sequenti anno mense Ramda-
 „ no solvitur ob *Granata* optimatum
 „ à Rege *NASSERO* defectionem, qui
 „ de fratris regno expulsi injuria con-
 „ questi, *MOHAMADUM BEN ALHAGI*
 „ Vizirum, Christianorum amicum Ara-
 „ bumque proditorem, sibi traden-
 „ dum postulant; inde iter *Malacam*
 „ festinant ad Regem *ABULVALIDUM*.
 „ Hic urbe *Loxa*, nostrâ olim patriâ,
 „ occupatâ, *Granatam* rursus oppu-
 „ gnat, exercitumque *Granatensem* ob-
 „ vium, fufum fugatumque ad urbis
 „ mœnia insequitur. Prodeunt Incolæ
 „ suburbii, cui nomen *Albaycin*, ty-
 „ rannidem atque imperii vicissitudines
 „ agrè ferentes, opemque imploran-
 „ tes. Cives intereâ Regi *ABULVALIDO*
 „ in urbem irumpenti portas occlu-
 „ dunt. *NASSERUS* Rex comœatu in-

„ structus unâ cum suis domesticis &
 „ familiaribus in *Alhambra* arcem sese
 „ recepit. Rex autem *ABULVALIDUS* jam
 „ victor, vetustum *Granata* castellum
 „ obtinet: ubi, missâ ad cives *Grana-*
 „ *tenses* syngrophâ, transfugas, datâ
 „ veniâ, benignus excipit. Hinc ob-
 „ fessi, quum hostem validissimo præ-
 „ sidio munitum annonâ opibusque
 „ affluere cognovissent, rebus despe-
 „ ratis, ad pactionem venerunt. Quæ
 „ ubi confecta, ad urbem *Guadix*,
 „ Regi *NASSERO* permutationis nomi-
 „ ne concessam, unâ cum eodem &
 „ pecuniâ & rebus quibusque ad iter
 „ necessariis instructi, profecti sunt:
 „ quod accidit die 28. Scheuali, anno
 „ ab Egira 713. Ibi tandem supre-
 „ mum diem obiit. Quamobrem *ABU-*
 „ *LVALIDO*, imperii summâ ipsi traditâ,
 „ omnes, nemine penitus diffidente,
 „ sive amici, sive inimici parent. (a)
 „ *ABU-*

المجاورة لمالقة واستولي عليها وفي اول شهر محرم من عام اثني عشر وسبعماية
 تحرك فنزل بقريظة العطشا من مرجها وجرى السلطان نصر اليه في جيش اخشن
 مستحجاده العدة وافر الرجال فكان اللقاء ثالث عشر الشهر وجرت علي الجيش
 الغرناطي الهزيمة وكبا بالسلطان نصر الفرس في سقي لبعض الفدن فنحى بعد
 لاي ودخل البلد مغلولا وانصرف الجيش المالقي ظاهرا الي بلده

(a) ثم وقعت المهادنة في ربيع الاول من هذا العام وعادت الفتنة جزعة في العام
 بعده وكانت في رمضان منه ثورة الاشياخ بغرناطة ودعاهم بخلعان الساطان
 ودعوة مخلوعة المعتقل طالبين منه اسلام وزيره خلع الروم المتمم علي الاسلام
 محمد بن الحج ثم لحق الاشياخ المذكورون بمالقة وكان الحركة الثانية
 الي غرناطة واحتل السلطان ابي الوليد ببلدنا لوشه سرار شوال فتملكها ثم قصد
 غرناطة فبرهن اليه جيشها وابلي في الدفاع فولوا منهزمين وتبعهم الي سور المدينة
 وجرى اهل رضى البيانين كل يشير مسترعيا مستعد ما اعلانا بسو الجوار وملال
 الايلات وبودر غلق باب المدينة ولجا السلطان الي معقل الحمرا ودخله باهله
 وذخيرة وخاصة ونزل الدابل بالقصبة القرما ينفذ الصكوك ويتلقى الشارد ويرفع
 العفو وضعفت دساير المحصورين وفشلوا علي وجود الطعمة وتمكن المنعة ووفور
 المال

» *ABULUALIDI REGIS*
 » *acutè dicta & præclare*
 » *facta.*

» In Hæreticos severè animadver-
 » tit; Mahometanæ gentis commodis,
 » & saluti consulere conatur. Quum
 » aliquando coram eo de Religionis
 » principiis sermo incidisset; Religio-
 » nis, inquit, *principia mihi sunt fi-*
 » *des in unum Deum omnipotentem,*
 » *atque hic*, gladium scilicet demon-
 » strans. Acerrimus præterea legum
 » extitit exactor atque custos, interdi-
 » cto ubique vini usu. *Judaos* quoque
 » clientes tesseram, qua à cæteris Ma-
 » hometanis distingui possent, gerere,
 » simulque tributum à Legislatore jure
 » scripto traditoque constitutum jus-
 » fit persolvere. (a)

» Ejusdem Prælia ab ipso commissa
 » recensentur. Anno Egiræ 716. Chri-
 » stianorum Rex, comite & duce *NAS-*
 » *SERO* Rege dudum expulso, turpem
 » atque insignem cladem apud *Phortu-*
 » *nam* fluvium intulit *ABULUALIDO* Re-
 » gi. Captis postea oppidis *Cambil, Ma-*
 » *tamenos, Begigia* (hodie *Behijar*), *Ti-*
 » *scar*, perinde ac *Rute*, jam victor, vi-
 » ribusque fretus iter ad *Granatam* op-
 » pugnandam parat. Campum ab eâ
 » parasangas III. diffitum occupat, ubi
 » acriter utrinque pugnatum. Christia-
 » nis tandem partim interfectis, par-
 » tim captis, Mahometani locupleti
 » præda potiti sunt. Felicissima hujus-
 » modi victoria, cujus fama quovis lo-
 » corum pervasit, duce *MAHRAGIANO*
 » natione *Persa*, reportata. (b)

» Anno verò Egiræ 724. Christi

» 1323.

المال فالتمسوا لانفسهم ولسلطانهم فهرا وذلوا منتقلين الي وادي اش في سبيل
 العوض بمال معروف ونخيرة فتم ذلك وخرج السلطان ليلة الثامن والعشرين لشوال
 عام ثلاثة عشر وسبعماية الي ان هلك وخلي للسلطان ابي الوليد الجو وصرفت اليه
 المقادة والطاعة القاصي والدان ولم يختلفن عليه اثنان

(a) مناقبه اشتد علي اهل البدع وقصر الحوض علي ماتنظر اليه الملة ولقد تذكروا
 يوما بين يديه اصول الدين فقال اصول الدين عندي قل هو الله احد السورة واشار
 الي سيفه واشتد في اقامة الحدود وارقة المسكرات واخذ يهود الزمة بالتمسك
 بجملة وشارة تميزهم وليوفوا حقهم من المعاملة النبي امر بها الشارع في الطرغ
 والخطاب

(b) جهاده وبعض الاحداث في مدته فجرت عليه الهزيمة الشنيعة بوادي فرتونة اوقع
 بجيشه الطاغية بمظاهرة السلطان المخلوع ففشي في الاعلام يومين القتل في صفر
 من عام ستة عشر وسبعماية وظهر العدو بعد هاعلي حصن قنبييل وحصن متمانس
 وحصن بجيج وحصن طشكر وحصن روط ثم صرفت المطامع عزيمة الي الحضرة
 فقصد مرجها وكفى الله عاديتة وقمعة وضمير الاسلام عليه مع الهزيمة العظمي بالمرج
 علي جريد منها واستولي علي محلاته النهب وعلي فرسانه ورجاله القتل والاسرار
 وطار الذكر وذاب السعد وذلك بمرافقة المهرجان العجمي

بالمال

1323. mense Ragebo *ABULVALIDUS*
 Rex, *Bazam* expugnaturus, exer-
 citum in hostem eduxit, castraque
 ad urbis fauces metatus, se vallo, fos-
 sâ, aggere in propiori monte muni-
 vit. Mox bello indicto, initium ob-
 fidii fecit. Disploditur tormentum ma-
 jus; globus igneus ope naphthæ re-
 pentè ingenti cum strepitu excussus
 fulminis more arcem impetit quatit-
 que. Quo factum ut cives die 24.
 ejusdem mensis *ABULVALIDO* parere
 coacti sint. (a)

Anno tandem 725. die 10. Ra-
 gebi alteram expeditionem molitur;
 militibusque exercitatis, ac benè mul-
 tis bellicis tormentis instructus, *Mar-*
tos urbem & magnitudine & uber-
 tate conspicuam adoritur, non sine
 ingenti civium perturbatione & me-
 tu. Milites autem qui sequenti die in
Tom. II.

bellum coacti erant, vineta, arborum-
 que varietatem intuentes, ea om-
 nia diripere. Quapropter convolant
 custodes, fit pugna, calent animi: ii
 denique timore perculsi, terga ver-
 tunt; milites verò insequuntur, mœ-
 nia scandunt, Regemque ad arma
 vocant, victoriam nunciantes. Con-
 tinuò advenit, arcem expugnat; mox
 oppido, quò Christiani confugerant,
 potitur. Sævitur tumultus, turbaque in
 omnes irruit, nullo sexûs, aut æta-
 tis discrimine. Mors ubique & pavor:
 atque eò progressa res, ut multo ma-
 ne cadaveribus humo tectis, Maho-
 metanorum præcones turres ascende-
 rint, preces suo more indicturi. Hinc
 Rex *ABULVALIDUS* victor *Granatam*
 repetit, quam ingreditur die 24.
 ejusdem mensis. (b)

Ubi autem ex oppido *Martos*
 Oo re-

(a) وفي رجب من عام أربعة وعشرين وسبعماية عمل الحركة الي بلاد العـدو
 ونازل اشكر الشحي المعترض في حلق مدينة بسطة فاخذ بمخنقتها ونشر الحرب
 عليها ورمي بالالة العظمي المتخذة بالنفط كرة محماة طافت البرج من معقلها
 فعادت ثمان الصواعق السماوية فنزل اهلها قسرا علي حكمه للرابع والعشرين من
 الشهر

(d) وفي العاشر لرجب من عام خمسة وعشرين وسبعماية تحرك الي الغـزو
 واستكثر من الالة واحتشاد المطوعة وقصد مدينة مرتش العظيمة الساحة الطيبة
 البقعة فاضطرب بها المحلات وكان قصده اجمام الناس الي الغد فصرفن الحشود
 وجوهها الي ما بها من بحر الكروم وادواح الاشجار فامعنوا في افسادها ودمروا
 حاميتها فناشرت الناس القتال فحميت النفوس واربد منع الناس فاعى امرهم وسال
 منهم البحر فتعلقوا بالاسوار وقيل للسلطان بادر الركوب فقد دخل البلد فركب
 ووقى بايزايد فدخل الحصن عنوة واعتصم اهله بالقصبة فدخلت ايضا عنوة وانطلقت
 ايدي الغوغا علي من بها من ذكر وانثي صغيرا وكبيرا فسات القتلة وقبحت
 الاحرودة ورفعت من الغد اكام من الجثت صعدت نراها الموننون وقضى الي
 غرناطة بنصر لاكفا له وكان دخوله من هذه الغزاة في الرابع والعشرين لرجب
 المذكور

„ redx pervenit; *MOHAMETUM ISMAE-*
 „ *LIS* filium fratremque suum patru-
 „ lem, *Algecira* Principem, de crimine
 „ defectionis & contumaciæ arguit,
 „ minis insuper additis exagitat. *MOHA-*
 „ *METUS* idcirco ultionis avidus, nefa-
 „ riam illi mortem molitur. Consilium
 „ amicis & famulis aperit; tempus &
 „ locum idoneum diligentius captat.
 „ Itaque feriâ 2. die ab illius adven-
 „ tu tertiâ, ad ostium domûs Regiæ
 „ in *ABULVALIDUM* famulis hinc inde
 „ comitatum audacter irruit; tum stri-
 „ cto pugione, vulnera ei tria intulit,
 „ quorum gravissimum claviculæ in-
 „ flictum. Ille effuso sanguine vocife-
 „ rans, procubuit exanimis. Ad hæc
 „ Vizirus advolat, quem etiam con-
 „ spirati scelerisque auctores eodem
 „ mortis genere affecerunt. Tumultus
 „ exinde sequitur & armorum strepi-
 „ tus, simulque partium furor ac cæ-
 „ des. (a)

„ Quum *ABULVALIDUS* ex vulneri-
 „ bus interiisset; altero die, feriâ ni-
 „ mirum 3. in Regiæ domûs hortis
 „ sepulcro perhonorifico, pulcra mira-
 „ que arte elaborato donatus est, hoc

„ superaddito epitaphio in marmor ele-
 „ ganter inciso. (b)

„ *Hic jacet Rex Martyr, Urbium*
 „ *Expugnator, Sectæ Mahometanae De-*
 „ *fensor, Regni Nasseritici Reparator,*
 „ *Antistes justus, & Princeps magna-*
 „ *nimus atque strenuus; par belli domi-*
 „ *que Heros, genere & morum integri-*
 „ *tate clarus, imperio felicissimus, &*
 „ *fortitudine nemini secundus; Belli Gla-*
 „ *dus, Regni Lux, Dux accerrimus, &*
 „ *Fidei Propugnator insignis, pio religio-*
 „ *soque animo in Deum præditus; Dei*
 „ *& Religionis Athleta, multiplici vi-*
 „ *ctoria inclytus; Mahometanorum Im-*
 „ *perator ISMAEL, videlicet ABULVALI-*
 „ *DUS, Filius Principis ABU SAID PHARA-*
 „ *GI, & Regis ALGALEBI Pronepos, ac*
 „ *dignus Successor: Vir egregia ac præ-*
 „ *clara indolis, gloria famaue monu-*
 „ *mentis spectatissimus, stirpis Nasserit-*
 „ *tica Princeps maximus & Columen,*
 „ *cujus præclarissimam animam in nu-*
 „ *merum Beatorum Deus adscribat,*
 „ *suavique suæ misericordiæ rore asper-*
 „ *gat; veniam quoque & certaminis*
 „ *mercedem illi largiatur amplissimam*
 „ *stato Retributionis tempore. Hic post-*
 „ *quam*

(a) وفاة ولما وصل من مرثش نغم علي ابن عمه محمد بن اسماعيل المعروف
 بصاحب الجزيرة امرا تفرعه عليه وبالغ في تانيبه وتوعده فيما اثار حفيظته فاقدم
 عليه بالفتكة الشنعة التي ارتكبها منه بباب قصره بين عبيده غدوة يوم الاثنين
 الثالث من يوم دخوله بعد ان عاهد في الامر جملة من القرابة والخدام ووثب به
 وهو مجتار بين السماطين من ناسة الي مجلس القعود الخاص فاعتنقه وسل خنجر
 ملصقا بزراعة فاصابه بجراحات ثلاث احدها من علي ترقوته فرت ودجه فحس
 صريعا وصاح فكر الوزير فعمته سيوف الحاضرين من اصحاب الفاتك ووقع
 الرجة وسلت السيوف وتشاعل كل بمن يلية

(b) ودفن غلس ليلة يوم الثلاثاء ثاني يوم وفاته جروضة الجنان من قصره وتنهوي في
 احتفال قبره نقشا وتنجيدا واحكاما وحليا وتمودها بما يشد عن الوصف وكتب
 علي قبره نقشا في الرخام

„quàm virtuti & gloria vixerat, de-
 „cessit victor, in calum migraturus,
 „ubi quod meruit pramium adeptus
 „est. Insidiis interfectus, gloriose ac
 „feliciter vivere desit. Natus anno
 „Egiræ 677. prima luce diei 17.
 „Scheuali, feriâ 6. Rex creatus an-
 „no 713. die 27. Scheuali, feriâ 5.
 „diem verò obiit anno 725. feriâ 2.
 „die 26. mensis ragebi. Laus Regi
 „vero, qui Rebus omnibus deficienti-
 „bus unus permanet. (a)

In altera Sepulcri parte legitur
 Carmen versibus XIV. constans. Plu-
 res præterea versus in ejusdem Regis
 laudem eodem codice occurrunt.

„MOHAMAD BEN ISMAEL BEN PHA-
 „RAGI BEN ISMAEL BEN JOSEPH ABU
 „ABDALLA nuncupatus, Hispaniæ Rex,
 Tom. II.

„qui Regum vel præstantissimorum
 „nulli solertiâ, viribus, munificentia,
 „oris formâ, atque morum elegantiâ
 „est posthabendus. Ad hæc accessere
 „ingenium mite, humanitas, sermo
 „facilis & acer, summaque liberalitas.
 „Robore sic valuit, ut ejus fortitudo
 „in proverbium abierit. Eques erat in-
 „signis, sed planè temerarius; quippe
 „in hippodromo, nulla habita dif-
 „criminis ratione, effusis equi habenis
 „concitatissimo ac rapidissimo cursu,
 „qui oculorum aciem facilè fugeret,
 „per acclivia & declivia juxta loca fere-
 „batur; idque maximè, si gloriâ, vel
 „certamine accenderetur. Qua quidem
 „equitandi arte peritissimus, omnibus
 „palmam eripuit. Venatum in amo-
 „re ac deliciis habebat. In nobilium
 Oo 2 „equo-

(a) هذا قبر السلطان الشهيد فتاح الامصار وناصر ملّة المصطفى المختار ومحبي
 سبيل ابايه الانصار الامام العادل الهمام الباسل صاحب الحرب والمحراب الطاهر الانساب
 والاثواب اسعد الملوك دولة وامضاهم في ذات الله صولة سيف الجهاد وسور البلاد الحسام
 المسلول في نصرة الايمان والفواد المعمور بخشية الرحمان المجاهد في سبيل الله
 المنصور بفضل الله امير المسلمين ابي الوليد اسماعيل ابن الهمام الاعلي الطاهر
 الذات والنجار الكريم الماثر الاثار كبير الامامة النصرية وعماد الدولة الغالبية
 المقدس المرحوم ابي سعيد فرج ابن علم الاعلام وحامي حمي الاسلام صنو الامام
 الغالب وظهيرة العلي المراتب المقدس المرحوم ابي الوليد اسماعيل بن نصر قدس
 الله روحه الطيب وافاض عليه غيث رحمة الطيبة وثقة بالجهاد والشهادة وحبها
 بالحسني والزيادة وصنع له في فتح البلاد وقتل كبار ملوك الاعاد ما يجده من خورا يوم
 التناد الي ان قضى الله بحضور اجله فختتم عمره بخير عمله وقبضه الي ما اعد له من
 كرامته وثوابه وغبار الجهاد طي اثوابه فاستشهد رحمه الله غدرة اثبتت له في
 الشهرا من الملوك قدما ورفعت له في اعلام السعادة علمائة ولد رضي الله عنه في
 الساعة المباركة بين يدي الصبح من يوم الجمعة السابع عشر شهر شوال عام سبعة
 وسبعين وستماية وبيع يوم الخميس السابع وعشرين لشوال عام ثلاثة عشر وسبعماية
 واستشهد في يوم الاثنين السادس والعشرين لشهر رجب الفرد عام خمسة وعشرين
 وسبعماية فسمي الملك الحق الباقي بعد فا الخلق

„ equorum stirpe dignoscenda versatiffimus ; nec minus Poëtices , quàm
 „ Rhetorices extitit studiosissimus. Eodem ipso , quo suus pater obiit , die
 „ Rex salutatus est , die nempe 27. (paulò superius est die 26. rectè
 „ utrumque , si feriam 2. spectes) , Ragebi feriâ 2. anno 725. qui quum
 „ per aetatem rebus administrandis impar esset ; tutoris nomine præfuit Vizirus.
 „ Aetate jam adultus , sui que juris factus , Vizirum qui imperium
 „ usurpaverat , eo fortiter dejecit. Quo factum est ut eum omnes honore
 „ metuque prosequerentur : Princeps imperio dignus , isque tum bellicam
 „ ob virtutem , tum ob artis equestris peritiam meritò celebrandus. (a)
 „ Quum MOHAMAD Rex Cabram , urbem nobilem , Mahometanis Christianisque
 „ impensius celebratam , expugnasset , gratulabundi ad eum accessimus. Tum ille laudem averfatus ,
 „ cur inquit , mihi gratulamini ; per-

„ inde ac si in Lyceo Hispalensi illum magnæ sapientiæ Regem lati invenissetis ? Sententia nobis arrisit , placuitque illius in litteras amor atque studium : cui incredibilem etiam animi fortitudinem postea adjecit. Etenim quum urbem *Baenam* manu equitum parva se aggressurum jurando dixisset ; temeritatem admirantibus cunctis , reluctantibus etiam clamitantibusque , illam magno impetu aggressus est. Illi instructa hostium acies occurrit , quos ad urbis usque portas acriter propulso , fugavit. Quum autem Rex per id temporis hastam pretiosis lapidibus ornatam in Christianum quendam contorsisset ; eaque percussus homo , ex vulnere claudicans urbem petere contenderet , suos hastam , quam infelix raptabat , evellere prohibuit ; tum *finite eum* , inquit *vulneri suo , si forte vixerit , haste pretio mederi.* (b)

EFUS

(a) محمد بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن يوسف يكنى ابا عبد الله امير المسلمين بالاندلس حاله كان معدودا في نبلا الملوك صرامة وعزّة وشهامة جمالا وخصلا عذب الشمائل حلو البقا لوزعيا هشيا سخيا المثل المضروب في الشجاعة المقتحمة حد التهور جلس ظهور الخيل افرس من جال علي صهوة لا تقع العين وان قصت الميادين علي ادرب بركض الجياد منه مغرما بالصيد عارفا بسماة الشفار وشيأة الخيل يحب الادب ويرتاح الي الشعر اخذت له البايعة يوم مهلك ابيه يوم الاثنين السابع والعشرين لرجب عام خمسة وعشرين وسبع مائة وناله الحج واشتملت عليه الكفالة الي ان شد وظهر وشب الطوق وفتك جونديرة المتغلب علي ملكه وهو غلام لم يقبل خده فهيب شباه ورهبت سطوته وجرى لمباشرة الميادين وارتياد المطارد واجتلا الوجوه فكان ملا العيون والصدور

(b) همتة لمانارل مدينة قبرة ودخلها عنوة وهي ماهي عند المسلمين والتصاري من الشهرة والجلالة بادرنا فهنيه بما تسنني له فروي عنا وجهه قايدلا ومازا تهنوني به كاذكم رايتم ملك الكفرقة الكزا يعني العلم الكبير في منار اشبيلية فعجبنا

من

EJUS PRÆLIA.

„ CASUS MEMORANDI.

„ Rex constitutus, statim *Casares*
 „ urbem circumfedit, ejusque mœnia di-
 „ ruit; eamque haud dubiè cepisset, nisi
 „ oppugnationem distulisset. Inde pluri-
 „ bus oppidis subactis, discessit. *Cabram*
 „ præterea expugnavit, fuso delectoque
 „ hoste, qui extra urbem tentoria fi-
 „ xerat. Nec minorem fanè in *Gibral-*
 „ *taris* expugnatione animi fortitudi-
 „ nem, & rei militaris peritiam exhi-
 „ buit; siquidem hostis impetu fracto,
 „ everfisque machinarum bellicarum vi
 „ mœnibus, urbem tandem Victor ad
 „ deditorem coegit. Ex illo Mahome-
 „ tani caput superbiùs extulere. (a)

„ *OTHMANUS BEN ABULOLO*, sum-
 „ mus Regiæ militiæ Dux, quem in-
 „ ter & *MOHAMAD BEN AHMAD BEN*
 „ *ALMAHRUC* Regis Vizirum exorta est
 „ ingens dissensio, Mahometanis pro-
 „ fectò calamitosa, idque anno Egiræ
 „ 727. jam ineunte, iratus ab Hispanis
 „ ad Africanos desciscere statuit. Dum-
 „ que iter per *Granatensem* agrum
 „ ageret, ad oppidum *Andarax* diver-
 „ tit, cujus incolæ, ut & aliorum lo-
 „ corum adjacentium populi, statim illi
 „ paruere. Hinc malis ingravescenti-
 „ bus, discordia passim increbuit in-
 „ valuitque. (b)

„ *OTHMANUS* interea *MOHAMELUM*
 „ *BEN*

من بعد همتة ومرمي امله بن الشجاعة اقسام ان يغز علي مدينة بيبانه في عـ
 بسيرة من الفرسان فوق البهت وتوقع الفاقرة لغرب الصريخ ومنعة الحـ
 وكثرة الحامية ووفور الفرسان وهجم عليها فانتهى الي بابها وحمل علي اضعاـ
 من الحامية فالجهم الي المدينة ورمي يومئذ احد النصاري بمنزراق محليـ
 السنان رفيع القيمة فاثبتته وتخالص الطعين يريد الباب فمنع من الاجهانر عليـ
 وانزاع الرمح الذي كان يجره خلفه وقال اتركوه يعالج به جرحه ان اخطاطـ
 المنية بن

(a) جهاده نازل حصن قشرة لاول امره وهزم هوره وكاد يتغلب عليه لولا مـ
 دخله فارتحل وقد دوح الصنق ونازل قبرة وافتتحها وهزم جيش العدو الذي بيـ
 محلته بظاهاها وتخلص جبل الفتح وهي اعظم مناقبه وقد نزل الطاغية واناخ عليه
 فكله وهزم بالمجانيق اسواره فداهري الطاغية واستنزل عزمه وتناحقه الي ان
 صرفه عنه ففانرت به قراح الاسلام بن

(b) بعض الاحداث وفي شهر محرم من عام سبعة وعشرين وسبعماية نشـ
 الوحشة بين وزيره محمد بن احمد بن المحروق وبين شيخ الغزاة عثمان بن ابي
 العلي فصبت علي المسلمين شرور فتنة عظم فيهم اثرها فخرج مغاضبا وسيـ
 الانصراف عن الاندلس ولحق بساحل المدينة بن ثم داخل اهل حصن اندراش فدخل
 في طاعة واستضاف اليه مايجاوره فاعضل الدرا وعامت مسا المحنة بن

„ *BEN PHARAGI BEN ISMAEL*, *Granata*
 „ Regis patrum, qui per ea tempora
 „ in urbe *Tremiffeno* versabatur, ac-
 „ cerfitum, mente Sapharo ejusdem an-
 „ ni jam labente, Regem salutavit. Is
 „ varia bella pari Marte cum Rege
 „ *Granata* gessit. Christianorum Rex,
 „ cui discordia ad prælium idonea visa
 „ est occasio, munitissima urbis *Verae*
 „ confinia sub initium mensis Schaba-
 „ ni obsedit: quæ tandem pluribus
 „ cum oppidis hinc inde conterminis
 „ occupavit. Damnum damno cumu-
 „ latur, atque in dies magis magisque
 „ ingravescit. Nam eodem anno urbes
 „ *Ronda & Marbella* in Regis Africae
 „ potestatem etiam venire. *OTHMANUS*
 „ iis minimè contentus, anno Egræ
 „ 732. die 24. mensis Dilhagiat, con-
 „ scripto exercitu, ad expugnandam
 „ urbem *Gibraltar* (quam vocant etiam
 „ *Gibel Alphath*) unâ cum Rege *MO-*
 „ *HAMETO BEN PHARAGI* profectus est.
 „ In auxilium ejus venit Africae Rex
 „ *ABULHASSANUS ALI BEN OTHMAN BEN*
 „ *JACOB BEN ABDELHAC*, qui summo

„ cum honore excipitur. Urbem obsi-
 „ dione premunt. Illorum copiis *Gra-*
 „ *nata* Rex, reconciliata pace, sese
 „ adjunxit. Quæ tandem urbs auspice
 „ & favente Deo capta est anno Egræ
 „ 733. Christi 1332. feriâ 3. die 12.
 „ mensis Dilhagiat. (a)

„ Ex illius Viziris fuit *ABULHAS-*
 „ *SANUS BEN MASSUD*, cui postea in
 „ Viziratus dignitatem successit *MOHA-*
 „ *MAD BEN AHMAD BEN ALMAHRUC*
 „ *Granatensis*, anno videlicet 725. die
 „ 3. Ramdani, feriâ 2. qui & ejusdem
 „ Regis jussu anno 729. die 2. *Mo-*
 „ *harami* interfectus est. Hinc dele-
 „ ctus Dux nobilissimus *MOHAMAD*
 „ *BEN ABI BAKER BEN IAHA BEN*
 „ *MUL*, vulgò *ALKIGIATHI* (ex urbe
 „ *Quesada*). Eo Legato ad urbem *Al-*
 „ *geciras* misso, die 17. mensis Ra-
 „ gebi, & quidem ejusdem anni, fu-
 „ premam Viziri dignitatem cum Cu-
 „ biculi & Aulae Præfectura obtinuit
 „ *ABULNAIMUS RADHUAN*, Regis *ISMAE-*
 „ *LIS* libertus, Dux & pietate & re-
 „ rum copiâ insignis: quod munus
 „ ad

(a) واستلحق المذكور عم السلطان من ذلمسان محمد بن فرج بن اسماعيل
 فلحق به وقام بدعوة في اخريات صفر من عام سبعة وعشرين وسبعماية وكانت
 بينهم وبين جيش الحضرة وقعات تناصفوا فيها الظفر واغتنم الطاغية فتنة المسلمين
 فخرج غرة شعبان من العام ونازل ثغر وبرة ركاب الجهاد فتغلب عليه واستولى
 علي جملة الحصون التي تجاوره فاتسع نطاق الضر واعيادا الشر وصرفت الي
 السلطان ملك المغرب في اخريات العام ردة ومربلة واجلت الحال عن مهانة
 عثمان بن ابي العلي وصرف المستدعي لدعوة الي العروة للجهاد في الراجح
 والعشرين من شهر ذي حجة عام اثنين وثلاثين وسبعماية ووفد علي ملك
 السلطان ابي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق مستصرخا اياه فاعظم
 وفادته واكرم نزله واصحبه الي الاندلس ونازل علي اثره جبل الفتح ثم استقاده
 الله بلحاق السلطان ومحاولة امره ففتحه فتم ذلك يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر
 ذي حجة عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية

„ ad extrema Regis MOHAMEI tem-
 „ pora obiisse fertur. (a)

„ Ab Epistolis verò & Libellis fuit
 „ ABULHASSANUS BEN ALGIAB, vir in
 „ primis eruditione & doctrinâ con-
 „ spicuus. Inter Judices autem ABU BA-
 „ KERUS IAHA BEN MASSUD ALMOHA-
 „ REBI: qui dum anno Egiræ 727. le-
 „ gatione apud Africæ Regem funge-
 „ retur, in urbe Sala (LEONI AFRICA-
 „ NO Sela) mortuus est. In cuius lo-
 „ cum suffectus filius ABU IAHA MAS-
 „ SUD, hunc magistratum gessit ad de-
 „ cimum usque diem Moharami an-
 „ ni 731. Successit postea ABU ABD-
 „ ALLA MOHAMAD BEN IAHA BEN BA-
 „ KER ALASCHARI, Malacitanus, vir
 „ Jurisprudentiâ clarus & Judex fanè

„ incomparabilis, qui eo munere, Re-
 „ ge MOHAMEI, ejusdemque fratre
 „ etiam regnante, ad tempus functus
 „ est. (b)

„ Reges qui ejus atate imperabant.
 „ Africæ in primis Rex erat OTHMA-
 „ NUS ABU SAID BEN JACOB BEN ABD-
 „ ELHAC, qui supremum obiit diem
 „ anno Egiræ 731. feriâ 6. die 25.
 „ mensis Dilcadat. Regnum postea ade-
 „ ptus est ejus filius ABULHASSANUS ALI,
 „ insignis paternæ gloriæ & virtutis,
 „ rerumque præclare gestarum æmula-
 „ tor; invicti quoque animi & con-
 „ stantiæ incredibilis vir, qui nec la-
 „ bore fractus est, nec otio elanguit.
 „ Hic regnum ad Regis JOSEPHI tem-
 „ pora usque perduxit. (c)

„ Re-

(a) وزيراً دولته أبو الحسن بن مسعود ومحمد بن أحمد بن المحروق من أهل
 غرناطة الذي تولي للوزارة بعده يوم الاثنين غرة شهر رمضان عام خمسة وعشرين
 وسبعماية ثم قتل بامر ثاني يوم من محرم فاتح عام تسعة وعشرين
 وسبعماية ثم وزير له القايد محمد بن أبي بكر بن يحيى بن مول المعروف
 بالقيطاطي من وجوه الدولة الي السابع عشر من شهر رجب من العام ثم صرف
 الي العروة واقام رسم الوزارة والحجابة والنيابة مولى ابيه القايد أبو النعيم رضوان
 الشهر الديانة والسعادة الي اخر مرتة

(b) كتابه الامام العلامة أبو الحسن بن الجياب الي اخر مرتة قضاة
 الشيخ الفقيه أبي بكر يحيى بن مسعود المحاربي الي عام سبعة وعشرين
 وسبعماية فتوجه رسولا الي ملك المغرب وادركته الوفاة بمدينة سلا وتخلق ولده
 ابا يحيى مسعودا نايبا عنه فاستمرت له الاحكام الي يوم عاشورا من عام احد
 وثلاثين وسبعماية وتولي الاحكام الشرعية الامام العلم الاوحد خاتمة الفقهاء وصدر
 القضاء علما ابو عبد الله محمد بن يحيى بن بكر الاشعري المالقي فاستمر له
 الحكم الي تمام مرتة وصدرا من ايام اخيه بعده

(c) من كان علي عهده من الملوك واولا من المغرب السلطان ابو سعيد عثمان بن
 يعقوب بن عبد الحق الي ان توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي
 قعدة عام احد وثلاثين وسبعماية ثم صار الامر الي ولده السلطان المفتي بسنة في
 المجد

„ Regni autem *Tremiffeni* gubernacula tenebat Princeps *ABDELRAHMANUS BEN MUSA ABU TASCHPHIN*, „ ædificiorum extructione, agrorum cultu, & liberalitate spectatissimus. Vixit ad Regis *Granatae JOSEPHI* usque regnum. *Tuneti* verò Rex erat *ABU IAHA*, magnum suæ gentis robur & virtus. Is Rege etiam *JOSEPHO*, „ *MOHAMETI* fratre & successore, per diu imperavit. (a)

„ Ex Regibus tandem *Christianorum* primus sese offert *ALPHONSUS*, „ *HERANDI* filius & *SANCHII* nepos, „ *Castella* Rex qui regnavit ad extrema usque Regis *JOSEPHI* tempora. „ Rex verò *Aragoniae ALPHONSUS*, „ *FACOBI* filius, „ *ALPHONSI* nepos, qui, „ Rege etiam *JOSEPHO*, imperavit. (b)

„ *MAHOMETUS* igitur *Granatae* Rex, „ cujus ductu & solertiâ *Gibraltar* „ urbs ab obsidione soluta est die „ altero ab *Christianorum* Regis discessu, „ feriâ nempe 4. die 13. mensis „ *Dilhagiat*, mare trajicere statuit. Id „ ubi animadvertere *Africani* exercitûs „ *Duces*, illi ob linguam ejus licentio- „ rem & infranem sibi parum cauto,

„ proindeque contemptissimo infesti, „ com meatu modico & levi armatura „ instructi, ulterius montis latus obtinent, „ itinera infidentes. De ejus adventu per „ speculatores admoniti, illum mulo „ vectum, nec opinantem adorti sunt. „ Primum maledicta & probra in eum „ congerunt; mox in eundem hastâ confossum, „ unus ex paternis fervis, nomine *ZAIAN*, „ homo obscuri loci & alienigena planè „ improbus, ad facinus jam instructus, „ sub montem irruit, atque inter ruderera „ quædam transeunti per angustias viarum „ obvia interfecit. Ejus defensores, ubi cædes „ nuntiata, corpus jam turpiter expositum, „ inerme, nudum ab hostium injuriis prohibent. „ Mox *JOSEPHO* fratre Rege salutato, „ *Malacam* asportatum in loco qui „ suburbanum Principis agrum contingit, „ sub testudine in ejus honorem extructa, „ addito sequenti elogio, condidere. „ Illius autem interitus accidit „ anno *Egira* 733. die 13. mensis „ *Dilhagiat* ad vespertas feriæ 4. (c)

„ *Hic jacet Rex inclytus, Princeps*

المجد والفضل وضخامة السلطان مبراً عليه بالياس المرهوب والعزم الغالب والحنون
الذي لايشوكة هزل ولا اجتهاد الذي لاقتخلله راحة ابو الحسن الي اخر مدته ثم
مرة ايام اخيه بعده

(a) وتعلمسان الامير عبد الرحمن بن موسى ابو قاشفين مشيد القصور ومروض
العروس ومتنبك النزو الي تمام مدته وصدر من مرة اخيه بعده وتونس الامير
ابو يحيى لبنة تمام القوم وصقر جوارح متاخرتهم الي تمام مدته وصدر كبيراً
من دولة اخيه

(b) ومن ملوك النصري واوولا بقشتالة الفونش بن هراند ابن شانجه الذي اتصلت
ايامه الي اخريات ايام اخيه ودرغون الفونش بن جايمش بن الفونش الـ
اخر مدته وصدر من مرة اخيه

(c) وفاته وقوغرت عليه صدور روسا جنده المغاربة ان كان شرها لسانه غير جزوع
الاهيابة

„ ceps liberalis , fortis , acer & magna-
 „ nimus ; genere & rebus præclare ge-
 „ stis clarissimus , ABU ABDALLA MO-
 „ HAMAD , felicitis memoria , Regiâ fa-
 „ miliâ ortus , qui solertiâ , virtute ac
 „ consilio facile omnes antecelluit : Bel-
 „ lator insignis & plurimarum palma-
 „ rum Dux , quem etiam pervetusta &
 „ nobilis Equitum Nasseritarum familia
 „ maxime commendat , Fidelium scilicet
 „ Imperator & Fidei Defensor , Regis
 „ ABULVALIDI BEN PHARAGI BEN NAS-
 „ SERI , cui veniam Deus & requiem
 Tom. II.

„ tribuat , Filius . Natus est anno Egira
 „ 715 . die 8 . Moharami ; Rex crea-
 „ tus die à patris interitu 26 . mensis
 „ Ragebi , anno 725 . occubuit verò die
 „ 23 . mensis Dilhagiat , anno 733 . Deo
 „ immortalis laus & gloria . (a)

„ JOSEPHUS ISMAELIS filius & PHA-
 „ RAGI nepos , Nasserita , cognomine
 „ ABULHAGIAGÆUS , Mahometanorum in
 „ Hispania Rex , egregius Regum de-
 „ cor & Principum ornamentum . Ore
 „ fuit candidus ; juvenis viribus ac mo-
 „ ribus , ut & formâ atque staturâ in-

Pp „ si-

الاهيابة فربما تكلم بملي فيه من الوعيد الذي لا يخفي عن المعتمد به وفي ثاني
 يوم من افراع الطاغية عن جبل الفتح بسعية وحسن محاولته وهو يوم الاربعاء الثالث
 عشر من شهر ذي الحجة وقد عزم علي ركوب البحر من ساحل منزلة بموق—
 وادي السفارين فتاروا من ظاهر الجبل تخفيفا للمونة واستعجالا للمصدر وقد اخذت
 علي حركته المرصد فلما تواسط كمين القوم ثاروا اليه وهو راكب بغلا فشرعوا
 في عتبه بكلام خليط وتنايب قبيح وعجل احداهم قطعته وقرامي عليه مملوك من
 مماليك ابيه نرزمة من اخايت المعلوجا اسمه نريان صونغ علي مباشرة الاجهانه عليه
 فقضي لحينه في سبع الردوة الماثلة بيرة العاجر للوادي ممن يقصد الجبل وتركوه
 جالعا مسلوب الساتر سبي المصرع قد عدت عليه نعمة واوقفته سلاحه واسلمه انصاره
 وحماته واما فرغ القوم من مبايعة اخيه السلطان يوسف صرفت الوجوه الي دار
 الملك ونقل القتيل الي مالقه فدفن برباض تجاور منية السيد فكانت وفاته
 ضحوة يوم الاربعاء الثالث عشر من ذي حجة عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية وقيمت
 عليه قبة وعلي قبره مكتوب

(a) هذا قبر السلطان الاجل الملك الهمام الامضي الباسل الجواد ذي المعجزة الاثيل
 والملك الاصيل المقدس المرحوم ابي عبد الله محمد ابن السلطان الجليل الكبير
 الرفيع الاوحد المجاهد الهمام صاحب الفتوح المسطورة والمغاربي المشهورة سلالة
 انصار النبي صلي الله عليه وسلم امير المسلمين وناصر الدين الشهيد المقـ
 المرحوم ابي الوليد بن فرج ابن نصر قدس الله روحه وجرده ضريحة كان مولده
 في الثامن لمحررم عام خمسة عشر وسبعماية ووديع في اليوم الذي استشهد فيه والده
 مرضي الله عنه السادس والعشرين لرجب عام خمسة وعشرين وسبعماية فسبحان من
 لا يموت وذو في في الثالث عشر لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية

„ signis ; Princeps laudatissimus , Poë-
 „ tarumque nulli profectò secundus.
 „ Opacam barbam ac nigram alebat;
 „ gravi simulque suavi sermone uteba-
 „ tur ; unumquemque pro dignitate
 „ læto , sed Regio ore excipere , salu-
 „ tare , benignè comiterque honoris
 „ gratiâ appellare solitus. Ingenio acri
 „ & felicissimâ sententiarum memoriâ
 „ cum sermonis dignitate maximè va-
 „ luit : ad quas animi dotes multarum
 „ etiam artium mechanicarum peritiam
 „ adjunxit. Pacis & quietis studiosus,
 „ Rempubicam cunctando gessit. Cu-
 „ ram ac tempus in publicis ædificiis
 „ extruendis impendit. Magnus ætatis
 „ suæ Regum exitit æmulator , quos
 „ etiam opibus ac pretiosis quibusque
 „ rebus superavit. Fratri in regnum
 „ successit , Rexque apud fluvium *Gua-*
 „ *dilsaphaien* dictum , qui *Insulam Vi-*
 „ *ridem* (vulgò *Algecirat*) præterfluit,
 „ salutatus est ad vespèras feriæ 4. die
 „ 13. mensis Dilhagia , anno Egiræ
 „ 733. (Annis hic à *RVI DE PINA* in
 „ *Chronicis Regis Portugallia ALPHONSI*

„ IV. *Guadimegil* appellatur , qui ab
 „ *Algecira* tribus circiter milliariis di-
 „ stat). Itaque imperium ubi auspicatus
 „ est , confirmata ubique pace , Regni
 „ commodis consulere studuit. Nam
 „ Princeps fanè incomparabilis , opti-
 „ mas condidit leges ; subditosque mul-
 „ tis honoribus titulisque splendidis de-
 „ coravit. Mahometanis sæpe iniquif-
 „ simis temporibus operam liberaliter
 „ præstitit , magnam in adversa fortu-
 „ na patientiam cum invicti animi lau-
 „ de præ se ferens. Id illi maximè in
 „ memoranda *Tharipha* clade atque in
 „ urbis *Algecira* obsidio , quam Christia-
 „ norum Rex vi & fame cepit , exper-
 „ ti sunt. Admiranda est quoque ejus in
 „ summo discrimine prudentia , quum
 „ hostis insidias mari trajecto , fortu-
 „ næ cedens effugit. *JOSEPHUS* denique,
 „ pacato rerum tumultu , ac viribus col-
 „ lectis , tot tantisque præclare gestis per
 „ universam Hispaniam inclaruit , ut
 „ Arabibus præsidio , Regibus admira-
 „ tioni , quoad vixit , extiterit. (a)

„ Filios habuit tres , *MOHAMETUM*

„ pa-

(a) يوسف بن اسماعيل بن فرج يكنى ابا الحجاج الانصاري امير المسلمين
 والاندلس بحاله وصفته بدر الملوك وزين الامرا كان ابيض ازهر ايدا مليح
 القدر جميل الصفات براق الثنايا انجل رجال الشعرا سوده كثير اللحية وسيم
 عزب الكلام عظيم الحلاوة يفضل الناس بحسن المرأي وجمال الهيبة كما يفضلهم
 مقامها ورتبة وافر العقل كثير الهيبة الي ثقب الزهن وبعد الغور والنفط
 للعمار يرض والتبريز في كثير من الصنایح العملية ما يلا الي الهدنة مرجيا للامور
 كلفا بالمباني والاثواب جماعة للحلي والذخيرة مستميلا لمعاصريه من الماوك
 قولي بعد اخيه بواي السفاين من ظاهر الخضرا يوم ضحوة الاربعاء الثالث عشر من
 ذي الحجة عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية سنة ان ذلك خمسة عشر عاما وثمانية
 اشهر واستهل بعد بالملك واضطلع بالاعبا ودملا الهدنة ما شا وعظم مرانة لمباشرة
 الالقاب ومطالعة الرسوم فجا نسيج وحده ثم عاني شرايين العدو فكرم يوم وقبعة
 العظما بظاهر طريق موقعة وحمد بعد في منازلة الطاغية عند الجشوم علي الجزيرة

صبرة

„ paterni Regni fuccefforem ; *ISMAE-*
 „ *LEM* qui , *MOHAME*TO fratre Regno
 „ expulfo , imperium fibi vindicavit ; &
 „ *CAISUM* fratrem natu minimum . Vi-
 „ ziratûs autem munere plures , eo re-
 „ gnante , perfuncti funt . Ac primus
 „ quidem *ABU ISAC BEN ABDELBER* , vir
 „ divitiis affluens & fortunis , quem *FO-*
 „ *SEPHUS* Rex locupletandi Regni cupi-
 „ dus , fimul ac principatum iniit , ad
 „ hanc dignitatem , die fcilicet tertia Mo-
 „ harami , anno 734 . provexit . Id Proce-
 „ res ægrè ferentes , alium à Rege pe-
 „ tierunt Adminiftrum , qui eorum vo-
 „ tis annuens , *ALHAGEBUM ABULNAIMUM* ,
 „ virum pernobilem , fed planè immi-
 „ tem & iracundum , in ejus locum
 „ fuggellit . Is poftquam Reipublicæ cu-
 „ ram Regnique negotia cum civilia ,
 Tom. II.

„ tum militaria fufcepiffet ; in carcerem
 „ conjeftus eft anno 740 . feriâ 7 . die
 „ 22 . menfis Ragebi . Electus deinde
 „ fuit *ABULHASSENUS ALI BEN MUL* ,
 „ feveri fupercilii homo , truculentus ,
 „ furibundus , atque irâ implacabilis .
 „ Primores populi ea de re apud Regem
 „ acerbè conquefti , illum Viziratu
 „ exuendum curavere . Quam dignita-
 „ tem mox aflequutus eft *ABULHASSE-*
 „ *NUS BEN ALGIAB* Regi tunc ab Epi-
 „ ftolis , vir fanè doctrinâ incompa-
 „ rabilis . Eo mortuo fub finem men-
 „ fis Scheuali , anno 749 . graviffima
 „ hæc Provincia , ut in noftris *Analectis*
 „ fignificavimus , nobis demandata
 „ eft . (a)

„ Ab Epiftolis verò & Libellis præ-
 „ cipuam fibi laudem vindicat *ABUL-*
 Pp 2 „ HAS-

صبره واجازة البحر في شأنها فافلت من مكيدة العدو التي تخطاها اجله ولمانفذ
 في الجزيرة القدر واشتفت الاندلس سرد الامور وامتسك الاسلام علي يده وراخي
 مخنق الشرة بسعيه فعرفت الملوك رجاحتته واثنت علي قصده الي حين وفاته علي
 انركي عمله

(a) ولده كان له من الزكور ثلاثة محمد ولي الامر من بعده واسماعيل الموثب
 عليه ومزعجة عن الاندلس عند التغلب عليه وقيس شقيق اسماعيل وزيراً دولته ابو
 اسحق بن عبد البر العريض المكسب الثمين العقار لمخيلة طمع نشات لمقيمي
 الدولة فيما بيده سد الحال علي عوز طريقة الي الحضرة الي ثالث شهر المحرم من
 العام واذق الخاصة والنبها رياسته فطلبوا من السلطان اعاضته فعزل عنه الي خاصة
 دولتهم الحاجب ابي النعيم مظنة التشديد ومحط الانفات فاقصل نظره مستبداً عليه
 في تنفيذ الامور وتقدير الولاة والعمال وجواب المخاطبات وتدريب الرعايا وقود
 الجيوش ثم قبض عليه ليلة السبت الثاني والعشرين لرجب من عام اربعين وسبعماية
 وتولي الوزارة بعده ابو الحسن علي بن مول رجل جهوري حازم موثر للغاظة لم
 ينشبت ان كفي استبداده فالتاقت حاله ولزمته شكاية استنقزته واقام رسم
 الوزارة بكاتبة ابي الحسن بن الجياب الي اخريات شوال من عام تسعة واربعين
 وسبعماية وهلك فاجري لي الرسم وعصب بي تلك المثابة مضاعف الجراية معوزاً
 بولاية القيادة حسب ما وقع استيفاه في كتاب نفاضة الجراب من تاليفنا

„ *HASSENUS BEN ALGIAB* supra memo-
 „ ratus. Judices autem, seu Præto-
 „ res fuere *ABU ABDALLA MOHAMAD*
 „ *BEN IAHA BEN BAKER ALASCHARITA*,
 „ qui id muneris gessit ad diem usque
 „ cladis *Tariphæ* Mahometanis illatæ,
 „ ubi strenuè dimicans cecidit; & *MO-*
 „ *HAMETUS ABU ABDALLA BEN MOHA-*
 „ *MAD BEN AIASCHI Malacitanus*, Ju-
 „ risconsultus clarissimus. Is eo munere
 „ brevi functus, decedendi copiâ sibi
 „ factâ, dignitatem abdicavit. In hujus
 „ locum substitutus *ABU GIAPHARUS*
 „ *AHMAD BEN MOHAMAD Malacitanus*,
 „ *BEN BARTHOLI* Judicis *Malacæ* filius,
 „ qui concreditam sibi provinciam præ-
 „ clarè administravit ad quartum us-
 „ que diem Rabii posterioris anni 743.
 „ Præficitur deinde *ABULCASSEMUS MO-*
 „ *HAMAD BEN AHMAD ALHASSENUS*, or-
 „ tu ac disciplinâ *Septanus*, vir nobi-
 „ lissimus atque acerrimus *JOSEPHI* Re-
 „ gis, fratre jam imperante, defen-
 „ sor. Eo Praturâ exuto, amplissimum

„ hunc honorem adeptus est *ABULBAR-*
 „ *KATUS BEN ALHAGI*, qui si dignita-
 „ tem, Jurisperitiam atque auctori-
 „ tatem spectes, nulli fanè comparan-
 „ dus. Hic ubi abire jussus est, in pri-
 „ stinam dignitatem restituitur *ABULCAS-*
 „ *SEMUS* modo laudatus, qui eandem,
 „ vivo Rege, retinuit. (a)

„ Dux autem Legionis *Algarbio-*
 „ *rum* erat *ABU THABETUS OMARUS*
 „ *BEN OTHMAN BEN EDRIS BEN ABD-*
 „ *ELHAC*, callidus temporum vir, pe-
 „ nès quem summa tunc imperii fuit
 „ & consilii. Quum autem is anno Egi-
 „ ræ 741. feriâ 7. die 29. Rabii prio-
 „ ris (substituendum *posterioris*) de-
 „ clinante jam fortuna, à Rege simul
 „ cum fratribus captus esset; ad ho-
 „ noris hujus fastigium evectus est *IA-*
 „ *HIA BEN OMAR BEN RAHU*, eorun-
 „ dem patruelis, juxtaque decus &
 „ ornamentum, qui munus cum sum-
 „ ma & virtutis, & morum laude ad
 „ Regis usque mortem sustinuit. (b)

„ Re-

(a) كتابه المذكور أبو الحسن بن الجياب قضاة أبو عبد الله محمد بن
 يحيى بن بكر الأشعري الي يوم الواقعة بطريق وفقد في مصافه وذبحت لوا جهاده
 وولي القضا الفقيه المفتي أبو عبد الله محمد بن محمد بن عياش من أهل مالقة
 أياما ثم طلب الاعفا فاسعق وولي مكانه الفقيه أبو جعفر أحمد بن محمد بن
 جرطال من أهل مالقة وابن قاضيها فسد الخطة وأجري الأحكام الي الرابع من
 شهر ربيع الآخر عام ثلاثة وأربعين وسبعمايةة وقدم للقضا عوضه الفقيه الشريف أبا
 القاسم محمد بن أحمد الحسيني السبتي المولد والنشأة الطالع علي أفق حضرته في
 أيام أخيه النازع الي أيدانهم النصرية معدودا في مفاخر أيامه ثم عزله وولي
 القضا نسيج وحده الرجل البقية شيخ الصقع وصدرا الجللة أبا البركات بن الحاج
 ثم صرفه وأعاد اليها الشيخ الشريف المذكور الي آخر مرته

(b) رديس الجند الغربي الشيخ أبو ثابت عامر بن عثمان بن أدريس بن عبد الحق
 قريع دهره في النكرا والدهي المسلم له في الرتبة عنافة ورايا وثباتا السبي ان
 نكبه وقبض عليه وعلي أخوته يوم السبت التاسع والعشرين من ربيع الاول عام
 احد

„ Regum autem , hujus tempore
 „ dominantium primus occurrit *ALI*
 „ *ABULHASSENUS BEN OTHMAN BEN*
 „ *JACOB BEN ABDELHAC* , *Fessæ* Rex,
 „ ex *Marinorum* stirpe , qui quum in
 „ Hispaniam anno *Egiræ* 741. feriâ 6.
 „ die 9. *Saphari* trajecisset centum &
 „ quadraginta navium classe instructus,
 „ *Christianos* maritimo prælio supera-
 „ vit , maximâ rerum , armorum at-
 „ que navium copiâ potitus. Jamque
 „ victori die 20 ejusdem mensis ad
 „ urbem *Algeciras* appellenti Arabum
 „ Hispanorum Principes obviam pro-
 „ diere. Mox oppidum *Taripham* mul-
 „ to milite obsidens , ejus mœnia tor-
 „ mentis bellicis quati jussit. Cives me-
 „ tu perculsi , *Christianorum* Regis
 „ opem implorant , qui maximo exer-
 „ citu collecto , obsessis suppetias ve-
 „ nire properavit. Itaque die 7. (po-
 „ tius 9.) feriâ 2. *Gemadi* prioris , anno
 „ 741. *Christi* 1340. prælio inito , vi-
 „ ctis fufisque *Mahometanis* , Rex *ALI*

„ *ABULHASSENUS* , arreptâ fugâ , in *Afri-*
 „ cam contendit. Unde etiam ad *Orien-*
 „ tis usque confinia expulsus , latebras,
 „ ut fama est , passim vagans sibi quæ-
 „ rebat. Quum autem apud urbem
 „ *Cairuanam* profligatus esset , popu-
 „ lus , qui filio *PHARESO ABU ANAN*
 „ propter eximiam ejus virtutem ma-
 „ gis quàm ceteris fratribus favebat,
 „ eum Regem salutavit. Id ubi nun-
 „ ciatum , *REX ALI* unâ cum filio in
 „ monte *Hanteta* sese adversus hostes
 „ munivit. Denique apud *Temefnam*
 „ urbem congressus , in acie cecidit
 „ anno 752. feriâ 3. die 26. *Rabii*
 „ prioris (apud eundem Auctorem ali-
 „ bi , & quidem rectius , *posterioris*).
 „ Quo factum est , ut *PHARESVS* , di-
 „ ctus postea *ALMOTUAKELVS* , unus
 „ rerum summâ potiretur. Hunc inter
 „ & *JOSEPHUM Granata* Regem , quoad
 „ vixit , amicitiae fœdus mutuis lega-
 „ tionibus & litteris sancitum con-
 „ stitit. (a)

„ Re

أحد وأربعين وسبعمايةة وأقام شيخا وريسا دايلهم وابن عمهم المتلقن لكرة عزهم
 يحيي بن عمر بن رحو ولي ذلك بنفسه وقديمه ومبرنر خصاله الي تمام مرتة

(2) من كان علي عهد من الملوك وأولا بفاس دار الملك بالمغرب السلطان أبو
 الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق وجار علي عهد الي الأندلس أثار
 صلاة يوم الجمعة تاسع شهر صفر من عام أحد وأربعين وسبعمايةة بعد أن أوقع باسطول
 الروم المستدعي من أقطارهم وقبيلة كبيرة شهيرة استولي فيها من المتاع والسلاح
 والأجفان علي ما بعد به العهد واستقر بالخضرا في جيش وافر وكان جوائز في
 مائة وأربعين جفنا غزوبا وبادر الي لقاية في وجوه الأندلسيين وأعيان طبقاتهم
 بظاهر الجزيرة في اليوم الموفى عشرين من الشهر ونزل أثار انقضا المولد النبوي
 مدينة طريف ونصب عليها المجانيق وأخذ بمخنتها واستحث من بها من المحصورين
 طاغية الروم لنصرهم فبادر يقود جيشا يسوق الشجر والمدر وكانت المناجزة يوم
 الاثنين السابع لجمادي الأولي من العام ومحض الله المسلمين بالوقعية الشهيرة
 وأسرع اللحاق بالمغرب مفلولا في سبيل الله وكان بما هو معلوم عند انقحامه

حدود

„ Regni verò *Tremiffenensis* Rex
 „ *ABDELRAHMANUS BEN MUSA BEN*
 „ *OTHMAN BEN IAGMARASAN BEN ZIAN*
 „ *ABU TASCHPHIN*, cujus supra memi-
 „ nimus, & quo regnante *Zaianita-*
 „ *rium* Imperium everfum fuisse retu-
 „ limus, regnum, ut alibi dictum est,
 „ anno Egiræ 718. auspiciatus est. Is
 „ feliciter imperavit, donec *Fessæ* Rex
 „ supra memoratus, ab eo dissidens,
 „ gravissimum illi bellum intulit, *Tre-*
 „ *missenum* Urbem premens trium an-
 „ norum obsidione: quam vallo per-
 „ rupto die 28. Ramdani, anno 738.
 „ tandem cepit sub initium mensis
 „ Scheuali. Tum *ABDELRAHMANUS*, ic-
 „ bus desperatis, in munitâ Regiarum
 „ adium arce cum filio natu majori
 „ ab hostibus, quorum multos vel in-
 „ terfecit, vel fugavit, ita se suosque

„ defendit, ut strenuè mori quàm
 „ turpiter vinci maluerit. Quare *ABD-*
 „ *ELRAHMANO* præclare factis immor-
 „ tuo, *Fessæ* Rex *Tremiffenense* Regnum
 „ ad hunc usque diem occupavit. De
 „ Rege *ABDELRAHMANO*, cæterisque
 „ *Zaianitis* Regibus in *Historia Dyna-*
 „ *stiarum* versibus conscripta jam sa-
 „ tis disseruimus. (a)

„ Quum autem *Zaianita* Regem
 „ *Fessæ* apud urbem *Cairuanam* profligatum,
 „ filiumque ei substitutum intellexissent;
 „ tempus nacti idoneum,
 „ *Cairuanam* invadunt; captoque ejus
 „ Præfecto, *OTHMANUM BEN IAHA*
 „ *BEN ABDELRAHMAN BEN IGMARASAN*
 „ Regem salutant; idque anno Egiræ
 „ 749. die 28. Gemadi posterioris. Is
 „ viribus postmodum collectis, creptum
 „ *Zaianitis* imperium recuperavit.

حدود الشرق وتوغله في بلاد افريقية وجردان حكم الله عليه بالهزيمة ظاهر
 القيروان وعلقت امال الخلق بولده مستحق الملك من بين ساير اخوته وهلك علي
 تافية لحاقه باحوار مراکش واعتصامه بجبل هنتاثة ووقوع الهزيمة عليه بولده بارض
 قامسنا ليلة الاربعاء السادس والعشرين لربيع الاول عام اثنين وخمسين وسبعماية
 واستوسق الامر لولده فارس المكني بابي عنان المتوكل علي الله وجرت بين هذا
 السلطان وبينه المخاطبات والمراسلات واتصلت ايامه الي اخر مرتة

(a) وتلمسان عبد الرحمان بن موسي بن عثمان بن يغمراسن بن نريان يكتي
 ابا تاشفين وقد مر ذكره وهو الذي انقضي ملك بين نريان علي يده تولي الملك
 عام ثمانية عشر كما تقدم وتهناه الي ان تاكرت الوحشة بينه وبين السلطان
 ملك المغرب فتحرك لمنزلته واخذ بمخنقه وحصره سنين ثلاثة واقتحم عليه ملعب
 البلرة ليلة سبع وعشرين من رمضان عام ثمانية وثلاثين وسبعماية وفي غرة شوال
 منها دخل عليه المدينة عنوة ووقف هو وكبير ولده برحمة قصره موقف ثبات وصبر
 الي ان كوثرنا واتخذنا فعاجلهما منية العز قبل شد الوثاق وامكان الشمان
 واستولي علي الملك ملك المغرب واندرج فيه الي هذا العهد وفي ذلك قلت من
 الرجز المسمي بقطع السلوك في الدول الاسلامية مما يختص بملوك تلمسان ثم
 باميرها هذا عبد الرحمان

„ vit. Sed rursus *PHARESUS ABU ANAN*
 „ *FESSÆ* Rex bello *Zaianitis* illato, anno
 „ videlicet 750. die 15. Rabii prioris,
 „ captoque *OTHMANO*, qui simul cum
 „ fratre, nomine *ABU THABET*, inter-
 „ fectus est. Imperium *Tremiffenense* ad
 „ obitum usque obtinere valuit. (a)

„ *Tuneti* verò per ea tempora re-
 „ gnabat *ABU IAHA ABU BAKER*, Re-
 „ gis *ABU ZACHARIÆ HAPHSITÆ* filius.
 „ Quo vitâ functo, in ejus locum suf-
 „ fectus est filius *OMAR*, inde *AHMETUS*
 „ filius alter. Postea imperii summa
 „ iterum ad *OMARUM* rediit. Tandem
 „ *ABULHASSENUS*, *Fessa* Rex, *OMARO* à
 „ suis interfecto, Regnum *Africae* sibi
 „ vindicavit. (b)

„ Ex Regibus denique Christiano-

„ rum imperabat *ALPHONSUS*, *HERAN-*
 „ *DI & SANCHII* nepos, *Castella* Rex,
 „ armis potentissimus, idemque fortu-
 „ natissimus; quippe eo duce, *Maho-*
 „ *metani* ingenti clade primùm apud
 „ *Taripham*, inde apud *Algeciram* af-
 „ fecti sunt; parumque abfuit, quin
 „ ille, maximè quum castra ad urbem
 „ *Gibraltar* locavit, totam *Hispaniæ*
 „ peninsulam in suam potestatem re-
 „ digeret; nisi Deus sapientissimus *Ma-*
 „ *hometanis* prope deletis, ipsius *AL-*
 „ *PHONSI* Regis interitu qui die 10.
 „ *Moharami* anno 751. accidit, opti-
 „ mè prospexisset. *Barcinonis* verò Rex
 „ erat ea tempestate *PETRUS* ante me-
 „ moratus, quum de ejus fratre men-
 „ tionem fecimus. (c)

„ FA-

(a) ثم نشأت لهم عند ماجرت علي السلطان ابي الحسن الهزيمة بالقيروان وانبت عن
 ارضه وعرفت البيعة في الافطار الي ولده فدخلوا تلمسان وقبضوا علي القايم بامرها
 وقرموا علي انفسهم عثمان بن يحيي بن عبد الرحمن بن يغمراسن وذلك في الثامن
 وعشرين لجمادي الاخرة من عام تسعة واربعين وسبعماية واستمرت ايامه اثنا الفتنه
 وارثاش واقام رسم الامرة وجرده ملك قومه واستمرت ايامه الي ان وقع بهم السلطان
 ابو عنان وتحصل عثمان في قبضته ثم الحقت النكبة به اخاه ابا ثابت فكانت
 سبيلهما في القتل صبيرا عبرة وذلك في وسط ربيع الاول من عام التاريخ وتصير
 الامر للسلطان ابي عنان الي وفاته

(b) وبتونس الامير ابو يحيي ابو بكر بن الامير ابي نكريا بن ابي حفص الي
 ان هلك وولي ولده عمر ثم ولده احمد ثم عاد الامر الي عمر ثم استولي علي الامر
 السلطان ابو الحسن وقتلت عمر بعض خصمه واشتمل ملك الغرب علي ملك افريقيه

(c) ومن ملوك النصرى بفشتالة الفنش بن هرند بن شانجة وكان هذا الطاغية
 مرهوبا وملكها مجرولها هبت له الريح وعظمت به في المسلمين النكاية وتملك
 الخضرا بعد ان اوقع بالمسلمين الوقيعه العظمي بطريق ثم نزل جبل الفتح وكاد
 يستولي علي هذه الجزيرة لولا ان الله تداركها بجميل صنع فهلك بمحلته من
 ظاهره حتى انفق ليلة عاشورا من عام احد وخمسين وسبعماية وجرجلونه السلطان
 بطره المتقدم ذكره في اسم اخيه

„FACTA

„Belli domique, eodem Rege,
„maximè memoranda.

„Regnum ejus temporibus pace
„plerumque & tranquillitate, cæteris
„que commodis fruebatur. Nam ipse
„cum *ABULHASSENO Fessa* Rege, cui
„principatum ineunti res prosperè flue-
„bant, pacis fœdus, nulla pecuniæ
„conditione, diuturnum sanxit. Colle-
„gium Maximum *Granatense*, à se in-
„choatum absolutumque, annuis re-
„ditibus locupletavit. Arcem præterea
„miræ altitudinis immenso quidem
„sumptu prope *Malacam* extruxit: qua
„ex re magnam sui nominis celebra-
„tem adeptus est. Eo etiam imperante,
„victoria navalis de Hispanis reportata.
„Mahometani quoque insigni clade
„apud *Taripham*, quæ contigit anno
„741. feriâ 2. die 7. (sive 8. ut ali-
„bi animadvertimus) Gemadi prioris,
„affecti. Hispanorum item Rex castrum
„Arabibus *Calat Iahseb* (Hispanis po-
„sticè *Alcalá la Real* dictum) *Gra-*
„*nata* Regno confine, tum *Agrum*
„*Granatensem* (vulgò *la Vega*, quo
„etiam nomine Scriptor noster sapius

„utitur) subegit; inde *Algeciram* His-
„paniæ ostium, sive claustrum, post
„mensium 20. obsidium ad deditio-
„nem tandem compulit. Qua de re in
„nostra Chronologia quæ *Seculi No-*
„*vitas*, inscribitur, aliisque libris fu-
„sius egimus. Cæterum *JOSEPHUS* Rex
„bellis defunctus, pacatum tutum-
„que, quoad vixit, regnum obti-
„nuit. (a)

„Regis autem mors, quæ illi
„præter expectationem, non tamen
„citrà Dei voluntatem accidit, ita se
„habuisse traditur. Quum ille die
„Paschatis (die videlicet 1. Scheuali)
„anno 755. preces in templo funde-
„ret; homo quidam perditus, irarum
„plenus, in eum irruens, pugione
„quo erat instructus, latus transfodit.
„Clamitat Rex faucibus; interpellatur
„supplicatio. Ad insolitum casum om-
„nes, districto ense convolamus, Re-
„gemque jam exanimem atque hæsi-
„tante lingua murmurantem, hume-
„ris vectum ad Regias ædes detuli-
„mus, ubi continuo animam efflavit.
„Interea sceleris auctor captus di-
„scerpitur; flammisque mox coram
„frequentissimo populo traditur. Filius
„itaque natus major, Rex salutatus,

„pa-

(a) بعض الاحداث في ايامه وكان الغالب علي ايامه الهدنة والصلاح والخير
وانصلت يده بالسلطان ابو الحسن لاول هبوب الريح فانعقدت السلم خلية من روم
الضريبة مدة وفي ايامه بنيت المدرسة العجيبة بكر المدارس بحضرة فتمت
وكملت لوقافها وبنى الحصن السامي الذروة المبني عن القدرة في الجبل المتصل
بقصبة مالفه فعظم به الفخر وجعل الذكر وفي ايامه كانت الوقعة باسطول الروم ثم
الوقعة الكبيرة علي المسلمين بطاهر طريف يوم الاثنين السابع من جمادى الاولى
من عام احد واربعين وسبعماية و علي عهده تغلب العدو علي قلعة يحصب جارة
حضرتة وعلي باغة وعلي الجزيرة الخضرا باب الاندلس بعد منازلتها لها عشرين شهرا
في قصص طويل تضمنه كتاب طرفة العصر وغيره من تاريخنا ثم تهنا السلام والتحك
جناح الامنة الي اخر مرتبة

„ patris corpus , exequiis de more ce-
 „ lebratis vespere ejusdem diei , magni-
 „ ficentissimo tumulo mandari , &
 „ Epitaphium quod tum soluta , tum
 „ stricta oratione condidit SADERUS BEN
 „ ANA , aureis , cyaneisque litteris
 „ in marmore incidi curavit. (a)

„ Hic jacet Rex & Martyr , il-
 „ lustrissima stirpe ortus , corporis mo-
 „ rumque elegantia in primis decens :
 „ cujus clementiam , pietatem , comita-
 „ tem , ceteraque virtutum ornamen-
 „ ta , uti & felicissima ejusdem re-
 „ gni tempora , universum Damasci (id
 „ est Granatæ) Regnum prædicat : sum-
 „ mus Antistes , Dux inclytus , Gen-
 „ tis Mahometanae Gladius acutus , in-
 „ ter Reges vel fortissimos Signifer
 „ acerrimus : qui Dei providentiâ do-
 „ mi bellique rebus præclare gestis om-
 „ nes longè superavit ; Mahometano-
 „ rum salutem consilio , armisque de-
 „ fendit ; optatumque finem , Deo ad-
 „ juvante , gloriose consequutus est :
 „ Fidelium videlicet Imperator JOSE-
 „ PHUS ABULHAGIAGÆUS , magni Regis
 „ ABULUALIDI filius , & præclarissimi
 „ Regis ABI SAID PHARAGI BEN ISMAEL
 „ ex Nasseritarum stirpe nepos : quorum
 „ alter invictus Dei Leo extitit , hostes
 „ debellans , subjectosque legibus coer-
 „ cens , Religionem etiam hastâ & ga-
 Tom. II.

„ leâ propugnans , Princeps sanè memo-
 „ riæ hominum sempiternæ commendan-
 „ dus ; alter , quem Deus misericors &
 „ vindex inter beatorum animas exce-
 „ pit , magnum extitit familiæ suæ co-
 „ lumen & decus. Rempublicam Ma-
 „ hometanam summa cum laude rexit ;
 „ tempora felicissima subditis pace &
 „ otio peperit ; eorum commodis solertiâ ,
 „ unde civium fortuna , consuluit ; amore
 „ & æquitate judicia atque omnia pla-
 „ nè gessit , donec illum Deus jam vir-
 „ tutibus maturum è vita sublatum fe-
 „ licitate affecit , ac martyrii etiam lau-
 „ de decoravit. Quippe observato ritè
 „ jejunio , dum submissis genibus sup-
 „ plex in templo delictorum veniam ex-
 „ poscit , propriusque ad Deum conatur
 „ orando adhærescere , impij cujusdam
 „ hominis manu , ita justissimo Numi-
 „ ne in illius gratiam , in hujus verò pœ-
 „ nam permittente , occisus est die 1.
 „ mensis Scheuali , anno Egira 755.
 „ Utinam ea mors , qua tempus , locus-
 „ que nobilitata sunt , bene feliciterque
 „ illi vertat ; eundemque inter majores
 „ suos jam beatos cælestis accipiat sedes.
 „ Regnum auspiciatus est feriâ 4. die
 „ 14. (supra legitur 13.) mensis Dilha-
 „ giat , anno 733. natus verò die 28.
 „ Rabii posterioris , anno 718. Laus
 „ Deo uni aeterno , qui homini cuique
 Qq „ mor-

(a) وفاته وفاه امر الله جل جلاله من حيث لا يحتسب فهجم عليه يوم عيد الفطر من
 عام خمسة وخمسين وسبعماية في الركعة الاخيرة رجل ممرور ورمى نفسه عليه
 وطعنه بخنجر كان قد اتخذه واغري بعلاجه وصاح وقطعت الصلاة وسلت السيوف
 وقبض علي الممرور واستغفهم فتكلم بكلام مغلط واحتمل الي منزله مرفوعا فوق
 روسنا علي الفون ولم يستقر به الا وقد قضي رحمه الله واخرج ذلك الممرور للناس
 فمزق ثم احرق بالنار ودفن عشية اليوم في مقبرة قصرة وولي امره اكبر ولده
 ودولع في قنودة قبره بما اجر علي من تقدمه وثبت عليه من نظم ونثر صادر بن
 عناما نصه من جانب في الرخام المزخرف بدوب الذهب وسحق الانرورد

„ mortem constituit , mercedemque stato
 „ Judicii die largitur. (a)
 „ MOHAMAD BEN JOSEPH BEN IS-
 „ MAEL BEN PHARAGI Mahometano-

„ rum in Hispania Imperator , & patrii
 „ avitique folii successor. Is quas in aliis
 „ dispersas reperias virtutes , in se unum
 „ collegit , humanitatem videlicet , pro-
 „ bi-

(a) هذا قبر السلطان الشهيد الذي كرمته احسانه وافرقة وحاز الكمال خلقه
 واخلاقه وتحدثت بفضله وحلمه شام المعمور وعراقه صاحب الاثار السنينة والايام
 الهنية والاخلاق الرضية والسير المرضية الامام الاعلي والشهاب الاجلي حسام الملة
 علم الملوك الجليلة الذي ظهرت عليه عناية ربه وصنع الله له في سلمه وفي حربه قطب
 الرجاحة و لوقار وسلالة سيد الانتصار حامي حمي الاسلام بجراية ورايته المستولي
 من ميدان الفخر علي عايتة الذي صحبته عناية الله في جراه وامره وفاقته امير
 المسلمين ابي الحجاج يوسف ابن السلطان الكبير الامام الشهير اسد دين الله
 الذي انعتت الاعداء لقهرة ووقفت الايام والليالي عند نهية وامره رافع ظلال العدل
 في الافاق حامي حمي السنة بالسمر الطوال والبيض الرقاق ومخلد صحفى الزكر
 الخالد والعز الباق الشهيد السعيد المقدس ابي الوليد ابن الهمام الاعلي الطاهر النسب
 والذات ذي العز السعيد الغايات والفخر الواضح الايات كبير الخلافة النصرية وعماد
 الدولة الغالبية المقدس المرحوم ابي سعيد فرج بن اسماعيل بن نصر تغمدته الله
 برحمة من عنده وجعله في الجنة جار السعد بين عبادة حده وجانزي عن المسلمين
 والاسلام حميد سعية وكريم قصده قام بامر المسلمين احمد القيام ومهد لهم بالامن
 ظهور الايام وجلي لهم وجه العناية مشرق القسام ودل فيهم من تواضعة وفضله كل
 واضح الاحكام الي ان قضى الله بحضور اجله علي خير عمله وختم له بالسعادة
 وساق اليه علي حين اكمال شهر الصوم هدية الشهادة وقبضة ساجدا خاشعا منيبا
 اليه ضارعا مستغفرا لذنبة مطمينا في الحالة التي اقرب ما يكون العبد فيها من
 ربه علي يدي شقي قبضة الله تعالي لسعادته وجعله سببا لنفون مشيئته وارادته خفي
 مكانه لخمول قدره وتم بسببه امر الله لحقارة امرة وتمكن له عند الاشتغال
 بعبادة الله ما اضمره من غدره وذلك في السجدة الاخيرة من صلاة العيد غرة شوال
 عام خمسة وخمسين وسبعماية نفعه الله بالشهادة التي كرم منها الزمان والمكان
 ووضح منها علي قبول الله ورضوانه البيان وحشرة مع سلفه الانتصار الذين عز بهم
 الايمان وحصل لهم من النار والامان وكانت ولايته الملك في غرة اليوم الرابع عشر
 لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية ومولده في الثامن والعشرين لربيع
 الاخر عام ثمانية عشر وسبعماية فسبحان من انفرد بالبقا المحض وحتم الفنا علي
 اهل الارض ثم يجمعهم الي يوم الجزاء والعرض لاله الاحوي.

bitatem , animi pacem tranquillitatemque , fidem ac summam cum eximia oris specie integritatem. Post obitum patris , adolescens annum prope vigesimum adeptus , ob maturi iudicii laudem , imperio planè dignus habitus est. Quamobrem Rex delectus renunciatusque horis vespertinis diei Palchatis anno Egiræ 755. ætatis defectum studet virtutum copiâ supplere. Itaque gravitatem , prudentiam , modestiam , temperantiam adhibuit , tantam præterea morum lenitatem & animi clementiam , ut miserorum vicem lachrimis vel obortis doleret ; suosque sibi & beneficiis & amore devinciret. Regnum pacatum , ab omni ambitione alienum & undique tutum nactus est. Hinc ille cum aliis equitibus in Hippodromo ad corpus exercendum cursu & viribus decertare confueverat. Eo denique Rege , luxus omnis atque adulatio ab Aula exulabat. Quæ sanè res effecit , ut

Tom. II.

„ ejus familiaritate populus mansuesceret , optimates verò comitate delinerti morem ei libentiùs gererent ; omnes denique ejus humanitatem ac prudentiam summis laudibus extollerent. (a)

„ At fortunâ repentè versâ , frater ejus , nomine *ISMAEL* , qui imperium affectabat , è domo suâ Regiis ædibus proximâ profiliens , Regem adortus est. Quare ille stimulante metu , famulæ ementitus habitum fugam noctu quærens , iter in urbem *Guadix* contendit. *ISMAEL* verò cum opibus , tum inclinatis in se omnium animis potens , fugientem insequitur ; cum eo tamen Rex *Mohamet* secundo Marte conflixit. A Rege *Mauritania* intereà accersitus , die 11. mensis *Dilhagiat* ejusdem anni *Fessam* se contulit , ubi Rex eum honorificè excepit , suamque opem est pollicitus. Inde gemina classe geminoque instructus exercitu in Hispaniam trajecit : mox *Chri-*

Qq 2

„ stia-

(a) محمد بن يوسف بن اسماعيل بن فرج امير المسلمين بالاندلس بعد ابيه وجده رحمه الله حاله مشتمل علي خلال واوصاف قل ان تجتمع في سواه من حسن الصورة واعتدال الخلق والعراقة في الخير وسلامة الصدر وصحة العقد وشمول الطهارة ولي الملك يوم وفاة ابيه ضحوة عيد الفطر من عام خمسة وخمسين وسبعماية اختيارا لمدينة السن ومضنة الحصافة وهو يافع قريب عهد بحال المرامقة متحل بوقار وسكينة اوالى خلق سبط وعفة بالغة وسافر عن وسامة يکنفها جلباب حيا وحشمة حسن الضريبة والسجية حلو اللفظ قليل الهتسة كثير الاناة ظاهر الشفقة سريع الرمعة في مجال الرقة عطوف مخفوض الجناح جواد بالخلع الاثيرة جنل العطية بعيد من القسوة والغلظة مايل الي الخير بفضل السجية افتتحت ايامه بالسلام والهدنة وظلمات جرواق الامن والعصمة ورافع لاولها كل كبير عن الرغبة واخذ نفسه بالركض والثقافة في الميادين خارج مدينته والتردد في شوارع حضرته غير متصنع في ركبة ولا متغال في عراجة جزة فانست العامة بقربه وسكنت الخاصة الي طيب نفسه وحمد الناس فضل عفاة واكبابه علي شانہ وكلفه بما يعنيه من امره رحمه الله

„ *stianorum* Regem alloquutus , auxi-
 „ lia etiam ab eo impetravit. (a)
 „ *MOHAMETI* Regis adventum in-
 „ genti pavore , quippe victorem fore
 „ verebatur , excepit Hispania. At *MA-*
 „ *HOMETUS* , ubi Regis *ABUSALAMI* , cu-
 „ jus auspiciis bellum susceperat , mortis
 „ fama perlata est ; animo excidit atque
 „ spe. Exercitus idcirco *Fessam* rediit ;
 „ ipse verò ad urbem *Rondam* se re-
 „ cepit , *Castellæ* Regis fide nixus du-
 „ dum sibi obstricta , quem fautorem
 „ credidit & defensorem. Quum autem
 „ *MAHOMETUS* *Castellæ* Regem auxi-
 „ lium morari animadverteret ; *ABU ZA-*
 „ *IANUM MOHAMAD* , Regis *ABULHASSA-*
 „ *NI* nepotem , tunc temporis *Fessæ*
 „ Regem implorat , ab eoque impen-
 „ sius flagitat , ut sibi quam citissimè
 „ veniret auxilio , exercitum per loca

„ Christianis subjecta deducens. Ad
 „ quæ impetranda ejusdem Regis *Vi-*
 „ *ziri* & auctoritas accessit & obse-
 „ cratio. (b)
 „ *ABU ZAIANUS* , fuso fugatoque
 „ fratre patrueli , regni appetens *Fes-*
 „ *sam* Regiam urbem oblederat. Hic
 „ rerum exinde potitus , fidem *MAHO-*
 „ *METO* dedit , opesque ac vires om-
 „ nes pollicitus est , ut in Regnum si-
 „ bi ereptum restitueretur. Iis accen-
 „ sus promissis , auxiliares copias *Rondæ*
 „ expectabat. Sed moræ impatiens , *Ca-*
 „ *stellæ* Regis fidem rursus implorat :
 „ quam pactis conditionibus ab eo
 „ tandem impetravit. Itaque anno Egi-
 „ ræ 763. mense Gemado ineunte , *Ca-*
 „ *stellæ* Rex , ut fidem liberaret suam ,
 „ ingenti exercitu collecto , paratisque
 „ ad bellica instrumenta Hispanis usi-
 „ tata

(a) ولما طرقة الحوادث الجبل من الثورة به والثوب بسلطنة واجتحامه ليلا عن دارة
 وكبس متبوية تخلص رابط الجاش من ملتق الهول واسري تحت سواد ليلة في
 اجزان صبية من خدمه فلحق بوادي اش وكان املى لامرته علي قرب الجوار من
 عدوه وقلة ماله فامتسك ونازلته المحلات فابلي من معه في الدفاع وتناصق من
 عدوه الي ان استدعاه السلطان ملك المغرب فخرج عن وادي اش ثاني عيد النحر من
 العام المذكور ولحق به حالا اعلي منازل الترفيع معلى المطلب بالمواعد الي ان
 اجاز البحر مرتب الالقاب مزاح للعلل مسخرة في اجازته اساطيل العروقيين
 واجتمع بملك الروم المعطي عن نفسه صفقة الاعانة والتقى عليه الجيش المريني
 والجالية من مماليكه ورجاله

(b) واهتزت الاندلس لقدمه ولم يكد العزم ينضي والامر يقضي حتي تعرف خبر
 هلاك السلطان معينه ورايش جناحه ومتولي خبره امير المسلمين ابي سالم فسقط
 في اليد وانحل ما اجرم من العزم وتفرق المنسوب الي الايالة المرينية من الجيش
 وانحاز الي خارج مرده فلما استقر الامر وثاب الملك هكن من السكني
 بها موصول اليد بسلطان قشتالة معللا بوعده ممني بنصره ثم اقتضت الاحوال استدعا
 السلطان ابي نريان محمد بن الامير ابي عبد الرحمن يعقوب ابن السلطان الكبير
 ابي الحسن من ايالة ملك الروم وترددت رغبات الوزير الفاييم بدعوته

„tata tranſvehenda mille circiter cur-
 „ribus , *MAHOMETUM* Regem Ron-
 „dâ accivit. Quibus militibus armisque
 „instructus , ad oppidum *Casares* ve-
 „nit. Mox Regi Castellæ conjunctus,
 „copias in Mahometanorum regionem
 „movit , ab oppido *Azara* (Hispanis
 „*Zara*) quod eam latè prospectat ,
 „aditu hostibus præcluso. Lectissimi
 „*PETRI* Regis milites ac Duces Ma-
 „hometanis misti , loca omnia præter
 „arcem veterem occupant , rerumque
 „potiuntur. Id autem *MAHOMETUS* ,
 „quippe pius ac moderatus , ægrè fe-
 „rens , ut inde discedat , enixè rogat ,
 „palam profitens se ad ea sive mala ,
 „sive detrimenta , quæ idcirco Maho-
 „metani patiantur , etiamsi totius or-

„bis divitias ea re fit adepturus , nul-
 „lo pacto consentire , aut conspirare.
 „His dictis *Castella* Rex , probatâ *MA-*
 „*HOMETI* causâ , discedere statuit , au-
 „xilium opemque , si fortuna finat ,
 „pollicitus. Maluit Rex fortis ac pius
 „Regno per injuriam privari , quàm
 „suis nocere , atque in vituperationem
 „venire. Quamobrem die 8. ejusdem
 „mensis *Rondam* rediit : ubi , dum
 „hæc scribimus , lætus vivit , urbis
 „imperio , ejusque territorii ditione
 „planè contentus. (a)

„*MAHOMETUS* Rex ad hunc usque
 „diem filium nonnisi unum habet , de
 „nomine avi dictum *JOSEPH*. Illi au-
 „tem à Secretis fuit *ABULNAIMUS RE-*
 „*DHAN* , Princeps genere , consilio
 „at-

(a) فكان السلطان المذكور العمدة في خلاص امره وتسني صرفه والضام-
 لما طوب به من شرطه الي ان اتصل بدار الملك المحصورة بادن عم ابيه واجفل عنها
 المحاصر فاستمر استقرار السلطان بمدينة رندة بمقتضيا مواعيد التزم السلطان ل-
 قضاها وتضمن العهد مع ملك قشتالة مناجزة المتغلب علي الاندلس واعانتة علي
 استرجاع حقه فكان العمل علي ذلك وفي اوائل شهر جمادي الاول من عام
 ثلاثة وستين تحاركت الطاغية بجيش عظيم من الروم لانجان وعده بلغ استعداده فية
 الي قود الق عجلة ومبين تحمل انواع العدة المضرفة في منازل البلاد واستدعي
 السلطان من رندة فرحل اليه بمن معه واجتمع به بخصن قشرة وقصد ارض
 المسلمين وصرم منها حصن اثر المطل عليها اطلال الجارح المحلق ودخلت سرعان
 جيشه ما ورا قودته العظمي واشتركت مع اهلة محل السكني ولم يبق الا القصبه
 القديمة الجدوي فلما راي تحصل من به في قبضته وتصيره الي ملكته انق لذلك
 بمقتضي دينه وعفته وساله الافراج عنه وقرر عن نفسه انه لا يباشر شيئا من اضرار
 المسلمين والحملات عليهم ولو جر ذلك ملك الارض وطلب الانصراف فشق ذلك علي
 السلطان صاحب قشتالة واعتذر بما ينفعه في الافراج عما انفرد بالتغلب عليه من
 ذكير قومه واكد له العهد بنصره واعانتة علي طلب حقه فاطاع داعي المروة والدين
 ورضي باطراح هواه في جنب سر القالة واسراع المزمة وانصرف الي رندة في اول
 الشهر المذكور في الثامن منه وهو الان بها الي عهد تاليف هذا الكتاب قد قام
 رسما وارقاش ومر بايالة ما يرجع الي تلك المدينة من الحصون والاحوان

„ atque auctoritate clarissimus , qui
 „ Regni curas , ubi delectus est , me-
 „ cum ita sociavit , ut in deliberandis
 „ ac gerendis Reipublicæ rebus , cate-
 „ risque & mensæ & convictûs hono-
 „ ribus me collegam , socium , confi-
 „ liarium semper habuerit. Ad dignita-
 „ tes verò , quibus me Rex ornaverit ,
 „ accessit amplissimum à Libellis &
 „ Confiliis apud eundem munus : in
 „ quo obeundo ad extrema illius tem-
 „ pora comitem adhibui Regium Can-
 „ cellarium *ABU MOHAMAD ABDELHAC*
 „ *BEN ABILCASSEMUM BEN ATHIA* , qui
 „ id oneris summa cum laude susti-
 „ nuit. (a)

„ Ex Judicibus primus occurrit
 „ *MOHAMAD BEN AHMAD BEN MOHA-*
 „ *MAD ALHASNI* , vir planè incompara-

„ bilis , gravitate & linguæ Arabicæ
 „ peritiâ spectatissimus. Is verò *Septâ*
 „ profectus , ad Regum *Nasseritarum*
 „ Aulam famulatûs causâ se contulit.
 „ Obiit verò anno *Egiræ* 760. sub fi-
 „ nem mensis *Schabani*. Ei successit
 „ *ABULBARKAT MOHAMAD BEN MOHA-*
 „ *MAD BEN ALHAGI ALBALKINI* , qui
 „ adhuc in vivis est , ob ingenuam vir-
 „ tutem & eximiam eruditionem me-
 „ ritò celebrandus. Africanarum verò
 „ copiarum Dux *ABU ZACHARIA IAHA*
 „ *BEN OMAR BEN RAHU BEN ABD-*
 „ *ALLA BEN ABDELHAC* , vir nobilissi-
 „ mus idemque lectissimus , quem
 „ præterea animi fortitudo , temporum
 „ peritiâ , ac rerum usus inter suos
 „ maximè commendant. (b)

„ Inter Reges *MAHOMETI* tempe-
 „ itate

(a) ولده وارد له الي هذا العهد ولد ذكر اسمه يوسف علي اسم جده بن وزيره وامه قدام
 بياضه برسم الحجابة الفاير المعتمد بالنجلى المحمص بالقدح المعلي من المزينة
 مفرع الراي وعقدة السلطان وبقية رجال الكمال ابو النعيم مرسان بن وجد لبي
 الرسوم الوزارية من الوقوف بين يديه في المجالس العامة وايصال الرقاع وفصل
 الامر والتقييد للحكم والترديد بينه وبين الناس والعرض والانشاء والمواكلية
 والمجالسة في صف المواناة بن كتابه اجره له رسم العرض والانشاء من جملة
 ما ناطه بي من الوظائف ثم استخدمت في الكتابة والعرض اخريات ايامه كاتب
 الدولة الاندلسية الفقيه الكاتب ابا محمد عبد الحق بن ابي القاسم بن عطية
 فخدمت منابه بحمل الكل والصبر علي عبي الخدمة بن

(b) قضائه بن الشريف الاستان نسيج وحده و فريد دهره اغرابا في الوقار وحده
 السمت وتبحرا في علوم اللسان محمد بن احمد بن محمد الحسن بن الجانح الي
 الياينة النصرية من مدينة سبتة الي اخرياة شعبان من عام ستين وسبعماية وتوفي
 رحمه الله وولي خطة الفضا بعده شيخنا نسيج وحده البعيد المدا في ميدان
 الاصالة والامامة والاصول الصالحة ابي البركات محمد بن محمد بن الحاج
 البلقيني وهو الان مرهن الحياة بن شيخ المجاهدين من المغاربة ابا نكريا يحيى
 بن عمر بن مرحو بن عبد الله بن عبد الحق مطمح الطرف ومرمي الاختيار ولباب
 القوم حزمها ودعما وتجربة نسابة القبيل واصمعي لغتهم وكسري سياستهم بن

„ fte regnantes extitit Rex *Feffæ* in-
 „ clytus *ABU ANANUS PHARESIUS*, Re-
 „ gis *ABULHASSANI ALI BEN OTHMAN*
 „ *BEN JACOB BEN ABDELHAC* filius,
 „ Princeps fortunatiffimus, qui anno
 „ *Egiræ* 759. die 24. mensis *Dilha-*
 „ *giat* decessit. Sufficitur in ejus locum
 „ filius, *ABU BAKERUS ALSAID* appella-
 „ tus, miræ solertiæ Princeps, & in ad-
 „ ministranda republica eximius, si re-
 „ gnum pacatum nactus esset. Is quum
 „ milites ad Regnum *Tremiffenense* in-
 „ vadendum misisset; Duces, atque
 „ ejus Aulæ Proceres *MANSOREM SOLI-*
 „ *MANI* filium, virum probum jam na-
 „ tu grandem, Regem falutarunt; in-
 „ de *Feffam* profecti sunt. Illis restitit
 „ Regis *ABU BAKERI* Vizitus, acerrimè
 „ & constanter urbem propugnans.
 „ Inter hæc *ABRAHAMUS ABU SALEM,*
 „ *ABULHASSANI ALI BEN OTHMAN BEN*
 „ *JACOB* Regis filius, qui dudum ad
 „ *Castellæ* Regem profugerat impe-
 „ randi cupidus, ad portum *Tingita-*
 „ *num* appulit; dumque ibi littora per-

„ vagatur, *MANSOREM, SOLIMANI* fi-
 „ lium, rerum jam potitum esse famâ
 „ accepit. Illi tamen paruerunt *Gume-*
 „ *ræ, Selæ, Tingis, & Septæ* populi,
 „ aliique factiosi. Verùm de Principe
 „ *ABRAHAMO* jam actum fuisset, nisi
 „ *MANSORIS* partes ad ipsum descivif-
 „ sent. (a)

„ Quamobrem *MANSOR SOLIMA-*
 „ *NI* filius, sibi metuens, cum filio in
 „ *Bedis* montes secessit. Id ubi intel-
 „ lexit *ABRAHAMUS, Feffam* exercitum
 „ deduxit; eamque, illius nepote &
 „ *Viziro* devictis, tandem occupavit
 „ anno *Egiræ* 760. Christi 1358. fe-
 „ riâ 5. die 15. mensis *Schabani*. Ibi
 „ ille Rex salutatus, *MANSORE* ejus-
 „ que filio interfectis, regnavit ad
 „ diem usque XX. mensis *Dilcadat*.
 „ Nam tumultuante per ea tempora
 „ populo, procerum subsequitur de-
 „ fectio, & subita Regis fuga, qui
 „ prope urbem captus, ferro interiit.
 „ Sublato exinde ipsius capite & co-
 „ ram populo ostenso, frater, nomi-
 „ ne

(a) الملوك علي عهدہ بالمغرب السلطان الشهير امير المسلمين ابو عنان فارس ابن
 امير المسلمين ابي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق البعيد شـ
 والسعادة الي الرابع والعشرين من ذي حجة عام تسعة وخمسين وسبعماية وولي
 بعده ولده السعيد ابو بكر وكان في النبل والاسراك اية لوان الليالي امهلتـ
 ووجه الجيش الي تلمسان وفي اعلام قبيله ووجوه خاصته فاجمعوا علي تقديم منصور
 بن سليمان رجل خير قد افتتح سن الكهولة فبايعوه وا قبلوا الي مدينة فـ
 فتحصن الوزير واستبصر في المدافعة وصابر الحصار وتلاحق من الاندلس السلطان
 ابو سالم اجرهيم بن السلطان امير المسلمين ابي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب
 اجازته سلطان قشتاله لما فر اليه ونزل باحوار طنجة بعد ان عرض نفسه علي
 السواحل فوجد العبطة بمنصور بن سليمان قد حصلت والتقى اليه قبيل غمارة ودخلت
 في امره اصيلا وطنجة وسبتة وتوجهت اليه الحصص وضوئتي مخنقة لولا ان الله فصل
 الخطه بفرار القوم عن منصور بن سليمان ومنهم من صرف وجهه الي الامير ابي
 سالم

„ ne *Taschphin Abu Omar*, qui olim
 „ mente captus per Christianorum re-
 „ giones erraverat, Rex salutatur. Dum
 „ res tam miserè turbarentur, Prin-
 „ ceptus *Abu Mohamad Abdelhalim*,
 „ Regis *Abu Ali Omar* filius, Re-
 „ gisque *Abu Said Othman* nepos,
 „ ex Hispania in Africam trajecit, im-
 „ perandi fiduciâ : hinc ex urbe *Tre-*
 „ *misseno*, ubi confederat, profectus,
 „ urbem *Albam* (id est *Fessam*) Re-
 „ gum sedem multo milite oppugna-
 „ vit, die nimirum 6. Moharami an-
 „ no 763. (a)

„ Cives armis & viribus instructi,
 „ sic acriter adversus eum dimicarunt,
 „ ut ille prælio tandem superatus, in
 „ urbem *Tezam* (cujus meminit *Leo*
 „ *Africanus Lib. III. pag. 179.*) pro-
 „ fugere coactus sit. Ibi à suis excipit-
 „ tur; viribus deinde auctus, urbem

„ *Meknasam* expugnat, quam tuen-
 „ dam fratri ac nepoti tradidit. Eodem
 „ autem anno die 22. Saphari feriâ 2.
 „ Princeps *Abu Zaianus Meknasam*
 „ pervenit ex *Castella*, ubi diutiùs fue-
 „ rat commoratus, ab obsessis ad re-
 „ gnium jam pridem accitus. Qui ubi
 „ Rex salutatus est, Vizirum sibi dele-
 „ git *Omarum Ben Abdalla Ben Ali*
 „ *Aliabani*, virum magno rerum usu
 „ & bellica virtute conspicuum. Is, edu-
 „ ctis copiis, *Meknasam* adortur; ho-
 „ stes autem victi, terga vertere. Prin-
 „ ceptus similiter *Abu Mohamad*, qui
 „ in urbe *Teza* suas consulens vires,
 „ spem regnandi maximè alebat, in
 „ urbem *Segelmessam*, patris sui impe-
 „ rio olim subjectam, se recepit: ubi
 „ in præsentia dum huic operi finem
 „ facimus, versatur, Calendis videlicet
 „ Gemadi posterioris anno 763. (b)

„ *Tre-*

(a) وفر منصور بن سليمان وولده حايبراً لنفسه الي جبال بادس وذلحق السلطان
 ابو سالم جدار الملك فدخلها بعد خروج الولد ابن اخيه اليه ثم التزم يوم الخميس
 الخامس عشر من شعبان عام ستين وسبعماية واستولى له الامر واستحكمت
 الطاعة الي اليوم العشرين من ذي قعدة واثي اليه بمنصور بن سليمان وولده فقتلها
 صبراً وقيم عليه جرعة اخيه المختبل وفر الناس عن مضافة وزهب لوجه حايبراً لنفسه
 واتبع فجي به الي قريب من البلد وقتل واثي براسة واخذت علي الناس البيعة
 لـ اخيه ابي عمر قاشفين المتقدم اسارته وفساد عقلة ببلاد الروم واجاز البحر من
 الاندلس طالبا للامر الامير ابو محمد عبد الحكيم ابن السلطان ابي علي عمر ابن
 السلطان ابي سعيد عثمان واستقر بتلمسان ثم نازل المدينة البيضة دار الملك في
 سادس محرم من عام ثلاثة وستين وسبعماية

(b) وجرى اليه اهل المدينة في قوة وعدة فانهم بعد مصابرة وافلا واستقر بمدينة
 تيزا ملتفا عليه الكثير من قبيلة ثم تغلب علي مدينة مكناسة وشدها باخي
 وابن اخيه وقد كان محصوره طبروا الي بلد قشتالة مسترغيبين الامير ابا نزيان
 المستقر بها فوصل بعد مراوضة كبيرة يوم الاثنين ثاني وعشرين لصف من عام
 المذكور وتصير له الامر وصرف ابو عمر الي حاله الاولي من التزام البيت موكل

به

„ *Tremiffenensis* verò Regni Prin-
 „ ceps erat *ABU HAMU MUSA BEN ZA-*
 „ *IAN*, qui, *Marinis* cum *MANSORE*
 „ *SOLIMANI* filio, eorum Principe ex-
 „ pulsus, rerum ibidem potitus est;
 „ quique ad hunc usque diem feliciter
 „ regnat. *Africa* autem imperium te-
 „ net *ABRAHAMUS* Principis *ABI LAHIE*
 „ filius; *Castella* Rex *PETRUS*, Regis
 „ *ALPHONSI* filius, *HERANDI* nepos, &
 „ *SANCHII*, *ALPHONSI*, *HERANDI*, alio-
 „ rumque Regum circiter quadraginta
 „ nepos. Hic Regni Successor ad extre-
 „ ma patris tempora designatus, Rex
 „ post illius obitum salutatur, mense vi-
 „ delicet *Moharamo*, anno *Egira* 751.
 „ *Christi* 1350. Caterùm bello, quod
 „ adversus *Mahometanos* redintegrare
 „ in animo habebat, variis *Christiano-*
 „ rum discordiis, quæ etiamnum ar-
 „ dent, distentus, desistere coactus
 „ est. *Barcinonis* denique Rex (scilicet
 Tom. II.

„ *Aragonia*) *PETRUS ALPHONSI* filius,
 „ *BEN JACOB BEN ALHONSCH BEN PE-*
 „ *THRO*, ad cuius Regnum latè diffu-
 „ sum *Insulæ* sanè non pauca acce-
 „ dunt. *PETRUS Sardiniam* per ea tem-
 „ pora, infelici tamen marte, cum in-
 „ genti fuorum clade oppugnavit. *Ge-*
 „ *nuenses* verò navali prælio devicit. (a)

„ MAHOMETI

„ TEMPORIBUS GESTA.

„ Equidem eo imperante, totum
 „ quæ patet Regnum, pace fruebatur.
 „ Nihil idcirco gestum est, quod ho-
 „ minum memoriâ dignum haberi
 „ possit, præter rebellionem *Gibral-*
 „ *taris* urbis Præfecti, nomine *ISA*
 „ *EBN ALHASSAN BEN ABI MANDIL*
 „ *ALASCARI*, qui anno *Egira* 756.
 „ die 6. mensis *Dilcadat*, titulo Re-
 „ gis sibi arrogato, incolas quibus ad
 Rr „ au-

به وديرن الجيش الي مدافعة من بمكناسة لنظر الوترير مدرير هذه الرحا ومرييل
 هذا الدول المصنوع له في ذلك المهندي الي اقصي النبل فيه عمر ابن الوترير عبد الله
 بن علي اليباني فكان له الظهور وجرت علي من كان بمكناسة الهزيمة وانصرف
 علي اثر ذلك الامير الراتب جرباط تانري الي مدينة سجلماسة بلد ابيه لكونها مما
 دخل في طاعته وهو الان بها علي قاريخ الفراغ من هذا التقييد وهو غرة جمادي
 الثانية من عام ثلاثة وستين وسبع مائة ٥٦٠

(a) وبتلمسان الامير ابو حموا موسى بن نريان المستولي عليها عند انصراف بني
 مريين عنها صحبة اميرهم منصور بن سليمان المبايع بها وهو الان بها موصوف
 جرجاحة وسداد ٥٦٠ وياقريقية اجرهيم بن الامير ابي يحيي ٥٦٠ وبقشتالة بطره ابن
 السلطان الهونش بن هرانده بن شنجة بن الهونش بن هرانده الي الاربعين ولسي
 الملك علي اخريات ايام ابيه في محرم عام احد وخمسين وسبع مائة وعقد معه
 السلم علي بلاد المسلمين بعد وفاته وعمرت الروم فتنة شغلته الي هذا العهد ٥٦٠
 ودرجلونه السلطان بطره بن الهونش بن جايماش بن الهونش بن بيطره وهذا الطاغية ترجع
 الي ملكة الجزائر البحرية ومملكته غريضة ونازل علي عهد جزيرة سردانية وانقطع
 بها حتي هلك الكثير من اتمته وأوقع بالجنوبيين وقعة كبيرة بحرية ٥٦٠

„ auxilium omnis interclusus erat adi-
 „ tus , maximè afflixit , & metu incuf-
 „ fo , sibi adjungere studuit. Verùm
 „ populo ob avaritiam , perditosque
 „ mores invifus , & à fuis propterea
 „ destitutus , exorto tumultu qui acci-
 „ dit die 26. ejusdem mensis , ad ar-
 „ cem maximam confugit. Captus tan-
 „ dem cum filio *Septam* ducitur : ubi
 „ uterque , jubente Rege *ABU ANANO* ,
 „ sceleris pœnas fingulari & quidem
 „ crudelissimo supplicio luens , turpi-
 „ ter vitam finivit. (a)

„ *MOHAMETUS* ad solium evectus ,
 „ palatium Regiis ædibus proximum ,
 „ magnificum sanè , idemque om-
 „ ni commoditate præditum , *ISMAE-*
 „ *LIS* germani fratrumque ex pa-
 „ tre , atque novercæ ufibus desti-
 „ navit. Princeps quæ die Regis obi-
 „ tûs immensas collegerat opes , viam
 „ ad solium filio sternere *SOLIMANO*
 „ cœpit. Itaque filiam , quam Pater

„ Principi confanguineo *ABU ABDALLÆ*
 „ in matrimonium dederat , amicitia
 „ specie frequens adibat. Cujus tan-
 „ dem operâ & arte generum pertra-
 „ xit in sententiam : adeo ut ille , qui
 „ Regnum jure sanguinis ambiebat ,
 „ complurium etiam Regni appeten-
 „ tium adjutus viribus atque audaciâ
 „ armatus , rem aggredi constituerit.
 „ Quamobrem ex lociis viri certum ,
 „ altiore Arcis partem scalis machinif-
 „ que admotis , occupant : ubi tene-
 „ bris faventibus latuere ad gallicinium
 „ usque noctis 28. Ramdani , anno
 „ 760. Inde cum facibus & clamoribus
 „ in conspectum prodeuntes , Viziri
 „ domûs fores effregerunt ; atque in-
 „ trò irruentes , opibus direptis , il-
 „ lum unâ cum filio , ac domesticis
 „ interfecerunt. Mox gener militum
 „ manu instructus , *SOLIMANUM* edu-
 „ xit ; & equo vectum , pulsato tym-
 „ pano , Regem salutavit. (b)

„ Rex

(a) بعض الاحداث في ايامه ٥ كانت ايامه هادنة قليلة الحوادث متسرلة الامن
 فلم يقع فيها كبير متسطر الا ما كان من لحاق عيسى ابن الحسن بن ابي منديل
 العسكري بجبل الفتح وهو رييسة المخصوص به من لزن فتحة واظهاره الخلاق
 والامتناع سادس ذي قعدة من سنة وخمسين وسبعماية فضافت الصدور وسات الطنون
 لتوقع الفاقرة باسداد باب الصريخ وانبتات النصره الا ان الله تدارك بفضله فتاربه
 في الخامس والعشرين من الشهر اهل الجبل ودرا لهم في الامر لقبض يده عن
 العظيمة وسو السيرة وصاح به صايح البوار فخذله اشياعه واعتصم بالبرج الاعظم واحيط
 به فالقي باليد وقبض عليه وعلي ولده وجودر به الي سبتة فاغري بهما السلطان ابو
 عنان خليف الصنع سو القتل وشنيح المثلة ٥

(b) الحادثة عليه كان عند تصير الامر اليه قد الرم اخاه اسماعيل قصرا من قصور
 ابيه بجوار قصره مرفها عليه متممة وظيفه واسكن معه امه واخواته منها وقد
 استاثررت يوم وفاة ولده بمال جم من خزانته الكاينة في بيتها فوجدت السبيل الي
 السعي لولدها فجعلت توصل نريارة ابنتها التي عقد لها الوالد مع ابن ابن عمه
 الرئيس ابي عبد الله وشمر الصهر المذكور وهو ما هو من الاقدام ومداخلة نوديان
 الرجال

„ Rex autem *MOHAMETUS* ejus
 „ frater , qui tunc temporis in viri-
 „ dario animum cum filio relaxabat ,
 „ clamoribus , tympanorumque strepi-
 „ tu exterritus , arcem ingredi festi-
 „ nat : quam dum occupatam depre-
 „ hendit , vi sagittarum compellente ,
 „ gradum referre cogitur. Hinc gene-
 „ rosissimum , quem ad manum per-
 „ summam Dei providentiam habe-
 „ bat , conscendens equum , additis
 „ calcaribus , periculo se eripuit ; irri-
 „ tosque adeo infectantium conatus
 „ effecit. Mane tandem ad urbem *Gua-*
 „ „ *dix* , Præfecto nihil tale expectante ,
 „ pervenit : ubi à civibus amicè ex-
 „ cipitur , commatu Rege digno &
 „ palatio militibus ad custodiam instru-
 Tom. II.

„ cto. Tyrannus interim frater pacem
 „ cum *Castella* Rege sancire conatur :
 „ quam facile quidem ab eo , utpote
 „ *Barcinonensibus* inimico , impetravit.
 „ *MOHAMETUS* verò etsi incolas ab eo
 „ stare planè jam noverat ; suis tamen
 „ viribus parum fretus , Legatis ad Re-
 „ gem *Fessa* die 1. Scheuali missis ,
 „ auxilium ab eo implorat : quod
 „ eodem & tempore à Christianorum
 „ Rege frustra petiit. Quare die 10.
 „ *Dilhagiat* , multo equitum peditum-
 „ que agmine comitatus , *Marbellam*
 „ urbem contendit ; inde die 6. *Mo-*
 „ „ *harami* , anno *Egiræ* 761. ineunte
 „ *Fessam* splendido cum apparatu ad-
 „ venit. (a)

„ Ibi postquam menses aliquot

Rr 2

„ con-

الرجال عن ساعد جده وراش وجرأ وأستعان بمن أسفنته الدولة وهفت به الأطماع فتألف منهم
 نرما مائة قصدوا جهة من جهات القلعة متسنمين شفي صعب المرتقي واتخذوا التة
 قدر ك نروته لفعود بنبة كانت به عن التمام وكبسوا حرسيا باعلاه بما اقتضى
 صماتة فاستروا به ونزلوا الي القلعة سحور الليلة الثامنة والعشرين من رمضان عام
 ستين وسبعماية فاستظفروا بالمشاعل والصراخ وعالجوا دار الحاجب ففضوا اغلاقها
 ودخلوها فقتلوه بين اهله وولده وانتهبوا ما اشتملت عليه داره وامرعت طايفة مع
 الرئيس الصهر فاستخرجت الامير المعتقل اسماعيل واركبته وقرعت الطبول ونودي
 بدعوته

(a) وقد كان اخوه السلطان متحولاً بولده الي سكني الجنة فما راعه الا النرا
 والعجيج واصوات الطبول وهب الي الدخول للقلعة فالقاعا قد اخذت دونه شعابها
 كلها ونقابها وقد فتته الحراب ورشقتة السهام فرجع ادراجة وسرده الله في محل
 الجبرة ودس له عرق الفحول من قومه فامتطي فهرة فرس كان مرتبطا عنده وسار
 لوجهه فاعى المتبع وصبح مدينة وادي اش ولم يشعر حافظ قصبته الا به وقد تولج
 عليها بها فالنق به اهله واعطوه صفقتهم بالذب عنه فكان املك بها وتجهت
 الحشود الي منازلته وقد جرد اخوه المتغلب علي ملكة عقد السلم مع طايفة
 قشتالة لاحتياجة الي سلم المسلمين بحرا فتنه بينه وبين البرجلونيين واغتبط به
 اهل المدينة ورضوا بهلاك نعمتهم دونه واستمرت الحال الي يوم عيد الفطر من عام
 التاريخ ووصله رسول ملك المغرب مستنزلا عنها ومستدعيا الي حضرته كما عجز

„ confederat , ad spem recuperandi
 „ Regni à Castellæ Rege excitatus,
 „ anno 762. feriâ 7. die 17. Sche-
 „ uali (scribendum die 19.) in Hispa-
 „ niam rediit , Ronda , ubi nunc mo-
 „ ratur , locorumque adjacentium Prin-
 „ cipatu contentus. (a)

„ ISMAEL JOSEPHI Regis filius &
 „ ISMAELIS nepos , formâ , cum puer
 „ esset , excellentissimus , qui , fra-
 „ tre MOHAMETO expulso , Hispa-
 „ niæ Regnum occupavit. Is è car-
 „ cere emissus , patri de pinguedine
 „ percunctanti respondisse fertur : *Ut*
 „ *Regis mensa hospitem , ita sanè tua*
 „ *me vincula pinguem effecere.* Princeps
 „ erat & facie & staturâ insignis ;
 „ mollis tamen & effæminatus , volup-
 „ tatibusque ultra modum indulgens ,
 „ otio item & mulierum contuber-

„ nio deditissimus , proindeque parum
 „ vir , & ad Rempublicam regendam
 „ ineptus planè. Adnitente ipsius pa-
 „ tris patrueli fratre , & genero nomi-
 „ ne *ABU SAID* , Regnum obtinuit.
 „ Sed statim ac Rex pronuntiatus est ,
 „ idem *ABU SAID* , arrogato sibi impe-
 „ rio , civium fortunis atque spoliis sua-
 „ rum partium fautores sibi conciliare ,
 „ *ISMAELEM* verò acerbiùs tractare ac
 „ fervilem in modum habere cœpit ,
 „ nulla vel dignitatis , vel modestiæ pie-
 „ tatisve habita ratione. Quamobrem
 „ ejus & Regnum & vita brevi tem-
 „ pore , ut suo loco dicturi sumus ,
 „ extincta est. (b)

„ Porrò *ISMAEL* ipso quo folium
 „ infedit die , Vizirum sibi delegit *MO-*
 „ *HAMETUM BEN ABRAHIM BEN ABIL-*
 „ *PHATH ALPHAHRI* , qui paulò post
 „ ab

عن امساکها وراسل ملک الروم فلم یجد عنده من معول فانصرف ثانی یوم عی-
 النحر المذكور وتبعه الجمع الوافر من اهل المرینة خیلا ورجلا الی مربلة وكان
 وصوله الی مرینة فاس مصحبا من البر والكرامة بمالایزید علیه فی السادس من
 شهر محرم فاتح احد وستین وسبعماية ١٠

(a) وفي صبیحة یوم السبت السابع عشر من شهر شوال عام اثینین وستین وسبعماية
 كان انصرافه الی الاندلس وقد الح صاحب قشتالة فی طلبته وخرج الی الی الی
 قصره وهو الان مستقل برندة وجهاتها ١٠

(b) اسماعیل بن یوسف بن اسماعیل اخوة المتصیر الیه الملك بعهه بالاندلس حاله
 كان فتی وسیما مرتبا علی حرارة سنة وقد ساله الحاج عن سمنه وهو مجنوب الیه
 من سجنه فقال القید والرعة ومن یک ضیق الامیر یسمن حسن الصورة والقدر جمتنا
 مصعوقا لمكان الاعتقال ومجاورة النسا منخطا فی نرك اللذة قاصر الهمه علی حیا
 ودمائة قام بامرہ ابن عم ابيه واقعدہ الاربیکة وضم له الرجال فلما استوثق الامر
 اعتر بمن لظفره واستجلب لهم الفوائد وسوفهم المناهب واستغلط ما شا وانخط له فی
 رتبة الحرمة والنصیحة واسر الحسر فی الارتغا ولم یوفق الله هذا الامیر لمراعاته
 وایجاب ما تستسقي به حشمته وساما بینهما من غیر حذر یوخذ الاتقیة تستشعر
 فانکرر سریعا نجمة وسطا به سطوة شناعا حسبما یتقرر فی وفاته فمضي لسبیلہ ١٠

ab illius interitū per fraudem occi-
sus est. Ferunt enim *ABU SAIDUM* re-
rum potitum *MOHAMETO* jam Vizi-
ro primò eundem honorem confir-
malie ; deinde conficto proditiōnis
crimine, quod litteras scilicet adulteri-
nas ad *Africae* Regem misisset, illum
etsi plenissimè purgatum, unā cum
fratre patrueli, tribusque eorundem
filiis ad aquas damnasse. Quare nul-
lā interpolatā morā, vincti ad ur-
bem *Almuñecar* trahuntur ; ibique
submersi, omnes miserè perierunt.
Habuit etiam à Libellis *ABU MOHA-*
METUM ABDELHAC BEN ABI ALCAS-
SEM BEN ATHIA ALMAHARBI ad obi-
tum usque ; Judicem verò *ABU BA-*
KERUM AHMAD BEN MOHAMAD BEN
GLAZI, nobilissimum *Granatensem* ;
quo dimisso, praefecit *ABULCASSE-*
MUM SALMONEM BEN ALI, virum Ju-
ris scientiā excultissimum. Regiarum
denique copiarum Duce ulus est
eodem qui, fratre Rege, illius praefu-
erat exercitui. (a)

„ *ABU SAIDUS* autem *ISMAELIS* ge-
ner supra dictus, Regium nomen
exofus, ab ejusdem *ISMAELIS* fide

defecit ; eumque sic militum info-
lentium operā vexavit, ut ad necem
etiam quarere instituerit. Itaque re-
cum Vizi-ro nomine *MAURO*, suorum
consiliorum sermonumque conscio
communicata, mox coacto equitum
peditumque agmine, Regias aedes
circumsedit, Regemque nec opinan-
tem adortus est, feriā nimirum 7.
die 26. mensis Schabani anno 761.
Tum *ISMAEL* sibi metuens, fugam
parat ; atque illico in arcem muni-
tissimam, quae urbi imminet, cum
parva tyronum militum manu se re-
cipit, Cives, viribus alioquin impa-
res, ad arma in auxilium vocans ;
qui ubi accurrere, cum hoste in
aciem audacter descendit. Victum
ISMAELEM captumque *ABU SAIDUS*
de ingrati animi nota in primis ar-
guit ; deinde eum nudari, deligari &
in carcerem cum sceleratissimis ho-
minibus detrudi jussit, tandemque
interfici. Adsunt continuo milites stri-
ctis ensibus ; caput amputatur ; sta-
timque defensoribus ostentatur : quod
ex illis unus, apprehenso capillo qui
prolixior erat, humero suspensum

„ ab-

(a) وزير او قدم للوزارة عشي يوم ولايته محمد ابن ابراهيم بن ابي الفتح الفهري
فاصلت ايامه الي اخر ايام اميره القصيرة واعمل عليه التدبير مع مبيره نزعوا من
غير جريرة فلما تم عليه التدبير قام للمتولي بعده برسم الوزارة اياما من شهر
رمضان واتهم واحتج عليه بكتب في مخاطبة سلطان المغرب تبرأ منها فلم يقبل
عذره ولا اقال عثرته وتقبض عليه وعلي ابن عمه وثلاثة من ولدهما فبعثوا علي الظهر
الي ساحل المنكب فاغرقوا به جميعا كتابه استنقل بالكتابة عنه الفقيه ابو
محمد عبد الحق بن ابي القاسم بن عطية المحاربي الي اخريات ايامه قضاة
قولي له خطة القضا ابو بكر احمد بن محمد بن جزري من وجوه الحضرة ثم صرفه
عن الخطة وقدم لها ابا القاسم سلمون بن علي من شيوخ قضاة الاندلس الي اخر
مرته شيخ الغرارة علي عهده شيخ الغرارة علي عهد اخيه فاستمر علي ولايته بقية
ايامه

„ abstulit. Subsequitur exinde fratris,
 „ quem habebat natu minorem , no-
 „ mine *CAIS* , cædēs fœdissima. Eorum
 „ postremò corpora obsoletâ veste co-
 „ operta , sub dio quoad computresce-
 „ rent , invisæ immanitatis spectacu-
 „ lum , jacuere. (a)

„ Rebus his ex sententia patris,
 „ *ABU SAIDUS* omnium mortalium ne-
 „ quissimus , summè perfidus , subdo-
 „ lus , infidus , ac planè vesanus , Re-
 „ gium , nullo resistentē , sumisit or-
 „ natum. Verùm non multò post con-
 „ tractis propter *MAHOMETI* Regis ju-
 „ ra cum finitimis *Africa* & *Castella*
 „ Regibus inimicitiis , turbato etiam
 „ ob ejus insolentiam Regno , ad *Ca-*
 „ *stella* Regem confugere statuit. Nam
 „ ex quo ille *Malacam* Regi *MAHO-*
 „ *METO* paruisse acceperat , metu per-
 „ cussus est : quem & amicorum de-
 „ fectio , & rei nummariæ difficultas
 „ per id temporis quàm maximè au-
 „ xit. Quare *Castella* Regem adire in-
 „ consulte decrevit Regio cum appa-

„ ratu & gaza , item fortissimorum
 „ equitum manu , ratus pretiosissimis
 „ muneribus amplisque promissis il-
 „ lum sibi devincturum , & auxilia
 „ quoque adversus hostes Arabas ab
 „ eodem se impetraturum. *Castella* Rex
 „ *ABU SAIDUM* blandis verbis excepit ;
 „ deinde habito de illius re cum Prin-
 „ cipibus consilio , eundem ad Regni
 „ quietem è medio tolli fatius duxit,
 „ odio in primis & illius opes adipiscen-
 „ di cupiditate inflamatus. Unus igi-
 „ tur ex militia Ducibus , cui nego-
 „ tium à Rege datum , illius comi-
 „ tes in arce , ubi hospitio erant ex-
 „ cepti , adortus , per insidias occidit.
 „ Quorum postea cæde in urbe di-
 „ vulgata , Rex *Castella* *ABU SAIDO*
 „ sua manu necem intulit. Cætero-
 „ rum verò sublatis in arce capitibus
 „ cadaveribusque in unum locum ad
 „ exemplum projectis , *MAHOMETO* Re-
 „ gi *Rondam* nunciavit , *ABU SAIDUM*
 „ interfectum esse. (b)

„ Quamobrem *MAHOMETUS* , Re-
 „ gno,

(a) وثار به ابن عمه ابو سعيد وقد اوحشته وتذكر له ومع ذلك فهو مقدر له بجوارحه
 غاصة قلعتة من فرسانه ورجاله فكبست يوم السبت ليلة السادس والعشرين من
 شعبان عام احد وستين وسبعماية وقد استركب فرسانه واستنجد رجاله وداخل
 وزيرة وحافظ بابه وامين سرته يعرف بالموري واعتبل غرقه وهو متبذل فسي
 بعض قصوره فاحاط به ولجا امامه الي برج عظيم مظل علي البلد واستجار بالناس
 ومعه لمة من الاحداث فاندحاش الي ماتحت ذلك الصرخ خلق لاحيلة لهم الي نصره
 ثم القي باليد ونزل طامعا في العود الي الثقاف الذي الفه فتفرعه ابن عمه ووقفه
 علي نزوبه اليه وكفران سعيه ثم امر بثقافة فذهب الرجال به الي طبق ارباب
 الجرايم حافيا حاسرا ولما استقر بالاري حيث الطبق اشير بقتله فتعاورته السيوف
 لحينه ودودر بحز مراسة وطرحه الي الناس الذين حفوا للتموية بنصره فاحتمله بعضهم
 بمعلق ضعيرة شعر جثل كان يرسلها بين كتفيه والحق به اخوه الصبي الصغير
 قيس وطرحت جثتها بالعرما مغطاة باسمال الي ان ووردا فكان في امرهما عبرة نية
 (b) واخذ البيعة لنفسه فلم يختلف عليه احد وكان هذا المشوم اخبت نسمة زواها

الله

„ gno, Deo favente, recuperato, *Grana-*
 „ *tam* Regiam urbem ingreditur ho-
 „ ris meridianis feriæ 7. die 20. Ge-
 „ madi posterioris, anno Egiræ 763.
 „ Adnitentibus tamen ea tempestate
 „ improbis quibusdam militibus, Prin-
 „ cept *ALI BEN ALI BEN AHMAD BEN*
 „ *NASSER* arma adversus illum capit:
 „ quem *MAHOMETUS* Dei ope adjutus,
 „ facile vicit, atque profligavit. *MA-*
 „ *HOMETUS* autem etiamnum in Hi-
 „ spania regnat, ad annum videlicet
 „ usque Egiræ 765. incuntem, quo
 „ Chronologiæ hujus, quam peren-
 „ nem fontem verè dixeris, finem fa-
 „ cimus. Ceterum qui plura scire per-

„ velit, hanc consulere non pigeat Hi-
 „ storiæ, quæ *Analecta* inscripsimus.
 „ At hæc & cætera quæ litteris man-
 „ davimus, meliora reddat Deus. (a)

FRAGMENTUM HISTORIÆ HISPANÆ.

Quod hic subnectere libuit Fra-
 gmentum, ejus (si conjectare liceat)
 videtur auctor esse *RAZÆUS* vulgò *RA-*
SIS, tertii Egiræ sæculi scriptor. Id-
 que inde colligo, quod hujusmodi
 Fragmentum incipiat à nomine *AHMED*,
 quod ejusdem *RASIS* præcipuum est;
 Au-

الله من التراب لا غاية في المكر والخديعة والجنون وسو العقد وختر العهد واملي
 الله له بظهور اتيج علي العدو وسا تدبيره في معاداة من يجاوره من ملكي
 المغرب وقشتالة بما اقتضي انجانر وعد السلطان صاحب الحق فتمالا المكان علي
 جبره واعادته الي دار ملكه ^{١٠} ولما دخلت مالقة بدعوة السلطان محمد وداغ
 الخبر عدوه فاضطرب امره واختل تدبيره وقد نفذ ماله وسيمته وجيرته فاقترض رايه
 الفايل وغيره الرايل ان صرف وجهه الي صاحب قشتالة متطارحا عليه طامعا في
 الكرة من قبله وان يستظهر به علي المسلمين واستصحب ذخيرة الملك وعدته
 وشوكة جادة من الفرسان واعمل الطاغية الامرا في امره فترجح عنده قتله طمعا
 في ما بيده وراحة لبلاده من شر شرده منه ومطوقا اليد لولي سلمه به فاستخلص من
 دعوته الطاغية التي تسورت السور واقتمعت القلعة فقتلهم بعد ان شهرهم في
 مدينته وتولي قتل سلطانهم بيده وتركهم في صعيد واحد عبرة للمعتبرين ونصب
 روسهم علي المكان الذي تسوروا منه البلد وثم طير الي السلطان وهو بمالقة
 بالخبر ^{١١}

(a) ودخل البلد وعاد الي دار ملكه تحت عناية الله ظهر يوم السبت الموفى
 عشرين لجمادي الثانية من عام ثلاثة وستين وسبع مائة وثار عليه في الحضرة
 بممالات اشرار من جنده علي بن علي بن احمد بن نصر الشيخ الزمن فاظفره الله
 به وهو الان امير المسلمين بالاندلس الي حين الفراغ من التاليف وهو اخر محرم
 فاتح عام خمسة وستين وسبع مائة ^{١٢} وهذا الكتاب عيون وذكوت وممن اراد
 الاستقصا فعليه بكتاب نفاضة الجراب من تاليفنا والله يحسن ^{١٣}

Auctores siquidem Arabes sua nomina suorum operum exordiis præfigere confuescunt.

„ Dixit Ahmedus Christia-
 „ nis jam fufis , interfectoque RODE-
 „ RICO , TUDEMIRUS in ejus locum suf-
 „ fectus , cum reliqua exercitûs parte
 „ in Orclis planitiem , locum omni-
 „ no patentem secessit. Hos conspicati
 „ Arabes irruunt , ac plerosque cæ-
 „ dunt. Quo facto TUDEMIRUS sibi ab
 „ Arabibus metuens , urbem Orce-
 „ lis cum paucis ingredi coactus est.
 „ Quum autem se viribus virisque im-
 „ parem cerneret ; fœminas cum mili-
 „ tibus hastis armatas , passis capillis
 „ per muros astu disposuit ; mox in-
 „ de egressus , conficito Legati nomine,
 „ de urbis tradendæ conditionibus agit,
 „ pacemque à Mahometanis & securi-
 „ tatem impetrat. Suum deinde pro-

„ fessus nomen , Arabas in urbem
 „ inducit. Hos comperto quàm parva,
 „ quàm invalida intus esset manus, pa-
 „ ctionis confectæ pœnituit ; à qua
 „ tamen recedere nefas arbitrati. Hinc
 „ non exigua exercitûs pars Toletum
 „ petiit, quod jam TAREKUS BEN ZA-
 „ IAD occupaverat, pulsus Gothis omni-
 „ bus illius incolis, collocatisque ibi-
 „ dem Arabum præfidiis, ut unà cum
 „ eodem TAREKO urbem Guadalxa-
 „ ram expugnaret. Qua captâ, redux
 „ TAREKUS exercitum per viam am-
 „ plam duos inter montes patentem,
 „ ejus de nomine postea appellatam,
 „ ad urbem Medinat Almaida, trans
 „ montem sitam pergit. Inde in ur-
 „ bem Amayam profectus, immen-
 „ sas ibi opes, vimque auri maxi-
 „ mam invenit ; Toletum postremò
 „ repetiit. (a)

NO-

(a) قال احمد كانت الكفرة عليه فانهم العليج بجنده في فحص اوربولة بموضع
 لا يستتر فيه منهمم الا فضحتة السهول والرمال فركب المسلمون ظهورهم فيه وقتلوهم
 وافنوهم ودخل العليج اوربولة في نفر يسير ممن بقي معه فلما راي انه لا طاقة له
 بالمسلمين لما لم يبق من رجاله الا يسير تحييل ووافق النساء علي الاسوار مع بقية
 الرجال واعطاهن القصب وامرهن بكشف شعورهن وخرج هو الي عسكر
 المسلمين كانه رسول لتدمير ومن معه فتحيل واخذ الامان والعهود ومصالح الجيش
 علي الطاعة فلما استوثق لنفسه اعلم المسلمون انه تدمير وسار معهم وادخلهم
 اوربولة فلما دخلها المسلمون وراوا قلعة من فيها وانهم ماكانت لهم طاقة بمدفع
 تدمروا علي المصالحة وقد كانوا اعطوا العهود فلم يقدروا علي النقض ونهض بعض
 الجيش الي طارق بن زياد الي طليطلة بالفتح وقد كان ادخلها واخلاها من كل
 من كان فيها من الاعلاج ولحقوا بمدينة خلق الجبل يقال لها مايدة طارق
 واتبعهم وادخل بطليطلة رجلا من اصحابه فسلك الي وادي الحجارة ثم استقبل
 الجبل فقطعه من فج يسمى بفتح طارق وده سمي فبلغ مدينة خلق الجبل تسمى
 مدينة المايدة لانه وجد فيها مايدة سليمان وكانت من زبرجدة خضرا حافاتها
 وارجلها منها ثم مضى الي مدينة مايدة فاصاب بها حليبا كثيرة ونهبها عظيما ثم
 رجع الي مدينة طليطلة

Esto está tomado de sus folios de diferente orden, enviados al cabildo 1654 del 21 de
 mayo, que contiene una carta de Abu Alabbas - Verde sobre

N O T A.

Medinat Almaida sic dicta, quòd *Salomonis Mensa* ex solido smaragdo ibi reperta sit.

„ Postquam autem *MUSA NASSIRI* filius *TAREKUM BEN ZALAD* Hispaniam subegisse anno Egiræ 92. Christi 710. (alii addunt feriâ 5. die 8. Ragebi anni 92.) accepit; invidiâ motus, suffecto ex filiis uno, qui in Africa vicem Regis impleret, cum reliquis tribus filiis *ABDELAZIZ*, *ABDELALA* & *MARUAN*, cui tùm Palatii ad ripam fluminis occidentalem positi, tùm pontis adscribitur extructio, iter in Hispaniam prope-
ravit decem millibus hominum stipatus. Hos inter *Coraisitarum* Arabum Primores enumerantur *ALMONAIZIR*, *ALI BEN RABAH Lakhamita*, *HAUJAT BEN RAGIA Altamamita*, atque *HANASCHIUS BEN ABDELLA Alfananita*, qui fanum *Cesarangustanum* condidisse traditur.....
Itaque trajecto mari *Algeciram* ap-
Tom. II.

„ pulit mense Ramdano, anno 93. Christi 711. Et à Christiano quodam locorum perito, qui urbes *Nieblam*, *Bejam*, *Ecijam*, *Meridam*, aliaque oppida à *TAREKO* nondum expugnata ostendit, omnia edoctus, castra prope *Hispalim* posuit: quam post mentem unum ad ditionem compulit. Constitutis ibidem cum Duce Arabum præfidiis, *Meridam*, Regiam olim sedem, simulque urbem munitissimam contendit. Quum verò diu esset strenuè utrinque dimicatum; milites equitesque secretiores montis vias per noctem emensi, hostes, qui in aciem venire solebant, prima luce aggressi sunt: quorum non pauci interfecti, alii fugâ salutem in urbe quæsierunt. Cæterum in hujusce urbis obsidione, quam *MUSA* in menses aliquot produxit, magna Mahometanorum pars ab arcis latere impetita cecidit: unde arx illa *Martyrum Castellum* appellata. (a)

„ Inter hæc Christiani obsessi,
Ss „ bello

(a) ولما افتتح طارق بن زياد الأندلس في سنة اثنتين وتسعين من الهجرة حسده [قال أحمد] موسى بن نصير فاستخلف أحد بنيه علي أفرينجية ودخل معه الأندلس ابنه عبد العزيز العزيرز وابنه عبد الأعلى وابنه مروان الذي كان ينسب إليه بلاط مروان الذي بغرب قرطبة وعلي نهرها ودخل معه من قريش والعرب ووجوه الناس مثل عشرة الاف ودخل معه من الصحابة والتابعين واحد يقال له المنيزير وعلي بن رباح اللخمي وحيوة بن رجا التميمي وحنش بن عبد الله الصنعاني وحنش هذا الذي أسس لاهل سرقسطة محراب الجامع..... [وجازر البحر] وحل بساحل الأندلس في الغرب منه في الجزيرة في رمضان من سنة ثلاث وتسعين فطلب دليلا من العجم يرده علي بلد [ان لم يدخلها طارق فرده علي لبلدة وباجة وخشوثية وماردة فهض موسى الي مدينة اشبهلية ففتحها بعد مقاتلتها شهرا وخلق فيها جماعة من المسلمين مع قايدين لهم وصار منها الي ماردة وكانت دار الملك من قواعد الملوك الاوادي فقاتلها موسى مرة وكانت حصينة فلما انجلت الحرب طاق بها موسى فـراي نغبا كان لمقاطع الصخر فكمن فيه الرجال والخييل ليلا فلما اصبح نهض اليهم للقتال

بلس بالاندرلس

قال احمد

من الـ

„ bello jam fracti , Legatos ad *Mu-*
 „ *sam* de pace miserunt. Ii autem col-
 „ loquio impetrato , virum cernunt
 „ candidam barbam gerentem , quam
 „ paulò post rubram pulveris cujuidam
 „ ope (Arabes *Henna* , Hispani *Albe-*
 „ *na* vocant) postero demum die ni-
 „ gram admirati sunt. Rem Legati
 „ in urbem reversi civibus nunciant ;
 „ eosque ita alloquuntur. *Potestisne*
 „ *adversus Duces pugnare qui senectute-*
 „ *tem , ut libet , exuunt ? Videmus enim*
 „ *eorum Principem modò senem juvene-*
 „ *scere. Quare ejus postulatis , si vestrae*
 „ *salutem consultum velitis , quam citis-*
 „ *simè obtemperandum.* Convenit igitur
 „ utrinque Pax in has conditio-
 „ nes : ut eorum scilicet bona , qui in
 „ prælio nuper occubuerant , aut in
 „ Gallæciam incolumes effugerant ; tum
 „ etiam Tempia eorumque ornamen-
 „ ta Mahometanis cederent. Quibus
 „ ritè fancitis *MUSA* , apertâ urbis por-
 „ ta , ingressus est die 1. Scheuali , an-
 „ no 93. (a)

„ *MUSA* in *Merida* obsidione

„ distento , Christiani qui *Hispani* erant ,
 „ captis armis , milites Arabum præ-
 „ fidiarios ferè triginta occiderunt ; re-
 „ liqui arreptâ fugâ , ad *MUSA* castra
 „ transiere. Is , nuncio accepto , ex-
 „ pugnata *Merida* urbe filium *ABD-*
 „ *ELAZIZUM* cum exercitû *Hispanim*
 „ misit , quam is , bona civium par-
 „ te interfecta , iterum subegit. *MUSA*
 „ prælio expeditus , iter *Toletum* aggre-
 „ ditur. Id *TAREKUS* ubi rescit , ho-
 „ noris & salutis causâ obviam illi
 „ procedit. Uterque in locum prope
 „ *Talabricam* conveniunt , simulque
 „ *Toletum* petunt. *MUSA* autem , ut
 „ pervenit , *TAREKUM* de mensâ per-
 „ contatur : quam quum in medium
 „ allatam , uno carentem pede *MUSA*
 „ animadvertisset ; *ubi ejus* , inquit ,
 „ *pes ? Cui TAREKUS ; prorsus nescio ,*
 „ *talem illam reperi.* Tunc *MUSA* ira-
 „ rum plenus , virgis , eum ut ferunt ,
 „ ad aliorum exemplum , cædi jus-
 „ sit. Postea tamen in citeriore *His-*
 „ *paniâ* subigendâ eundem ut amicum
 „ & comitem adhibuit. Mox verò

„ Cæ-

للقتال علي العادة فخرجوا كهية خروجهم في الايام قبله وانتشروا فركبهم
 المسلمون وخرج عليهم ذلك الكمين فقتلوا اصرح قتل ونجا بمن نجا الي المدينة
 فقاتلها اشهرا وكانت علي المسلمين في جهتها ردة في جهة برج من اجراجها
 استشهد فيها جماعة من المسلمين وسمي ذلك البرج برج الشهداء

(a) ودعت الاعلاج رسلنا الي موسى بالصلح فلما دخلوا عليه راوه ابيض اللحية فلما
 كان تلك الليلة صبغ لحيته بالحناء فاحمرت فلما دخلوا عليه يوما ثانيا عجبوا منه
 ثم دخلوا عليه ثالثا راوه ولحيته سودا فعجبوا منه ورجعوا الي المدينة وقالوا لمن
 فيها وديكم انما تقاتلون امرا يتخلفون كيف شاؤا ويتشبهون بعد المشيب قد
 عاد ملكهم حدثا بعد ان كان شيخا انهبوا فاعطوه ما سال ان اردتم الغلاص
 وانعقد الصلح بينهم علي اموال القتلي يوم الكمين واموال الهاربين منهم الي
 جليقية واموال الكنايس وحليها للمسلمين ثم فتحو له الباب فدخل المدينة يوم
 الفطر مستهل شوال من سنة ثلاث وتسعين

„ *Cesaraugusta* cum reliquis locis ad
 „ eam jure pertinentibus , duce *Mu-*
 „ *SA*, obsidetur, & obsessa capitur. (a)

„ Itaque *ALVALIDUS ABDELMA-*
 „ *LEKI* filius , jam ea tempestate Im-
 „ perator , delato ad ipsum diffidii *TA-*
 „ *REKUM* inter & *MUSAM* exorti nun-
 „ cio , utrumque ad se vocari jus-
 „ sit. *MUSA* idcirco *ABDELAZIZUM* fi-
 „ lium in suum locum *Hispani* suffe-
 „ cit , qui cum *HABIBO EEN ABI*
 „ *OBAIDA BEN ACBA BEN NAPHE AL-*
 „ *PHAHRI* collegâ designato , Hispaniæ
 „ rebus præflet , & reliquas ejus ci-
 „ vitates armis subjiceret. His ita con-
 „ stitutis , in *Syriam* profectus est , qua-
 „ dringentis viris Hispaniarum princi-

Tom. II.

„ pibus , aureo diademate , cingulis
 „ item aureis Regium in morem or-
 „ natis, comitatus. Quumque jam *Dama-*
 „ *scum* propius accessisset ; nuncia-
 „ tum illi fuit *ALVALIDUM* gravissi-
 „ mo morbo laborare , ex quo paucis
 „ quidem post diebus interiit. Quam-
 „ obrem *SOLIMANUS ALVALIDI* frater
 „ & successor ad *MUSAM* scripsit ut
 „ diutiùs ibidem moraretur , suumque
 „ in urbem ingressum in ejus Imperii
 „ tempora differret. At quum illi mo-
 „ rem gerere abnuisset , urbemque
 „ ante *ALVALIDI* obitum ingressus ef-
 „ fet ; *SOLIMANUS* illi quàm maximè in-
 „ fensus esse cœpit. (b)

„ *MUSA* igitur, ubi *Damascum* per-

Ss 2

„ ve-

(a) وكان العجم باشبيلية قد ثاروا علي من كان تخلف بها موسى لشغله بحصار
 ماردة فقتلوا من المسلمين نحو ثلاثين رجلا وفر من بقي من المسلمين الي
 عسكر موسى فاخبروه فلما افتتح موسى مدينة ماردة بعث ابنه عبد العزيز بجيش
 الي اشبيلية فافتتحها وقتل من اهلها كثيرا ونهض موسى من ماردة الي طليطلة
 وبها طارق فخرج اليه معظمه ومسلما عليه فالتقي معه بمقربة من مدينة طليطلة
 ورجع مع موسى الي طليطلة فلما وصل موسى قال لطارق احضرنى المائدة فاتاه
 بها ناقصة رجل من ارجلها فقال له موسى اين هذا الرجل فقال لاعلم لي هكذا
 وجدتها وقيل انه عذبه علي ذلك وضربه بالسياط وبلغ به مبلغ النكال وعرض عليه
 افراط الغضب ثم رضي عنه وقدمه الي افتتح الثغور ثم نهض موسى الي سرقسطة
 فحاصرها حتي افتتحها وافتتح ما حولها من الحصون

(b) ولما علم الوليد بن عبد الملك ماجري لطارق بن زياد وموسى بن نصير من
 الخلف بعث فيهما فانصرفا الي المشرق واستخلف موسى ابنه عبد العزيز علي
 الاندلس واسكنه مدينة اشبيلية وخلق معه حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن نافع
 الفهري فاقام عبد العزيز يستفتح ما بقي عليه من مداين الاندلس وتوجه مع موسى
 من الاندلس اربع مائة رجل من ابنا ملوك العجم علي روسهم ذبيحان الذهب وفي
 اوساطهم مناطق الذهب فلما قرب من الشام اعتل الوليد بعلته النبي مات منها فاوصي
 الي موسى اخوه سليمان ان يتوقف بالسير حتي يكون دخوله في ايامه فلم يفعل
 ودخل قبل موت الوليد فحقد له سليمان ذلك

„ venit , unà cum *TAREKO ALVALI-*
 „ *DUM* Regem adiit : cui præter im-
 „ menſas Hiſpaniæ opes , aliaque præ-
 „ tioſiſſima ſupelleſtilia , menſam il-
 „ lam obtulit , quam uterque ſe re-
 „ periffè pluribus verbis contendit. *TARE-*
 „ *REKUS* hanc dirimendæ litis rationem
 „ proponit : ut in medium afferatur
 „ menſa ; nunquid illi deſit , explo-
 „ retur ; quod ſi id ipſum quod deſit,
 „ protulerit *MUSA* , apertum planè fo-
 „ re illum ipſam reperiffè. Ad hæc Im-
 „ perator menſam afferri coram jubet ;
 „ quumque unum illi deſſe pedem,
 „ quem aureus alter ſuppleverat , ob-
 „ ſervaffet ; *MUSAM* ea de re interro-
 „ gavit. Is *talem* , inquit , *menſam*
 „ *reperi*. Tum *TAREKUS* pedem ad il-
 „ lud uſque tempus deſideratum oſten-
 „ dens , ſuo loco aptavit. Quare *ALVA-*
 „ *LIDUS TAREKI* ingenuitatem , *MUSÆ*
 „ mendacium miratus eſt , *ALVALIDUS*
 „ non multò poſt deceſſit. *SOLIMANUS*
 „ autem ejus frater Imperio adepto ,
 „ injurias ulciſcendi cupidus , in *Mu-*

„ *SAM* feveriffimè animadvertit ; quip-
 „ pe illum foli expoſitum flagellis cæ-
 „ di præcepit ; deinde in vincula con-
 „ jectum , centum , ſive , ut alii nar-
 „ rant , ducentis aureorum millibus
 „ multavit (a)

„ *SOLIMANUS* litteris ad quinque
 „ viros Arabum in Hiſpania primores
 „ datis , ad *HABIBUM* videlicet *BEN*
 „ *ABI OBAIDA ALPHAHREUM* , fidum
 „ *MUSÆ* amicum ejuſdemque filii col-
 „ legam , & ad *ZAIADUM BEN ALNA-*
 „ *BEAT* , alioſque eorum amicos ; *ABD-*
 „ *ELAZIZUM* interficiendum curavit.
 „ Quo interfecto , caput ejus illi ad *So-*
 „ *LIMANUM* miſere. *ABDELAZIZUS* por-
 „ rò *RODERICI* uxorem , priùs *AILAM* ,
 „ poſtea *ASEMI Matrem* nuncupatam
 „ ſibi aſſumſit : quacum *Hiſpali* in
 „ Templo *Salvatoris* habitaffe , & ex
 „ adverſo fanum extruxiſſe memoratur.
 „ Accidit autem *ABDELAZIZI* cædes an-
 „ no 98. adeò ut univerſa Hiſpania
 „ per unius ferè anni ſpatium Præfecto
 „ caruerit. (b)

„ *PRÆ-*

(a) ثم نهض الي الشام ومعه طارق بكل ما اصابا من الاموال والعلي والجواهر
 بالاندرلس والمائدة فاهري اليه موسى المائدة وقال له اني اصبتها فقال له طارق بل
 انا اصبتها يامير المومنين فكذب موسى وادعي انه اصابها فقال طارق للوليد
 يامير المومنين ادع لنا بالمائدة واحضرها وانظر ان كان يعجز منها شي وساء
 عما يعجز منها فان اتى به فهو صابها فدعي بالمائدة فاذا برجل منها يعجز قد صنع
 من الذهب فقال طارق للوليد سلمه عنه فان اتى فيه بمرهان فهو وجدها فسالة الوليد
 فقال هكذا اصبتها فاخرج طارق الرجل نفسه فوضعه في مكانه فعجب الوليد
 من صدقه وكذب موسى ومات الوليد الي ايام وصار الامر الي اخيه سليمان فسخط
 علي موسى وسجنه وعزبه في الشمس وضربه بالسياط ثم اغرمه مائة الف مثقال
 وقيل مايتي الف

(b) وكتب سليمان الي خمسة نفر من وجوه العرب بالاندرلس منهم ثقة موسى
 حبيب بن ابي عبيدة الفهري الذي تخلفه موسى مع ابنه عبد العزيز والي نريان بن
 النابغة واصحابهما وعهد اليهما بقتل عبد العزيز فقصدوا اليه وقتلوه وكان عب-
 العزيز

„ PRÆFECTORUM
 „ HISPANIÆ
 „ S E R I E S.

„ Hi, ut à nostris majoribus accepimus, viginti sunt; ex complurium
 „ verò sententiâ annos quadraginta
 „ quatuor & menses septem præfuere;
 „ quamquam alii alia de hac re sentiunt. illorum itaque primus TARE-
 „ KUS BEN ZAIAD ALSADPHI, qui annum unum Hispaniarum Præfecturam obtinuit. MUSA deinde BEN NASER ALBAKRI ejusque filius ABDELAZIZUS imperium ibidem annos tres gessere. Post quos Hispania duobus annis Præfecto planè caruit, donec Populus Hispanus Præfectum delegit AYUB BEN HABIB LAKHAMITAM, MUSÆ ex sorore nepotem, qui Rempublicam administravit menses VI. Eandem provinciam postea obtinuit annum unum, mensesque septem ALHOR BEN ABDELRAHMAN ALTHOCPHI. Id etiam munus nomine Imperatoris OMARI BEN ABDELAZIZ annos II. menses VII. ALSAMAH MALEKI filius, ALKHAULANI cognominatus gessit. Iis succedere deinceps ANBASA BEN SCHAHIN ALKALBI; IA-HIA BEN SALAMA; HADIPHA BEN AL-AHUAS; OTHMANUS BEN ABI TASA AL-

„ GIOHANI; ALHAITHAM BEN ABDELKANNANI; ABDELRAHMANUS BEN ABDELLA ALGAPHAKI; ABDELMALEKUS BEN CATHANUS ALPHAHRI; ACBA BEN ALHAGIAGÆUS ALSALVI: quo expulso, ABDELMALEKUS BEN CATHANUS, Præfecturam rursus obtinuit; BALEGIUS BEN BASCHAR ALCASCHAIRI; THALABAT BEN SALMA ALAMELI; ABULKHATHAR HASSAN BEN DARAR ALKALBI; THUABAT EBN SALAMA. Quorum Primus præfuit annos quatuor, menses quinque; Secundus annum unum, menses sex; Tertius menses sex; Quartus annum unum, menses sex; Quintus menses sex; Sextus annos duos, menses septem; Septimus annos tres, menses duos; Octavus annos quinque, menses duos; Nonus (qui idem est ac Septimus, bis enim Præfecturam gessit) annum unum, mensem unum; Decimus menses sex; Undecimus menses quinque; Duodecimus annos duos, menses octo; Tertiusdecimus annos novem, menses undecim. Præter hæc nunc enumeratos alius, suppresso nomine, occurrit, cujus Præfecturæ tempus mihi incompertum. „ (Hic est JOSEPHUS BEN ABDELRAHMAN, ut refert cum aliis EBN ALKHATHIB. Atque jam habes XX. Præfectos, qui Hispaniis ex ordine præfuerunt.) (a)

Ha-

العزير تزوج امرأة من القوط يقال لها ايلة كانت نروح من رنديق قبله سميت عنده ام عاصم وكان يسكن معها في كنيسة ربينة بقرية اشبيلية وكان عبد العزيز قد بنا مسجدا علي باب الكنيسة يجمع الناس للصلاة فيه ثم بعثوا جراسه الي سليمان وكان قتل عبد العزيز هذا في اخر سنة ثمان وتسعين وبقيت الاندلس بلا امير نحو عام ١٠٠

(a) عدد العمال الراخمين الاندلس

في روايتي عن شيوخنا عشرون رجلا ومدة عملهم باختلاف دولتهم اربعم واربعون سنة وسبعة اشهر وقيل غير ذلك لاختلاف الناس في روايتهم وتاريخهم ١٠٠
 دخل

Haëtenus Scriptor *AHMEDUS*, five *RASIS*. Restat, ut hac de re audiamus quoque Historicum *Granatensem ALI BEN ABDELRAHMAN*, vulgò *BEN HAZIL*, cujus sequuntur verba.

FRAGMENTUM
ALIUD
HISTORIÆ
HISPANÆ.

„ *TAREKUS*, *MUSÆ BEN NASSERI*
„ jam *Africa* Proregis Vicarius, simul-
„ que exercitûs Dux, Mauritanîa sub-
„ actâ, in *Insulam Viridem* cum mille
„ & septuaginta armatis appulit, re-
„ gionem & gentem *Hispanam* ex-
„ ploraturus. Mox in magno monte,
„ qui *Gibel Alphath*, & *Gibel Tarek* à

„ victoria, ejusdemque Ducis nomine
„ appellatus est, sese munivit. Exiguum
„ militum numerum *Hispani* aspectu
„ primo parvi fecere. *TUDEMIRUS* ta-
„ men, qui per ea tempora *RODERI-*
„ *CI* Regis nomine *Provinciis* præerat,
„ hostium numerum in dies crescere
„ animadvertens, *RODERICUM* Regem
„ per litteras ea de re certiolem fecit,
„ rogans ut sibi quàm citissimè auxi-
„ lio veniret. *RODERICUS* itaque, col-
„ lectis nonaginta militum millibus,
„ illuc contendit. Obviam illi fit *TARE-*
„ *KUS* unà cum *MOGITO* equitum Præ-
„ fecto, gente *Græco*, & *VALIDI* Im-
„ peratoris liberto. Acre committitur
„ utrinque prælium, quod triduo non
„ sine multorum cæde duravit. Tum
„ *TAREKUS*, suos ad fortiter dimican-
„ dum,

دخل طارق بن زياد الصديقي فملك الاندلس سنة واحدة ودخل موسى بن نصير
البركري فملك هو وابنه عبد العزيز نحو ثلاثة سنين وقامت الاندلس دون وال مدة
من نحو سنتين حتي قدم الناس ايوب بن حبيب اللخمي وهو بن اخت موسي
فملك سنة اشهر ودخل الاندلس الحر بن عبد الرحمن الثقفي فملك سنة وسبعة
اشهر ودخل السمح بن مالك الخولاني واليا من قبل عمر بن عبد العزيز فملك
سنتين وسبعة اشهر ودخل عنبسة بن شحيم الكلبي واليا فملك نحو اربع سنين
وخمسة اشهر ودخل يحيي بن سلامة واليا علي الاندلس فملك نحو سنة وستة اشهر
وولي حذيفة بن الاحوص فملك نحو ستة اشهر وولي عثمان بن ابي تسعة الجهني فملك
نحو سنة وستة اشهر وولي الهيثم بن عبيد الكندي فملك نحو اربعة اشهر وولي
بعده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي فملك نحو سنتين وسبعة اشهر وولي
عبد الملك بن قطن الفهري فملك نحو ثلاثة سنين وشهرين ثم دخل عقبة بن
الحجاج السلولي فملك نحو خمسة سنين وشهرين ثم قام عبد الملك بن قطن
الفهري علي عقبة فخلعه وملك نحو سنة وشهر ثم دخل بلج بن بشر القشيري
فملك نحو سنة اشهر ثم ولي ثعلبة بن سلمة العاملي فملك نحو خمسة اشهر ثم
ولي ابو الخطار حسام بن ضرار الكلبي فملك نحو سنتين وثمانية اشهر ثم ولي
ثوابة ابن سلامة فملك نحو تسع سنين واحد عشر شهرا وقيل انه وليها رجل ولم
امر له حقيقة تمام عشرين عاملا ولم اجد له تاريخ مدة

„ dum, præterquam præmiis, his etiam
 „ verbis adhortatus est : *Hic hostium*
 „ *acies, illic mare : quis fugæ locus ? Pu-*
 „ *gnandum ergo vobis est ; me ducem*
 „ *sequamini : alterutrum statui, aut*
 „ *mori, aut RODERICO mortem inferre.*
 „ His dictis, *TAREKUS*, equo in me-
 „ diam hostium aciem concitato, *RO-*
 „ *DERICUM*, cujus insignia probè no-
 „ verat, insequutus est; eumque fu-
 „ gientem, Deo favente, demum in-
 „ terfecit. Quo factum est ut Arabes,
 „ quorum pauci eo prælio ceciderant,
 „ victoriâ elati, Hispanos partim fer-
 „ ro, partim fugâ trium dierum spa-
 „ tio deleverint. Intereâ autem *TARE-*
 „ *KUS* Regis *RODERICI* caput amputa-
 „ tum ad *MUSAM* misit; *MUSA* verò
 „ ad Imperatorem *VALIDUM*. Id fanè
 „ infortunii Regibus pedem ex acie
 „ referentibus sæpe contingit. (a)

DE NOMINE
 ANDALUSIA,
 Ejusque Etymo.

Nomen *Andalusia*, sive, ut vulgo
 enuntiatur, *Andaluzia*, non à Latinis,
 sed ab Arabibus petendum est; quip-
 pe qui illud in Hispaniam primi, ut
 Scriptorum fert opinio, invexerint. La-
 tinos enim Scriptores non nisi post ca-
 ptam Hispaniam vocabulo *Andalusia*
 usos esse constat; Vetusiores verò, ut
ISIDORUM PACENSEM octavi seculi Scri-
 ptorem, *Citerioris & Ulterioris Hispani-*
æ nomina tantùm usurpassè. Plerique
 tamen nescio qua ratione vocem *An-*
dalusia à *Vandalis* originem traxisse
 arbitrantur; sed utrum eam vocem La-
 tini formaverint, an Arabes, omnino
 silent. Equidem non videntur Latini
 formasse, qui, ut scitè notat P. *HAR-*
DVINUS, rectius *Vandalusiam*, quàm
Andalusiam à *Vandalis* dixissent. Mul-
 to

(a) ولما عبر طارق مولاي موسى بن نصير وامير الجيش الي بلاد الاندلس لبقتها
 وموسي ان ذاك بافريقية خرجوا بالجزيرة الخضراء وتحصنوا في الجبل العظيم
 الذي يسمى اليوم بجبل الفتح وجبل طارق ونسب اليه وهو في الف وسبعماية رجل
 وطمعت الروم فيهم وكان علي الروم تدمير استخلفه لدريق ملك الروم وكان
 قد كتب الي لدريق يعلمه بان قوما قد وصلوا الي بلادنا وقد لقيتهم فلتنهض الي
 بنفسك فاتي لدريق في تسعين الف فرمام ولقيهم طارق وعلي خيلة مغيث الرومي
 مولاي الوليد فاقتتلوا ثلاثة ايام اشد قتال فرأي طارق ما الناس فيه من الشدة فقام
 يعظهم ويحثهم علي الصبر ويرغبهم في الشهادة وبسط في امالهم ثم قال ايبن المقر
 البحر من وراكم والعدو امامكم فليس الا الصبر منكم وانا فاعل شيا فافعلوا
 كفعلتي والله لا قصد طاغيتهم فاما انا اقتله وانا اقتل دونه فاستوذق طارق من خيله
 وكان قد عرف حلية لدريق وعلاماته وفعل ما قال فقتل الله لدريق بعد قتل نريج
 في العدو ومن المسلمين لم يقتل منهم كثير فانهزمت الروم واقام المسلمون
 يقتلونهم ثلاثة ايام واخذ طارق راس لدريق وبعث به الي موسى وبعث به موسي
 الي الوليد فهذا ما يتاتي من الملوكة من لزومهم مكانا واحدا في الحرب

tò etiam minùs Arabes, quibus *Vandalorum* nomen planè incompertum, nullâ gentis hujus memoriâ in illorum annalibus extante. Præterea si id nominis à *Vandalis* deductum esset; certè Arabes, quorum lingua *V* consonantem prorsùs nescit, atque adeo ejus vice vel *B*, vel *F* semper fungitur, *Bandalusiam*, aut *Fandalusiam* potiùs quàm *Andalusiam* pronuntiasent, ut videre est in *Valentia* nomine, quam *Balensiam* بلنسية, non *Valensiam* vocitant.

Quam ergo *Andalusia* nomen Arabicæ linguæ germanum ac gentilitium sit; quid ea vox significet, unde sit orta, hoc loco expendere operæ pretium duximus.

Si quis Arabica pervolvat *Lexica*, *Andalusia* اندلس nomen, non significationem reperiat; quippe quæ à voce *Handalusia* حندلس unice perenda sit. Prius nomen est proprium, secundum appellativum; illud Hispaniam denotat, hoc *Regionem vespertinam & tenebrosam*, atque etiam *Occidentis finem*: quod quidem vox *Hesperia* exprimere videtur. Id ipsum non obscuris innuit verbis *GEOGRAPHUS NUBIENSIS Clim. IV. Pars I. pag. 147.* „ Prima hæc quarti Clim. Pars habet initium „ in ea Occidentis ulterioris parte, in „ qua è mari tenebroso (id est Oceano) egreditur sinus maris Damasce- „ ni, tendens in Orientem. In hac „ autem proposita parte continetur „ terra *Andalusia*, quæ Græcè vocatur „ *Hispania* „. Unde quo pacto Arabes, Græci & Romani Hispaniam nominent planè patet: illis nimirum *Andalusiam*, his verò *Hispaniam*, vel *Hesperiam* appellare placuisse. Arabes tamen politiori disciplina exculi, ut *Handalusia* vocabulum, à quo *Andalusia* deducitur, suavius redderent, demtâ vehementis aspirationis littera *H*, *Andalusia* dixere. Plura hujusmodi no-

minum, & quidem ejusdem significatûs, in *Lexicis* extant exempla, qualia sunt لجا pro حجا, حزم pro ججم, اجض pro عبس, حنطي pro غنطي, عتم pro اتم, جبلة pro ابله, عضبى pro قردبين, دماوند pro دنباوند, خورستان pro قزوین.

Arabum autem cum Geographi, tum Historici Hispaniam universam, *Citeriorem* nempe & *Ulteriorem* uno *Andalusia* vocabulo complexi sunt; eamque in *Andalusiam Orientalem* & *Occidentalem* اندلس الشرق. اندلس الغرب dividerunt: quod *GEOGRAPHI NUBIENSIS* testimonio etiam comprobare licet, prima nimirum *Parte Clim. IV.* ubi, Hispaniâ, quantacunque est, egregiè descriptâ, enumeratis singulis illius provinciis urbibusque præcipuis, sic rem absolvit pag. 153. „ Atque hæc sunt universæ provinciæ „ Hispaniarum, quæ simul sumptæ vo- „ cantur *Andalusia* „. Et rursus pag. 159. *Cæsaraugustam* describens, ait: „ Est autem *Saragosta* de primariis ur- „ bibus *Andalusia*, sita prope flumen „ magnum *Ebro* vocatum.

Opinionem hanc licet à *NICOLAO ANTONIO* in *Bibliotheca Veteri* propositam, tamen, si Etymi argumenta rationumque pondera spectes, prorsùs novam, meis olim cum amicis ingenuè & lubenter, ut soleo, communicavi, in primis cum R. Patre *HENRICO FLOREZIO*, excellentis fanè ingenii viro ac multiplici eruditione ornatissimo, qui Arabicæ originis rationem æquis auribus acceptam, valdeque laudatam in *Hispania Sacra*, Vol. IX. pag. 74. non sine nominis nostri mentione pervulgandam judicavit.

DE RASIS

HISTORIA.

Duo nobis hoc loco diligenter sunt examinanda: alterum de Historiæ huiusmodi veritate; alterum de genuino illius Auctore. De utroque differunt Hispani Scriptores; etsi non una omnium sententia. *LUDOVICUS DE MARMOL & JOANNES MARIANA* eam anno Christi 976. conscriptam asserunt; *MORALES Lib. XIV. cap. 16.* *RASIM* illam edidisse anno salutis 821. Rege *ABDELRAHMANO* contendit; *RESENDIUS* verò eandem jussu hortatuque Caliphæ *DALHARABI* (Mariana vocat *BELHARAB*) affirmat condidisse, ut ex *Resendiani Codicis* inscriptione liquet: *Incipit Liber Rasæ Historici Dalharab Marochiorum Miramamolini, Cordubæque Regis, quem ipsius jussu composuit. NICOLAUS ANTONIUS* idcirco in *Bibliotheca Veteri, Tom. I. Cap. XII.* re pro ejus momento expenta, discussisque in utramque partem rationibus, Historiam Rasiānam prorsus dubiæ suspectæque fidei esse pronunciavit. Verba illius hæc sunt: *In his vadis hæerere necesse est nobis, dum alius hanc solvat contradictionem. Neutriquam enim potuit homo idem ABDELRAHMANIS & MAHOMEDI Cordubensium, & DALHARABI Marochiorum Regum, qui plusquam centum annis disparati vixere, tempora contingere.*

Quis autem sit iste Calipha *DALHARAB*, seu *BILHARAB*, *Marochiorum Miramamolini, Cordubæque Regis*, qui anno salutis 976. Egiræ 366. *Marochi & Cordubæ* imperabat, me prorsus latet. Quum id nominis, vel agnominis genus in Hispaniarum Regum serie nusquam reperiatur. Legimus profectò in Arabum Chronicis eo anno imperium *Cordubæ* auspiciatum esse *HESHAMUM*, *ALMVAIED* nuncupatum,
Tom. II.

quem *ISEN* vocat *RODERICUS TOLETANUS* in *Historia Arabum cap. XXXI.* his verbis: *Anno Arabum 366. Isem filius Alhacan patri suo successit in regno.*

Unde colligas vocem *DALHARAB*, quæ Latinè *de Bello* sonat, non Caliphæ nomen, sed Libri titulum designare. Præterea Calipha, nomine *DALHARAB*, quisquis ille sit, certè *Marochi* Rex esse minimè potuit. Nam anno salutis 976. quo tempore laudatum Regem ibi regnasse *RESENDIUS* existimavit, ea urbs, quæ *JOSEPHUM TASCAPHINI* filium conditorem habuit, nondum extructa erat, teste *LEONE AFRICANO*, qui *Lib. II. pag. 59.* tradit prima illius fundamenta supra dicti *JOSEPHI* temporibus anno 424. Egiræ jacta; affirmante præterea *GEOGRAPHO NUBIENSI Clim. III. Parte I. pag. 76.* eandem initio anni *quadringsesimi septuagesimi* (id est Christi 1077.) ab eodem conditam.

Jam verò quid Arabes de *Historia Rasiāna* memorent, expediamus. Illud in primis certum est complures hujus cognominis *Rasis*, (rectius *Razi*, ut alibi animadvertimus) cum Asiaticos, tum Hispanos extitisse viros omni scientiarum genere clarissimos, quorum longa quidem series exhiberi possit. Inter tot unus sanè & antiquitate & eruditionis laude præstitit *AHMEDUS*, videlicet *ABU BAKER ALRAZUS*, vulgò *RASIS*, de quo ita refert *Balearicus* Scriptor *ALHOMAIDUS* in sua *Bibliotheca Arabico-Hispana.*

„ *AHMAD BEN MOHAMAD BEN MU-*
„ *SA ABU BAKERUS ALRAZI*, Hispanus
„ *Cordubensis*, origine tamen *Persa* ex
„ urbe *Raia* (unde ortus etiam est
alter Philosophus & Medicus *ABU BAKERUS MOHAMAD BEN ZACHARIA RAZI* dictus). Is magnum edidit volumen,
„ quod Hispaniæ Regum res domi-
litia-

„ litiaëque five secundo, five adverso
 „ marte gestas complectitur. Scripsit
 „ præterea *Cordubæ Historiam & Geo-*
 „ *graphiam* ad instar *Bagdadensis Hi-*
 „ *storiæ*, quam *AHMEDUS BEN ABI*
 „ *THAHER* inchoavit, ubi *ALMANSORIS*
 „ *Caliphæ Bagdadi* conditoris Aula, ci-
 „ viumque mores describuntur. Hujus
 „ operis *Rasiani* meminit Scriptor *ABU*
 „ *MOHAMAD BEN HAZAM*, perinde ac
 „ alterius *de Hispaniâ Viris illustribus*,
 „ quod quidem præstantissimum atque
 „ amplissimum est; dividiturque in To-
 „ mos magnæ molis quinque. Cæterùm
 „ quamvis laudatus Auctor, quis pri-
 „ mus hoc scriptionis genus tractave-
 „ rit, nobis non aperiatur; tamen *RASIM*
 „ nostrum omnium principem fuis-
 „ se judico. (a)

Præter hunc Scriptorem, complu-
 res alii Auctores eundem *RAZÆUM* pas-
 sim laudant allegantque, puta *EBN*
HAMAMA in opere *Geographico*; *GARI-*
BAI; *ABULCASSEM ALMALAHEUS*; *EBN*
HAIAN; *EBN ALKHATHIB*; *EBN PAS-*
QUAL; *EBN ALABARI* in duodecim *Bi-*
bliothecis Arabico-Hispanis, quarum ex-
 cerptiones in hac nostra benè multas
 edidimus. Horum omnium auctoritate
 planè confirmatur *RASIM* rerum Hi-
 spanarum Scriptorem re verâ extitisse:
 quod nonnulli recentiores Hispani vel
 negant, vel dubitant.

Hunc porrò tertio *Egiraë* seculo

claruisse, & quarto ejusdem *Æræ* in-
 eunte, Rege *ABDELRAHMANO* hujus no-
 minis tertio, humanis rebus ereptum
 esse ex his fanè liquet: I. quòd *MO-*
HAMETUS, *RASIS* pater, eo jam virili-
 tatem propè adepto, decesserit anno
Egiraë 273. Christi 886. II. quòd *RA-*
SIS ipse de *Cordubæ* Regum serie agens,
 in *ABDALLAM* Regem deserit.

Itaque ex testimonio de *RASI* su-
 pra allato facilè apparet cum in re-
 bus Hispanicis Scriptorem fuisse verfa-
 tissimum & accuratissimum; adeoque
 Historiam illam quæ sub *RASIS* nomi-
 ne Hispanè reddita circumfertur, illo
 prorsus indignam habendam, ac me-
 ram esse inepti nescio cujus Excerpto-
 ris farraginem tum ex Latinis, tum
 ex Arabicis commentariis male confla-
 tam & falsis conspersam, celeberrimi
 Auctoris nomine editam, quò magis,
 lenocinante, ut fieri solet, titulo, in
 vulgus probaretur.

In tali verò Collectione, præter
 barbarum horridumque dicendi genus,
 quod Interpreti fortasse tribuas, mul-
 ta fanè in *Geographiam*, *Historiam*
Chronologiamque peccantur, ex qui-
 bus aliqua tantummodo cum ad in-
 fitam plurimorum animis falsi opinio-
 nem radicitus evellendam, tum ad
Rasiana laudi planè consulendum, hîc
 nobis indicare sufficiat. Quæcumque
 autem expendemus loca, ea omnino
 ad

(*) احمد بن محمد بن موسى ابو بكر الرازي الاندلسي القرطبي اصله من الري
 له في اخبار ملوك الاندلس وخدمتهم وكنماهم وغزواتهم كتاب كبير والى في
 صفة قرطبة وخططها ومنازل القضا بها كتابا علي نحو ما جرد به احمد بن ابي
 طاهر في اخبار بغداد وذكره صحابة المنصور بها قاله ابو محمد بن حزم قال
 ولاحمد بن محمد بن موسى كتاب في انساب مشاهير الاندلس في خمس
 مجلدات ضحطنة من احسن كتاب واوسع ولم يبين ان كان هو الاول او غيره
 وانا اظنه الاول

ad fidem exemplarium *AMBROSII DE MORALES*, & *BERNARDI DE ALDRETE* exacta sunt.

Hæc igitur Historia, quæ Hispaniarum Descriptionem, Romanorum, Gothorum Arabumque Annales complectitur, tradit I. *La Ciudad de Alfar que aora llaman la Ciudad de Aguadalfaxar.... è yace sobre uno rio à que dicen Aguadalfaxar*. Equidem ego penes Arabum Scriptores non *Alfar*, nec *Aguadalfaxar*, sed *Vadi Alhagiara*, وادي الحجارة, quæ & postea *Medinat Alfaragi* dicta, id est *Amnis lapidum*, & *Urbs gaudii*, me legere memini. Videfis *NUBIENSEM GEOGRAPHUM* pag. 153. & 159. An autem *Guadalaxara* sit *Complutum*, ambigitur inter Hispanos Scriptores. Caterùm Arabes, in his *EBN ALKHATHIB*, innuere videntur illam à suis vel primùm conditam, vel bellis collapsam fuisse restitutam; neque illi nomina, nisi oppidis à se ipsis conditis, vel restitutis indere ut plurimùm solebant.

Narrat II. *Una de las Ciudades es Cartagena, à que llamaban los Moros Alquerone*. Duos insignes Arabas de hac re differentes par est audire, *GEOGRAPHUM NUBIENSEM* & *LEONEM AFRICANUM*, quorum prior pag. 161. *Cartagenam* sic describit: *Urbs autem Cartagena est Portus urbis Mursie, estque urbs vetustissima, antiquissimaque*; posterior verò *Lib. V. pag. 223.* urbem *Cairaon*, sive *Caroen* ab *Hueba*, quodam Caliphæ *HUTMENI* summo exercitûs Duce conditam esse prodidit; eamque ut aliam à *Carthagine* eodem *Lib. pag. 215.* omnino distinguit.

Refert III. *De Corduba à Elbira hay 60. milliares &c.* Contrarium aperte docuit *GEOGRAPHUS NUBIENSIS* qui pag. 166. ait. *Rursus à Corduba ad Granatam habentur quatuor stationes centum M. P. componentes.*

Tom. II.

Asserit IV. *Esta Villa (Tudela) fue fundada por mandado de Alliequin, y fundóla Obrieron (in alio Codice Habras) hijo de Zeno, y Zeno fue Almojarife de Zaragoza.... Abdalla fijo de Ufion, el que llamaban Abilrifmen, la ganó toda por su espada.*

De *Tudela* origine & nominis ratione non satis convenit inter Scriptores. Vulgatissima tamen est opinio, multis ante Arabas seculis eam conditam esse, & à Romanis *Tutelam* nominatam. Quapropter illa urbs non ab *ALLIEQUIN*, minusque ab *ABDALLA* extrui unquam potuit: maximè quum nullus Scriptor Arabs, si unum supposititium *RASIM* excipias, id affirmet. Quis autem sit *ALLIEQUIN*, & *ABDALLA USIONIS filius*, conjectare ob depravata vocabula haud facilè est. Puto tamen *ALLIEQUIN* ob nominis analogiam esse eundem ac *ALHAKEMUM Corduba* Regem; *ABDALLAM* verò *ISMAELEM BEN ZINUN*, quem non *CesarAugusta*, sed *Toleti* regnasse Arabum monumenta testantur. Is certè *ALHAKEMI* Regis jussu illam, ut res per se patet, condere minimè potuit. Nam *ALHAKEMUS* Rex anno *Egira* 206. obiisse; *ABDALLA* autem sive *BEN HUD* *CesarAugusta* Rex, sive *BEN ZINUN* *Toleti* Princeps, non nisi post seculum *Egira* quartum imperasse traduntur: quo sanè tempore *RASIS* vitam non agebat.

Affirmat V. *Quando vino Abdelrahmano primero à España, dixo à Abulacin un Caballero natural de Fez. Abdelrahmanus hujus nominis primus Hispaniam ingressus est anno Egira 138. urbs verò Fessa, teste LEONE AFRICANO Lib. III. pag. 106. condita est anno ejusdem Aera 185.*

Ait VI. *El tiempo que los Godos passaron el mar, entonces se vino Mahomed à Meca; y fue à predicar su mala secta en Arabia, y convirtió muy*

Tt 2

gran

gran gente à su mala ley en la Era de 672. años (in alio exemplari 662.) despues que Christo prendiò muerte, y passion..... Mahomed havia entonces diez años, quando los Godos fueron entrados en España, y hicieron Rey de su linage. Hæc sanè verba non Mahometani, sed Christiani hominis esse, res ipsa, vel me tacente, loquitur. Deinde si fides auctori, Gothi unum vix seculum rerum in Hispania essent positi: quod nemo in eorum Historiâ vel levissimè versatus hæctenus dixit.

Postremò quod ad temporum rationem attinet, RASIS verus, quem Arabum Scriptores laudant, à ficto ubique diffidet. Ille enim ABDELRAHMANI secundi mortem ad annum Egiræ 238. hic ad annum 236. refert. Arabes similiter cum RASI tradunt MOHAMETUM Regem obiisse anno 273. regnasse verò annos XXXIV. & menses II. ABDALLAM autem mortuum esse anno Egiræ 300. postquam regnasset annos XXV. At verò quid RASIS in sua Historia Hispanè versa de his tradit? MAHOMAD, inquit, moriò quando andaba la Era de los Moros 271. y reynò 24. años y diez meses. De ABDALLA Rege differens, ait: Este moriò quando andaba la Era de los Moros 300. y reynò el 15. años. Atqui Rex ABDALLA regnum auspiciatus est anno 300. non potuit igitur ille annos tantum XV. regnare; vel mori non potuit anno Egiræ 300. ut ex ipsa computatione cuiusvis facillè patebit.

Quod verò ad eam Historiæ partem attinet, ubi PSEUDO-RASIS de Romanis Gothicisque rebus agit; piget immorari, quum id operis, ut pote mendaciis ac fabulis immanibus refer-

tissimum, planè supposititium sit existimandum.

Igitur omnino statuendum existimamus RAZEUM & verè extitisse & de rebus Hispanis egregiè ac fusè scripsisse; eam verò quæ RASIS nomine, in Hispanum sermonem conversa, vulgò circumfertur, Historiam, non ex ipsius RASIS archetypo redditam; sed tantum, ut initio significavimus, inconditam esse & in multis mendacem ex Arabicis & Latinis monumentis farraginem, spuriumque planè opus: quod Clarissimus Vir GREGORIUS MAIANSIUS in copiosa atque erudita De Scriptis Mauro Rasi tributis Dissertatione, ad nos nuper missa, satis superque comprobavit.

1778
MDCCLXXIII.

Codex nitidè exaratus horis vespertinis feriæ 5. die 25. mensis Dilhagiat, anno Egiræ 926. continens folia 501. quo habetur Bibliotheca Arabica Philosophorum, inscripta Historia litteraria Sapientum (1): ubi Judæorum, Christianorum, Mahometanorum, atque Græcorum doctrinâ insignium vitæ describuntur, necnon eorum scripta sive Græca, sive Chaldaica Arabicè versa uberius recensentur. Illius auctorem, cujus nomen latet, floruisse anno Egiræ 595. patriâque Ægyptium fuisse liquet ex ejusdem Codicis pag. 74. & 316. Hic, Mahometano Orbe perlustrato inspectisque Bibliothecis celeberrimis, id opus, cujus quasi summam unà cum textu Arabico Tom. I. nostræ Bibliotheca publicavimus, non indiligenti labore aggressus est. Ex hac Bibliotheca ABULPHARAGIUS Historiæ Dynastiarum conditor multa depromsit, quibus Historiam suam adornavit. (2)

Co-

(1) Titulus : كتاب تاريخ الحكماء

(2) Initium : وقد عزم

وكتب علي بن رضوان بن جعفر لنفسه

MDCCLXXIV.

1779
Codex nitidè exaratus absque anni notâ, quo continetur Tomus primus, cui titulus *Appendix*, seu *Supplementum Bibliothecæ Prætoris BEN KHALKANI*, *Obitus Virorum illustrium* (1) inscriptæ. Initium ducit à nomine *ABRAHAMUS* ad nomen usque *ALAHVI*; Tomi verò secundus & Tertius, è quibus totum opus constat, in Bibliotheca *Escorialensi* desiderantur. Auctoris nomen nobis incompertum. (2)

MDCCLXXV.

1780
Codex pereleganter exaratus, anni notâ carens, quo continetur proximè laudatæ Bibliothecæ, seu Historiæ litterariæ Compendium, quod titulo *Epitome lecta* (3), studio *TAGEDDINI AHMAD BEN ALATHIR Alepini* olim prodiit. (4)

MDCCLXXVI.

Codex litteris nitidissimis exaratus, anni notæ expers, foliisque aliquot in fine mutilus. In eo habetur Bibliotheca virorum doctrinæ laude insignium, quorum Agnomina tantum ibidem reperias, *Aquivocorum Liber* inscripta (5): auctore *MOHAMAD BEN AHMAD ALDAHABI* (6). De eadem re antea scripsere non pauci viri eruditi, in quibus maxime laudantur *ABDELGANI BEN SAID ALAZADITA*; *ABI NAS-*

SER BEN MAKULA; *ABI BAKER BEN NOCTHA*; *ABILOLA ALPHARDI*: qui quidem eo consilio id operis aggressi sunt, ut Cognominum ambiguitas è medio omnino tolleretur. Is Codex memoratur in Regiæ Bibliothecæ *Parisensis* MSS. Arabicorum Catalogo, *Num. DCCCLXII.*

MDCCLXXVII.

1782
Codex nitidè exaratus, anni notâ & prologo carens, quo continetur Bibliotheca, seu Historia litteraria *Cæcorum*, qui tum doctrina, tum ingenii solertia & Arte Poëtica in Asia, Africa atque Hispania variis temporibus ad annum usque Egirianum 683. claruere, hoc titulo insignita: *Virorum luminibus orbatorum Monumenta* (7). Illius auctor *SALAHEDDINUS Alsaphadita*, cujus non semel meminimus.

MDCCLXXVIII.

1783
Codex eleganter exaratus anno Egiræ 609. Christi 1212. feriâ 7. die 15. mensis Scheuali, quo continetur Bibliotheca, sive Historia Doctorum Mahometanorum, qui Mahometi traditiones vel scripserunt, vel commentarios de iis ediderunt, sic inscripta: *Volumen Magistrorum Bagdadensium* (8): auctore *ABU THAHERO AHMAD ALSALPHI Ispahanensi*, doctrinâ *Schapheita*, professione *Monacho*, & *Alexandriæ incola* (9), qui suam hanc
Hi-

(1) Titulus: كتاب وفات الوفيات في الاعيان وهو زيد علي كتاب القاضي ابن خلكان

(2) Initium: فان علم التاريخ فاستراح قلبه

(3) Titulus: المختصر المختار من وفيات الاعيان لابن خلكان

(4) Auctor: تاج الدين احمد بن الاثير الحلبي

(5) Titulus: كتاب المشبه

(6) Auctor: تاليف محمد بن احمد الذهبي

(7) Titulus: تكت الهميان في نكت العميان

(8) Titulus: كتاب المشيخة البغدادية

(9) Auctor: ابو ظاهر احمد السلفي الاصمبھاني الشافعي الصوفي فريد الاسكندرية

Historiam ad annum Egiræ 574. perduxit. Id autem Opus uberrimum Mahometani valde laudant. (1)

MDCCLXXIX.

Codex pereleganter exaratus anno 824. Egiræ 824. Christi 1421. feriâ 5. die 24. mensis Saphari, complectens Historiam Virorum Fœminarumque, de quibus passim in Canonicis Traditionum Libris fit mentio. Inscribitur *Notio eorum, quorum nomina in actis Antistitum septem occurrunt* (2). Illius auctor est SCHAMSEDDINUS ABU ABDALLA MOHAMAD BEN OTHMAN ALDHAHABI. Earum autem Traditionum, seu potius fabularum præcipui sunt auctores ALBOKHARI, MOSLEM, ABU DAUD, ALTARMAZI, ALNESAI, EBN MAGIA, quos summo in honore tanquam sanctos Patres habet Mahometana gens, ac veneratur. (3)

MDCCLXXX.

Codex litteris Cuphicis exaratus, olim ad Regiam Bibliothecam Marochanam pertinens, quo continentur:

1.º Bibliotheca Patrum Hispanorum, qui de verbo Mahometi tam scripto, quam tradito præclare scripserunt, *Series Auditus, & Animadversionum Virilitas* inscripta (4): ubi de eorum vita moribus, scriptisque differitur. Auctor est ABU ABDALLA MOHAMAD BEN

OMAR BEN RASCID Septanus (5), cujus meminit in *Bibliotheca Arabico-Hispana EBN ALKHATHIBUS*. Id autem opus *Septa* absolutum est anno Egiræ 689. feriâ 4. die 13. Gemadi prioris; scriptum verò *Granata* die 29. mensis Saphari, anno 706.

2.º Eiusdem generis Bibliotheca altera, in septem Doctorum classes divisa, cujus auctor CASSEMIUS BEN ABDALLA BEN MOHAMAD ALANSARÆUS, *Septanus* (6). Is, ut ex Prologo liquet, hoc suum Opus perfecisse se testatur anno Egiræ 690.

3.º Opusculum de Pestis causis & remediis, quæ anno Egiræ 749. *Granatam* urbem afflixit, inscripta *Quæsitæ de Morbo horribili perutilia* (7): auctore ABU ABDALBA MOHAMAD BEN ALKHATHIB *Granatensi*, nobilissimo Historiæ & Bibliothecæ *Arabico-Hispanæ* Scriptore.

4.º Alterum eiusdem argumenti Opus, X. capitibus comprehensum, inscriptumque *Morbi in posterum vitandæ Descriptio & Remedia* (8): auctore ABU GIAPHARÆO AHMAD EBN ALI EBN KHATEMA *Almeriensi* (9), qui Historiam Pestis, quam ferè totus terrarum orbis anno Egiræ 748. 749. 750. Christi 1347. 1348. 1349. expertus est, describens, hæc adnotat: „Lues primum Africam percussit; mox per Ægyptum & Asiam longè latè que grassata, tandem in Italiam, Galliam

„ ac-

(1) *Initium*: قال ان ابو الخطاب

Finis: العامل والمكـري

(2) *Titulus*: كتاب الكاشف في معرفة من له ذكر في كتب الائمة الستة

(3) *Initium*: هذا مختصر نافع

Finis: ان يدخل عليهم احد

(4) *Titulus*: سلسلة السماع وافساده النصيح

(5) *Auctor*: قاليف ابي عبد الله محمد

بن رشيد السبتي

(6) *Auctor*: قاسم بن عبد الله بن محمد الانصاري السبتي

(7) *Titulus*: منفعة الساجيل عن المرض الهائل

(8) *Titulus*: تحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الواقد

(9) *Auctor*: قاليف ابي جعفر احمد بن علي ابن خاتمة المري

ac Hispaniam irrupit. *Almeriam* autem urbem, ubi quàm maximè sæviit, mense fermè XI. afflixit, ab ineunte videlicet mense Rabio prioris anni Egiræ 749. ad anni proxime sequentis initium. (1)

¹⁷⁸⁶
MDCCLXXXI.

⁷⁷³ Codex litteris Cuphicus exaratus die 15. Gemadi prioris, anno Egiræ 715. in oppido quodam *Villonas* جليونش dicto, ad *Septam* urbem pertinente. Continet Mahometi vitam, titulo *Propheta Mores* (2), in capita C. distributam: auctore *ABU ISA MOHAMAD ALTARMADI* (3), Persa ex urbe *Tarmed*, quam descripsit *ABULPHEDA*. Ille maximam nominis auctoritatem apud Mahometanos tertio Egiræ seculo sibi peperit.

¹⁷⁸⁷
MDCCLXXXII.

Codex litteris Cuphicus exaratus, anni notâ & fine carens, quo continetur Opusculum, *Nubis Umbra* (4) inscriptum, de Mahometi Uxoribus ejusque Confanguineis, quod edidit *ABU ABDALLA MOHAMAD BEN ABI ALKASSAL*, *Fajenensis*, celeberrimus quinti Egiræ seculi scriptor.

¹⁷⁸⁸
MDCCLXXXIII.

Codex nitidè exaratus anno Egi-

- (1) *Initium*: فان بعض اصدقائي سالوني عن حقيقة هذا الطاعون الظاهر بالمريّة بتاريخ عام تسع واربعين وسبعمايةة
Finis: الواحد القهار
- (2) *Titulus*: كتاب شمائل النبي
- (3) *Auctor*: قاليق ابو عيسى محمد الترمزي
- (4) *Titulus*: ظل الغمامة
- (5) *Titulus*: شرح كتاب الشمائل
- (6) *Auctor*: قاليق عصام الريدني الاسفرايني
- (7) *Initium*: شمائل اهل الفضائل

ra septimo supra millesimum, feriâ 1. die 21. mensis Scheuali, in quo habetur Commentarius in utrumque Opus modò laudatum, titulo *Paraphrasis Libri Morum* (5): auctore *ESSAMEDDINO ABRAHAMO Espharaiensi* (6), ex urbe scilicet *Espharain* in Persia. (7)

¹⁷⁸⁹
MDCCLXXXIV.

Codex litteris Cuphicus descriptus, quo continentur:

1.º Mahometi Historia, inscripta *Liber morum Mahometi* (8), quam *ABI ISA MOHAMAD BEN SURA*, vulgò *ALTARMAZI*, edidit.

2.º Mahometanorum Mores & Consuetudines, titulo *Societatis Leges* (9). Hujus operis auctor *ABI ABDELRAHMAN MOHAMAD ALSALMI Nisaburiensis*. (10)

Codex autem hic exaratus est anno Egiræ 706. die 8. Dilcadat, feriâ 5.

¹⁷⁹⁰
MDCCLXXXV.

Codex autographus, absolutus die 11. Ragebi, anno Egiræ 819. quo quidem continentur:

1.º Præcipuorum Regum gesta ac dicta, necnon insigniores Politicorum sententiæ, perinde ut celebriora Poëtarum carmina, hoc tantùm titulo: *Excerpta* (11): auctore (12) *AHMAD BEN ALSAIRAGI*. (13)

Ejus-

- Finis*: وعد الممات
- (8) *Titulus*: كتاب شمائل محمد
- (9) *Titulus*: ادب الصحبة
- (10) *Initium*: اعلم ان ادب الصحبة من الموقفين
- Finis*: ان يكون المختار من نواذر الاخبار
- (11) *Titulus*: جمع احمد بن السيرجي
- (12) *Auctor*: فاني استخرت الله
- (13) *Initium*: خذ جميعه
- Finis*: ا

2.º Ejusdem *Mahometanorum Privilegia* in unum collecta.

¹⁷⁹¹
MDCCLXXXVI.

Codex nitidis exaratus litteris, in quo habentur:

1.º Poëma de Regulis Critices ad Historiam Mahometanam pertinentibus, inscriptum *Manuductio* (1). Illius auctor *MOHAMAD BEN MOHAMAD Algezeri*. (2)

2.º Commentarius in Rhetoricam, quæ titulum habet *Clavis*: auctore *ABI ABDALLA MOHAMAD ALCARVINI*.

3.º Ejusdem Grammatica ad usum tironum & doctorum elaborata, *Commeatus* inscripta. (3)

¹⁷⁹²
MDCCLXXXVII.

Codex exaratus anno Egiræ 903. Christi 1497. feriâ 7. die 6. Gemadi prioris, in quo habentur:

1.º Historia vestis cujusdam, quæ Arabibus, Persis, Turcis *Thailan*, طيلسان, Græcis *Epomis* dicitur, Mahometanorum Philosophis ac Monachis potissimum usitata. De illius origine, usu & præstantia differit ibi Clarissimus *ASIVTHEUS*, opusque inscribit *Pulchra Historia*. (4)

2.º Ejusdem de Rhetoricæ Regulis Poëma, hoc titulo insigne: *Moni- le gemmis contextum*. (5)

3.º Ejusdem de Arte Grammatica alterum Poëma, *Grammaticæ Al-*

(1) *Titulus*: الهداية في علم الرواية

(2) *Auctor*: تاليف محمد بن محمد الجزيري

(3) *Titulus*: مونة الصغير والكبير

(4) *Titulus*: الاحاديث الحسان في فضل الطيلسان

(5) *Titulus*: ارجوزة عقود الحمان في علمي المعاني والبيان

phia dictæ Compendium sufficiens inscriptum (6), quod absolutum est anno Egiræ 869.

¹⁷⁹³
MDCCLXXXVIII.

Codex nitidè exaratus, anni notâ & sine mutilus, olim ad Regiam Bibliothecam *Marochanam* pertinens: quo continetur Historia Mahometi in capita complura distributa, cui titulus *Res gesta Mahometi* (7). Eam condidit *ABU-LHASSANUS ABDALLA BEN MOHAMAD AL-BAHIKI*, gente *Africanus*. (8)

¹⁷⁹⁴
MDCCLXXXIX.

Codex scitè exaratus *Damasci* anno Egiræ 869. die 11. mensis Saphari, quo etiam continetur Mahometi Historia, variis distincta capitibus, & *Felicitatum Liber* inscripta (9). Ejus auctor est *MAGEDEDDINUS ALPHIRUZABADI*, præclarissimus Lexici Arabici *Camus* nuncupati conditor. Hanc porro Historiam Mahometanæ Sectæ Pontifices, morumque Censores in Actorum apochriphorum album retulerunt, ut extremo libro ascriptum testatur Decretum, ubi proscriptarum Propositionum Index occurrit. (10)

¹⁷⁹⁴
MDCCCXC.

Codex perita manu exaratus absque anni notâ, quo continetur Commentarius titulo *Sufficiens* (11), in Mahometi vitam jam pridem editam à Docto-

(6) *Titulus*: كتاب الوفية في اختصار الالفية

(7) *Titulus*: كتاب اخبار محمد

(8) *Auctor*: تاليف ابو الحسن عبد الله بن محمد البهقي

(9) *Titulus*: سفر السعدان

(10) *Initium*: من باب التعزير بالمال
Finis: م

(11) *Titulus*: كتاب الاكتفا

ctore *ALADH*, *Septæ & Granatæ* Præ-
tore. Illius auctor *TAGEDDINUS ABD-*
ELBAKI *OTU Iemanensis*, domicilio verò
Granatensis.

1796
MDCCXCI.

382 Codex nitidè exaratus die 11. Mo-
harami, anno Egiræ 882. in quo ha-
beretur ejusdem Doctoris *ALADHI* *Histo-*
ria Mahometana, quam *HASSANUS BEN*
HASSAIN ALTAULAVI (1) in epitomen
hocce titulo contraxit: *Obletamentorum*
Libamentum (2), seu *Excerpta ge-*
nuinarum Traditionum. (3)

1797
MDCCXCII.

366 Codex nitidis litteris exaratus anno
Egiræ 565. Christi 1169. feriâ 7. die
6. Rabii posterioris, quo continetur
Mahometi *Historia* secundùm *AISCHE*
ipfius conjugis traditionem, in partes
duas distributa, inscriptaque *Liber mo-*
rum Mahometi (4): auctore (5) *ABUL-*
PHADHELO ALABBAS BEN ABILABBAS AL-
SAPHANI Granatensi. (6)

1798
MDCCXCIII.

Codex nitidis litteris exaratus, quo
continentur:

1.º Mahometi *Vita*, inscripta *Vi-*
ri eruditi Exemplar (7), auctore *ASSIV-*
THEO.

Tom. II.

(1) *Auctor*: تاليف حسن بن حسين
الطولوي

(2) *Titulus*: مناعل الصفا في تخرريج
احاديث الشفا

(3) *Initium*: هذا كتاب نفيــــــــــــــــس
Finis: بسنن رجاله ثقــــــــــــــــاب

(4) *Titulus*: كتاب اخلاق محمد

(5) *Auctor*: جمع ابو الفضل العباس
بن ابي العباس السفاني غرناطي

(6) *Initium*: اخبرنا الشيبــــــــــــــــخ
Finis: ان ياكل بالشــــــــــــــــال

(7) *Titulus*: انموذج اللبيب فــــــــــــــــي

2.º Ejusdem *Opusculum* varias
Mahometanorum preces complectens,
inscriptumque *Sagittæ jaculatoriæ cer-*
ta. (8)

3.º Ejusdem *Libellus* *Traditiones*
XL. continens, cui titulus *Vitæ Re-*
cuperatio. (9)

4.º Ejusdem *Opusculum* de Ma-
hometanæ *Historiæ* sacre origine, quod
Mahometanorum nemo hactenus ag-
gressus est, *Fundamentorum Specimen*
inscriptum. (10)

5.º *Libellus* de *Hæreditatis Radi-*
cibus, titulo *Directorium Juridicum* (11):
auctore *ALI BEN AHMAD ALHASNI AL-*
SAMHUDI (12), ex urbe *Sambud* in *Ægyp-*
to, qui nono Egiræ seculo inclaruit.

1799
MDCCXCIV.

Codex litteris *Cuphics* exaratus
absque anni notâ, continens *Alcorani*
Historiam, ubi de ejus veritate, stylo
& auctoritate differitur; tum etiam va-
riæ Mahometi ad plurimos Reges, vi-
rosque principes occurrunt *Epistolæ*.
Insriptio *Alcorani Revelatio* (13); *Sci-*
ptoris verò nomen latet. (14)

1800
MDCCXCV.

Codex litteris *Cuphics* *Malacæ*
exaratus die 27. mensis *Ragebi*, anno
Egiræ 709. Christi 1309. Continet Hi-
sto-

خصايع الحبيب
(8) *Titulus*: سهام الاصابة في الدعواة
المحابة

(9) *Titulus*: احبا المين بفضائل اهل
البيت

(10) *Titulus*: اللمع في اسباب الحديث

(11) *Titulus*: كتاب المنهج

(12) *Auctor*: تاليف علي بن احمد
السمهودي الحسني

(13) *Titulus*: كتاب في نزول القرآن
وسالنا سايد

(14) *Initium*: واسترشده يرشــــــــــــــــدك
Finis: و

209

storiā Mahometanam, seu Mahometi Acta, hoc titulo: *Traditionum Deliciae* (1), auctore *ABU MOHAMAD ALHASSANO EBN ALI LAKHAMITA*, Hispano. (2)

¹⁸⁰¹
MDCCXCVI.

⁵⁸² Codex Damasci exaratus die 2. mensis Dilcadat, anno Egiræ 582. quo continetur Liber Apologeticus in partes tres divisus, qui inscribitur *Confutatio Errorum, & Defensio Doctrinæ Antistitis ABULHASSANI ALASCHARITÆ* (3). Ibi ejus vitam stylo pereleganti describit *ALI ABULCASSEMUS ALCASCHAIRI, Nisaburiensis*, qui anno Egiræ 409. *Meccæ & Medina* claruisse traditur inter *Ascharitas* Theologos, qui penes Mahometanos orthodoxi habentur, & quos inter & *Motazelitas* perpetua viget contentio. Illi enim actiones humanas Deo, hi verò homini; alii autem Deo hominique tribuendas esse docent. De eorum Dogmatibus alibi à Nobis fatis dictum est.

¹⁸⁰⁷
MDCCXCVII.

⁵⁸² Codex eleganter in urbe Damasco exaratus anno Egiræ 582. feriâ 3. die 13. mensis Schabani, quo continentur Pars III. & IV. Historiæ Mahometanæ, *Crisis Historica* (4) inscriptæ: auctore *ZAINEDDINO ABU BAKER MOHAMAD BEN MUSA ALHAZEMI ALHAMAD*

- (1) *Titulus*: زهرة الخاطر في الحديث
(2) *Auctor*: تاليف أبي محمد الحسن ابن علي اللخمي الاندلسي
(3) *Titulus & Auctor*: كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب الي الامام ابي الحسن الاشعري
(4) *Titulus*: كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الحديث
(5) *Auctor*: تاليف نرين الدين ابو بكر محمد بن موسى الحازمي

DANO (5), Persa ex urbe *Hamadan*, ubi diem obiit anno Egiræ 584. multa ingenii sui monumenta relinquens, in primis verò *Sacram Historiam Mahometanam*, in partes IV. digestam, in qua complura falsa variasque cum dubiæ, tum suspectæ fidei narrationes à veris ac genuinis Traditionibus fecerere conatur. De urbe *Hamadan* agit *CAZVINÆUS* in *Historia sua Naturali*, & *GOLIUS* in *Notis*, pag. 220.

¹⁸¹³
MDCCXCVIII.

⁸⁷⁶ Codex nitidè exaratus anno Egiræ 876. Christi 1471. feriâ 3. die 19. mensis Saphari, in quo habetur Opus Historicum LVI. capitibus comprehensum, *Expedita & facilis Methodus* (6) inscriptum: auctore *MEHILDINO IAHLIA BEN SCHARAPH ALNAVAI Damasceno*, viro doctrinâ & pietate apud suos clarissimo. (7)

¹⁸¹⁴
MDCCXCIX.

⁸⁹⁴ Codex nitidè exaratus die 9. Rabbii posterioris, anno Egiræ 894. quo continetur Chronica Sanctorum Mahometanorum, litterarum ordine distributa, titulo *Sociorum Delectus*. (8)

¹⁸⁰⁶
MDCCC.

⁶⁰³ Codex litteris Cuphiceis exaratus anno Egiræ 603. mutilus, quo continentur Vita Mahometanorum quorundam,

- الهدايا
(6) *Titulus*: كتاب التقريب والتيسير الي معرفة سنن البشير
(7) *Initium*: وهذا كتاب اختصرة من علوم الاحاديث من اقام في بلد اربع سنين
نسب اليها
(8) *Titulus*: كتاب اختيار الرفيق في اخبار الاجرار

dam, qui in Orbe Hispano pietatis laude floruerunt, ab Anonymo quodam conscriptæ, quibus titulus *Historia Prophetarum Virorumque justorum* (1). Ex Regia Bibliotheca Marochana.

MDCCCI.

Codex litteris Cuphicus exaratus die 21. Gemadi prioris, anno Egiræ 695. quo continentur Vitæ *ALBOKHARI*, & *MOSLEMI EBN ALHAGIAGÆI* Traditionum Mahometanorum Scriptorum, ubi de eorundem fide & auctoritate, *Legum Demonstratio ac Propugnatio* (2) inscriptæ. Earum auctor *ABU ABDALLA MOHAMAD BEN RASCHID Septanus* (3), qui se id operis anno Egiræ 689 absolvisse testatur.

MDCCCII.

Codex nitidè exaratus die 27. mensis Scheuali, anno Egiræ 834. quo continetur Historia trium Doctorum Mahometanorum, Sectæ videlicet *Schapheticæ*, *Malekiticæ* & *Hanaphiticæ* Principum, inscripta *Historiarum Delectus* (4): auctore (5) *ABU OMARO JOSEPHO BEN ABDALLA ALNAMARI Hispano*. (6)

MDCCCIII.

Codex elegantibus litteris exaratus Tom. II.

- (1) *Titulus*: اخبار الاوليا والاصفيا
 (2) *Titulus*: كتاب السنن الابيين
 والمورد الامعن
 (3) *Auctor*: تاليف ابي عبد الله محمد بن رشيد السبتي
 (4) *Titulus*: الانتقا في اخبار الثلاثة الفقها
 (5) *Auctor*: تاليف ابي عمر يوسف بن عبد الله النمري الانرلسي
 (6) *Initium*: فان طاييف
Finis: حتي الممات جدي
 (7) *Titulus*: لطايف المنن في مناقب ابي العباس احمد المرسي

anno Egiræ 892. ubi occurrit Vita *ABILHABBASI AHMEDI BEN OMAR Murciaiani*, viri pietate apud suos insignis, in X. capita divisa, quæ hunc præ se fert titulum: *Lectiora & expetita Morum Tempora* (7): auctore (8) *ABULPHADHELO AHMAD BEN ATHA ALLA ALSCHADELITA Alexandrino*. (9)

MDCCCIV.

Codex nitidè exaratus, anni notæ expers, in quo habetur Vita *ABILHASSENI ALI*, vulgò *ALSCHADELI*, qui anno Egiræ 634. Septæ magnâ pietatis ac doctrinæ famâ decessit, hoc insignita titulo: *Margarita Mystica & Munusculum sanctum* (10). Hanc litteris consignavit *MOHAMETUS BEN ABILCASSEMUS ALHOMAIRITA Granatensis*, ejusdem discipulus. (11)

MDCCCIV.

Codex litteris Cuphicus descriptus, quo continentur:

1.º *ABILHASSENI*, quem proximè laudavimus, Historia, cui titulus *Maria* (12): auctore *AHMAD BEN AHMAD*, vulgò *ALBORNOS*, domicilio *Granatensis*. (13)

2.º In eandem Historiam Commentarius, titulo *Veritates* (14), à *MO-*

VV 2

HA-

- (8) *Auctor*: تاليف ابي الفضل احمد بن عطا الله الشاذلي الاسكندري
 (9) *Initium*: قصدت في هـ
Finis: علي كاتبه وقاريد
 (10) *Titulus*: درة الاسرار وتحفة الابرار
 (11) *Auctor*: تاليف محمد بن ابي القاسم الحميري
 (12) *Titulus*: حزب البحر
 (13) *Auctor*: تاليف احمد بن احمد المرسي الغرناطي
 (14) *Titulus*: الحقايد

HAMETO BEN MOHAMAD Fessæ Præto-
re (1) elaboratus. Is Granatæ supre-
mum diem obiit anno Egiræ 759.

3.º Opusculum, *Fulgor coruscans*
(2) inscriptum, de licito Musices usu:
quod evulgavit AHMAD BEN MOHA-
MAD, ALGAZELI filius, *Thusensis*. (3)

4.º Poëma in Judæum quemdam
Poëtam, qui carmina adversus Maho-
metanorum Sectam condidit. Ejus au-
ctor ABU GIAPHARUS BEN SAPHUAN Ma-
lacitanus (4), qui anno Egiræ 762.
floruit.

1811
MDCCCVI.

895 Codex litteris Cuphicus exaratus
anno Egiræ 895. aliud ABILHASSEMI
Vitæ bis supra memoratæ exemplar,
sed inferioris notæ, complectens.

1812
MDCCCVII.

de 1812 a 1820 in repetitio de 1782 a 1787 de 1750 a 1754
Codex autographus, absolutus die
11. Ragebi, anno Egiræ 819. quo
continentur:

1.º Præcipuorum Regum gesta
& dicta; necnon insigniores Politico-
rum sententiæ, simulque celebriora
Poëtarum carmina, opus *Excerpta*
inscriptum (5): auctore (6) AHMAD BEN
ALSARAGI supra laudato. (7)

2.º Ejusdem Mahometanorum Pri-
vilegiorum Collectio.

- (1) Auctor: محمد بن محمد قاضي
مدينة فاس
(2) Titulus: جوارق اللماع في تكفير
من يحرم السماع
(3) Auctor: احمد بن محمد الغزالي
الطوسي
(4) Auctor: ابو جعفر بن صفوان
المالقي
(5) Titulus: المختار من نوادر الاخبار
(6) Auctor: جمع احمد بن السيرجي

MDCCCVIII.

1813
Codex nitidis exaratus litteris, in
quo habentur:

1.º Poëma de Regulis Criticis Hi-
storiæ Mahometanæ, quæ *Manuductio*
(8) inscribitur: auctore MOHAMAD BEN
MOHAMAD ALGEZERI. (9)

2.º Commentarius in Rhetoricam,
quæ *Clavis* titulo circumfertur: au-
ctore ABI ABDALLA MOHAMAD Alca-
ruini.

3.º Eiusdem Grammatica ad usum
tironum & doctorum elaborata, *Com-
meatus* (10) inscripta.

1814
MDCCCIX.

Codex litteris Cuphicus descriptus
anno Egiræ 706. die 8. Dilcadat feriâ
5. quo continentur:

1.º Mahometi Historia, quam
vulgavit ABI ISA MOHAMAD BEN SU-
RA, vulgò ALTARMAZI; inscripsitque Mo-
hameti *Morum Librum*. (11)

2.º Mahometanorum Mores &
Consuetudines, liber inscriptus *Societa-
tis Leges* (12): auctore ABI ABDELRAH-
MAN MOHAMAD ALSALMI Nisaburien-
si. (13)

1815
MDCCCX.

Codex exaratus anno Egiræ 903. 903
Christi 1497. feriâ 7. die 6. Gema-
di prioris, in quo habentur:

Hi-

- (7) Initium: فاني استخرت الله
Finis: خذ جميعه
(8) Titulus: الهداية في علم الرواية
(9) Auctor: قاليب محمد بن محمد
الجزيري
(10) Titulus: مونة الصغير والكبير
(11) Titulus: كتاب شمائل محمد
(12) Titulus: ادب الصحبة
(13) Initium: ان يكون من الموثقين
Finis: اعلم ان ادب الصحبة

1.º Historia Vestis cujusdam, quæ Arabibus, Persis, Turcisque *Thailsan* طيلسان, Græcis verò *Epomis* dicitur; Mahometanorum Philosophis & Monachis potissimum usitata. Ibi de illius origine, usu ac præstantia Clarissimus *ASIVTHEUS* differit. Is autem liber inscribitur *Pulchra Historia*. (1)

2.º Eiusdem de Rhetoricæ Regulis Poëma, cujus inscriptio *Monile gemmis contextum*. (2)

3.º Eiusdem de Arte Grammatica alterum Poëma, cui titulus *Grammatica Alpha dicta sufficiens Compendium* (3), anno Egiræ 869. absolutum.

MDCCCXI.

Codex litteris Cuphicus exaratus, anni notâ carens, ex Regia olim Bibliotheca *Marochana*, quo continetur Pars III. Itinerarii Hispani, quod *BEN ALKHATHIBUS* supra laudatus tripartitum edidit, inscripsitque *Analecta* (4). Habetur ibi plurimarum Urbium, quas Auctor perlustravit, descriptio; necnon Virorum clarissimorum & Bibliothecarum recensio. (5)

MDCCCXII.

Codex litteris Cuphicus descriptus, nulla prorsus anni notâ, Itinerarium Hispanicum & Africanum complectens,

(1) *Titulus*: الاحاديث الحسان في فضل الطيلسان

(2) *Titulus*: ارجوزة عقود الجمان في علمي المعاني والبيان

(3) *Titulus*: كتاب الوافية في اختصار الالفية

(4) *Titulus*: نفاضة الجراب

(5) *Initium*: وعملنا علي الصعود الي الجبل

Finis: لامل فلان في كـزا

(6) *Titulus*: برنامج

(7) *Auctor*: عبيرالله القاسم بن يوسف

quod *Librorum Indicem* (6) inscripsit, emisitque anno Egiræ 626. (7) *OBALDALLA ALCASEM BEN JOSEPH BEN ALI ALTAGIBI Valentinus*. (8)

MDCCCXIII.

Codex litteris Cuphicus exaratus, sine anni nota, in quo habetur Arabicarum Antiquitatum Historia cum Notis margini ascriptis, *Proverbiorum Liber* (9) inscripta. Hujus auctor (10) *ABI ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELMUMEN BEN SALAM ALKHAZAI*, cum vetustate, tum eruditione spectatissimus. (11)

MDCCCXIV.

Codex nitidis exaratus litteris, quo continentur:

1.º Itinerarium Ægyptiacum, quod edidit anno Egiræ 876. Christi 1471. 876 feriâ 2. die 8. Rabii posterioris *MOHAMAD BEN ALI ALSHAMNI ALRARI*, gente *Hispanus*. (12)

2.º Epistola pereleganter exarata, feriâ 1. die 19. Dilcadat, anno Egiræ 898. Christi 1492. in qua Antistes *ABDALLA AHMAD BEN IAHA ALNUASCHERSIUS* Antistitem *ABU ABDALLAM BEN CASIAM* de Mahometanorum Granatensium, captâ à Christianis Granatâ, *Marochum* adventu certiolem facit; simulque de improbo eorundem illuc

بن علي التجيبي البلساني

(8) *Initium*: اخبرنا الشيخ ولرغبة الاصحاب في الاختصار

(9) *Titulus*: كتاب الامثال

(10) *Auctor*: ذاليفق ابي عبد الله محمد بن عبد المومن بن سلام الخزاعي

(11) *Initium*: هذا كتاب الامثال وهي حكمة العرب في الجاهلية والاسلام

قال الاصمعي

(12) *Auctor*: رسالة محمد بن علي الشمني الرارمي الانرلسي

illuc iterum revertendi consilio vehementer conqueritur.

MDCCCXV.

Codex non una manu exaratus, quo continentur:

1.º *Meccæ Privilegiorum Collectio*, cui titulus *Moschi Odores* (1): auctore *MOHAMAD ALGAZALI Meccano*. (2)

2.º *Opus Dogmaticum, Impiorum*

(1) *Titulus*: ذوايح المسكينة

(2) *Auctor*: تاليف محمد الغزالي المكي

(3) *Titulus*: الاجوبة الفاخرة في رد الاسئلة الفاجرة

(4) *Auctor*: تاليف شهاب الدين احمد

Quasitorum Confutatio (3) inscriptum: auctore *SCHEHABEDDINO AHMAD BEN EDRIS ALCARANO* (4), qui argumenta centum & sexaginta duo cum ex Veteri, tum ex Novo Testamento petita ibi adfert; eaque Christianis objicit, (5)


Hujusmodi Operis impiissimi scribendi ansam dedit alterum Arabicam item linguam conscriptum, quod Christianus vir, gente *Hispanus*, adversus Alcoranum olim publicaverat.


بن ادريس القران

(5) *Initium*: فان بعض النصاري قد انشا رسالة مشتملت علي الاحتجاج بالقران

وعلي صحة مزعب النصرانية

Finis: ولا يقبلوا ما فيها من الدلالة علي محمد





APPENDIX CODICUM

Qui , Tomo hujus Bibliothecæ altero
ad ultimos penè typos jam perducto,
in Regio *Escurialensi* Cœnobio
reperiti sunt.

I N F O L I O.

¹⁸²¹
M D C C C X V I.

Codex summa curâ & litterarum
elegantiâ descriptus, quo Evan-
gelia quatuor in Persicum conversa
continentur. (1)

Ad hujus Codicis extremum hæc
Hispano sermone conscripta perlegas:

Esta es una copia de un libro de los Evangelios escrito en lengua Persiana, que fue hallado en las tierras del Gran Mogor, uno de los mas poderosos Reyes de las partes Orientales: la qual embiò à S. M. el Padre Jeronimo Xavier de la Compañia, que reside en la Corte de aquel Rey; y se recibió por las Naos que este año de 1610. llegaron de la India à Portugal. Y la forma en que este Libro se hallò, y su antiguedad se declara en una Certificacion del mismo Padre, que viene escrita por èl en lengua Castellana en este traslado que ha embiado del dicho libro.

Certifico yo el Padre Jeronimo de la Compañia de Jesus, Superior de los Padres de la misma Compañia que residen en la Corte, y Reynos del Gran

Mogor, que este libro de los Evangelios en Persiano le trahia consigo un Padre Armenio que de Hierusalem venia à estas partes el año de 1598. Y consta por aquel mismo libro haver sido escrito el año del Señor de 828. y la letra, papel, y composicion del da testimonio de su antiguedad.

Vino à nuestra mano por la manera siguiente. El dicho Padre que trahia aquel libro, llegando de Hierusalem à la Persia, partiò de alli en compañía de Manucher que venia por Embajador de Jahbac Rey de la Persia à el Rey Jeralin Acbar Mogor à esta Ciudad de Lahor: y como el dicho Sacerdote por cierta causa no pudo continuar el camino con dicho Embajador, se quedò atras; y viniendo en otra caphila, murió en el camino. Algunos Armenios que venian con èl truxeron à esta Ciudad de Lahor sus libros, entre los quales venia el sobredicho de los Evangelios; y los entregaron à el Padre Manoel Pannero de la Compañia de Jesus, que por orden de la san-

ta

(1) *Initium* : درنام

Finis : وبتتم البركات

ra obediencia aqui residia. El qual Padre debiendo embiar à Hlis los libros del dicho Padre difunto, guardò el de los Evangelios: y del, como digo, se trasladdò este sin haber en èl alguna mudanza en cosa alguna; y està fielmente cotejado. Y en testimonio de la verdad hizo estos renglones de mi mano, y los firmè de mi nombre, y sellè con el sello de Superior de los Padres de la Compañia de Jesus de estas partes. Hecha en esta Ciudad de Labor Corte del Rey Nurdin Jahanguir Mogor à los 21. de Diciembre de 1607.

L. S.

Feronimo Xavier.

Idem Testimonium Perficè conscriptum ibidem legitur, secundum quod ex Hispanis verbis supra scriptis nonnulla videntur corrigenda atque elucidanda. Itaque substituendum Mogol pro Mogor. *Manugeher* pro *Manucher* *Schas Abbas* pro *Fahabac* *شاه عباس*.

„ *Abbas Chodabanda* filius qui anno *Egiræ* 1008. (Christi 1599.) Perficæ imperavit. Mortuus est anno Christi 1629. referente *Oleario*, cum regnasset annos quadraginta quinque, sexaginta tres vixisset. Successorem habuit nepotem *Sain Mirza Schah Sefi*, quod patris nomen fuerat, postea appellatum, qui anno Christi 1642. regni sui duodecimo decessit, succedente *Schah Abbaso* secundo. Ex *Pocockio* in *Supplemento Historiæ Dynastiarum*, pag. 66.

Rey *Felalin Acbar Mogor*. In textu Perfico legitur *نور الدين جهانگیر* *Nureddinus Gehankir*.

(1) *Initium*: باب الرأ من كة اب الصالح

A esta Ciudad de Labor لاهور, quæ regio est & urbs inclyta: videsis in *Alferganum GOLII Notas*, pag. 107.

Pro Hlis reponendum *Heri* هري urbs *Korafanæ*, olim *Aria*.

Quis autem Interpretationis hujus auctor extiterit, definire non ita facile; nec inquirere abs re foret, è qua potissimum lingua Evangelia hæc quatuor in Perficam conversa sunt. Cæterum Interpretationem hujusmodi ante octavum seculum factam fuisse nullus dubito.

MDC¹⁸²⁷CCXVII.

Codex litteris maximis, initio & anni notâ defectus, foliis 236. constans, quo continetur Tomus primus celeberrimi *BEITHARIS* operis de *Medicamentis Simplicibus*, litteras complectens اب ت ت ج, adjectâ passim ad Codicis oras Latina Simplicium aliquot interpretatione. Qui ad *BEITHARIS* opus à nobis recensitum Tomo I. *Bibliothecæ Arabico-Hispanæ*, pag. 274. ex quo Tomi I. & V. desiderabantur, procul dubio pertinet.

MDC¹⁸²⁰CCXVIII.

Codex Cuphicus exaratus litteris feriâ 5. die 4. mensis Rabii prioris, anno *Egiræ* 652. in quo habetur Tomus scilicet II. Lexici Arabici, cui titulus *Linguae Diadema*: auctore *ABU NASSER ISMAEL EBN HAMAD ALGIAUHARI ALPHARABI*, de quo in Tom. I. nostræ Bibliothecæ pagg. 168. 169. & 170. Ibidem varia Lexici hujus exemplaria recensentur, in iis verò illud Num. DLXXVII. & DLXXVIII. supra descriptum, quod in Tomos tres digestum esse constat, quorum quidem hic secundus. (1)

Co-

Finis: وللهتجان جتيان

MDCCCXIX.

¹⁸²⁴
Codex nitidè exaratus die 9. Gemadi prioris, quo continetur Tomus secundus & ultimus operis Dogmatici, cui titulus *Falsa Doctrina Sectarum* (1), ubi auctor *MOHAMAD ALI BEN AHMAD BEN HAZAM*, religione *Sunita*, id est *Orthodoxus*, Motazelitas qui inter Mahometanos hæretici habentur, multis, sed futilibus argumentis refellere conatur. Motazelitæ contra Sunitas docent Deum peccata, puta Hæresim, Adulterium, minimè velle; ea verò homines libero arbitrio præditos per se perpetrare contendunt. (2)

MDCCCXX.

¹⁸²⁴
Codex litteris Cuphiciis exaratus in urbe *Denia*, die 15. Scheuali, anno ⁸⁸⁸ Egiræ 888. ubi occurrunt Epistolæ variæ nomine Regum *Granatæ* ad Africæ Reges olim datæ, quas clarissimus *ABU ABDALLA BEN ALKHATHIB*, dum Regis esset à Secretis, partim scripsit, partim ab aliis scriptas in unum collegit, hoc titulo: *Herba odorata Libri, & excelsi animi Pabulum* (3). Dividitur opus in capita XX. Fit autem ibi mentio de mutuis ad *JOSEPHUM & PHARESUM*, *Granatæ* ac Feslæ Reges legationibus & litteris; prælia quoque & victoriæ à Mahometanis de Christianis reportatæ describuntur: de quibus idem Scriptor agit in *Regum Granatæ Hi-*
Tom. II.

(1) *Titulus*: الجذر الثاني من النحل والملل

(2) *Initium*: الكلام هل شا الله كـون الكفر والفسق اما لا يشا. قالـت المعتزلة ان الله لم يشا ان يكفر الكافر ولا ان يفسق الفاسق وقال اهل السنة بخلافه

وعلي الد. وسلـم

(3) *Titulus*: مريحانة الكتاب ونجعة

storia, Bibliothecæ nostræ *Tom. II. pagg.* 301. 302. 304. 305. & alibi. (4)

MDCCCXXI.

¹⁸²⁶
Codex nitidè descriptus in urbe *Herat* die 21. Moharami, anno Egiræ 748. quo continetur opus Artis ⁷⁴⁸ Rhetoricæ præcepta complexum, cum Notis ad Codicis oras perpetuis, initio & Scriptoris nomine carens. (5)

MDCCCXXII.

Codex Fragmenta varia completens, videlicet:

1.º Folia IV. de Re Grammatica.

2.º Folia VI. de Grammaticæ Institutionibus, quas edidit *ABULHASSENUS THAHER BEN AHMAD BEN BEISCHAD Grammaticus*. (6)

3.º Folia V. de Anni Calendario.

4.º Folia XI. de Coitu, ac de Remediis corroborantibus.

5.º Folia XVIII. de humani Corporis Anatomia, videlicet Partes I. & II. Libri I. Medicinæ, qui *Liber Regius* (7) inscribitur: auctore *ALI BEN ALABBAS*, de quo in Bibliothecæ nostræ *Tom. I. pag. 260.*

6.º Folia XVI. de variis Naturæ Secretis.

MDCCCXXIII.

Codex tum anni notâ, tum fine carens, in quo habetur Anonymi Com-

Xx men-

المنية

(4) *Initium*: الحمد لله الذي قسم العلي العظيم

(5) *Finis*: عليه وعليهم السلام

(6) *Auctor*: أبو الحسن طاهر بن أحمد بن بابيشاد النهوي

(7) *Titulus*: كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالملكي

mentarius in Grammaticam Arabicam, *Medullam* (1) nuncupatam, cujus auctor inter Arabas celebratissimus *ALBIDHAVI*, de quo in *Tom. I.* nostræ Bibliothecæ, pag. 28.

IN QUARTO.

MDCCCXXIV.

Codex litteris ¹⁸⁷⁹Cuphicis exaratus absque anni nota, foliis constans 130. quo continentur:

1.º Liber *PTOLEMÆI* *Quadripartitus* de Astrologia Judiciaria, sive Libri quatuor de Apotelesmatibus & Judiciis Astro- rum ad Syrum, opus capitibus LX. comprehensum, inscriptumque (2) *Liber PTOLEMÆI, sive Assertiones quatuor de Astro- rum Judio circa rerum eventum.* (3)

2.º Eiusdem Liber ad Syrum, qui *Fructus* (4) inscribitur. (5)

Initio Codicis hæc *Davidis Colvilli* Annotatio authographa legitur, quam hîc transcribendam duximus.

Liber qui à Latinis Quadripartitum PTOLEMÆI dicitur, quia continet quatuor libros in quibus tota doctrina Astrologia judiciaria continetur, non expresso nomine traductoris, liber undequaque completus cum indice omnium Capitulorum in principio. Deinde est alius liber ejusdem saltemi vulgò PTOLEMÆO attributus, qui à Latinis dicitur Centiloquium, quia continet centum Propositiones, seu Aphorismos de Judiciis Astrologicis, Arabicè dictus ثمرة Fructus.

JOSEPHUS SCALIGER in *Notis super Astronomica Manilii* ostendit, quòd nomen *ALCABITIVS* non erat proprium,

sed cognomen Auctoris, vel potius Libri: quia inquit, articulus non præponitur vocibus propriis, sicut in ista voce *ALCABITIVS* apertè præfigitur; ideoque inquit esse nomen appellativum à verbo قبض, quod significat colligere: unde *ALCABITIVS*, inquit, idem significat ac si Latinè diceremus Fasciculus, vel Collectio; confirmatque hanc acutissimam inventionem nomine hujus Libri qui à Latinis dicitur Centiloquium.

Contuli autem translationem hanc Arabicam cum autographo suo textu Græco *PTOLEMÆI*; & plurimis in locis ab eo dissentit & infinita omittit. Et ex translatione ista Arabica desumpta est antiqua nostra Latina, quæ non solum multis modis barbara est, sed ubique ferè ab ipso Arabico autographo mirum in modum dissentit. Nec ullam excusationem admittere possumus pro translatione hac Latina, nisi meram inscitiam translatoris qui neque linguam Arabicam, nisi valde superficie tenus, neque vocabula hujus artis propria intellexisse videtur. Aliquod tamen excusationis velum prætexere possemus pro translatione Arabica ex Græco; quia phrasis Græca adeò difficilis, & in primis tanta compositarum vocum copiâ abundans, ut non modò Arabica quæ compositas voces non admittit; sed etiam Latina, nec ulla alia quavis linguarum Græcæ comparari possit.

NOSTRÆ IN HUNC CODICEM

ANIMADVERSIONES.

Prior Codicis hujus Pars, quæ titulum præ se fert *Liber Ptolemæi*, sive *Asser-*

(1) Titulus : شرح اللب في الخواص
(2) Titulus : كتاب الاربع مقالات
لبطلميوس في القضا بالنجوم على
الحوادث
(3) Initium : ان الامور التي بها يكون
Finis : اختتم هذا الكتاب في هذا

الموض
(4) Titulus : كتاب الثمرة لبطلميوس
(5) Initium : قد قرمنا ل
باسورس
فان الخارج من حضرة
الاقام

Affertiones quatuor de Astrorum Judio, &c. non libri quidem, quod vulgò *Quadrupartitum* inscribitur, genuinam ac veram interpretationem continet, ut annotat *DAVID COLVILLUS*; quippe quæ cum Græco textu collata, in multis, ut ipse ait, discrepet; sed illius tantum compendium, quod *THABETUS* olim edidit, repræsentat, ut patet pag. 387. *Tom. I.* nostræ Bibliothecæ.

Libri *PTOLEMÆI Quadrupartiti* variorum Arabum interpretationes prodire, aliæ aliis castigatioribus, in quibus illa *ABRAHAMI BEN ALSALAT*, quam *HONAINUS ISACI* filius emendavit, ut videre est *Tomo I.* laudatæ Bibliothecæ, pag. 349. Interpretationem hanc plurimis commentariis & annotationibus illustrarunt *OMARUS BEN PHARKHAN*, *ABRAHAMUS BEN ALSALAT*, *ALNAIRIZIUS*, *ALBATEGNUS*, *ALI BEN REDHUAN*, cujus Commentarium Latinè editum testatur *CARDANUS* apud *FABRICIUM Bibliotheca Græca Tom. III. pag. 420.*

Ex Arabica versione *ALPHONSI* Regis jussu primùm concinnata est Hispanica, ex qua postea *ÆGIDIUS TEBALDINUS* Latinam planè barbaram confecit, teste *FABRICIO* laudatæ Bibliothecæ *Tom. III. pag. 419.*

PTOLEMÆI verò Librum, qui *Fructus* inscribitur, & altera Codicis Parte continetur, Commentariis adornarunt *AHMAD BEN JOSEPH*, *ALBATEGNUS* & alii laudati *Tom. I.* nostræ Bibliothecæ, pag. 372. & 399. *FABRICIUS* de hoc Libro agens in supra dicto *Tomo III. pag. 420.* „Extat, inquit, „versio Latina ex Arabico facta, & „post editionem Venetam 1493. fol. „ læpius edita.... Arabicum Codicem *Tom. II.*

(1) *Titulus*: رسالة الافصاح ببعض ما جا
من الخطا في الايضاح
(2) *Initium*: رسالة الافصاح

„memorat Labbeus *Bibl. MSS. pag. 256.* cum Commentariis *Perficis Nasirodini Thusi*, qui fuit inter *Codices manu exaratos*, quos *Jacobus Goli* ex Oriente secum attulit.

Ad versiones Latinas ex Arabico factas quod attinet, notandum est omnes quotquot seculis retroactis prodire, ob interpretum inscitiam, necnon exiguam utriusque sermonis peritiam vitiosas esse, ac planè barbaras: quod ipse meâ doctus experienciâ non semel animadverti. Quare non immeritò Latini viri graviter illas reprehendunt, ac sus deque habent.

JOSEPHI SCALIGERI Annotatio in titulum Libri *Fructus* de *ALCABITIO*, quam vocem à verbo Arabico قبض derivatam esse putat, ut nugatoria ac viro erudito profus indigna, præmittenda potius est quàm refellenda.

¹⁸³⁶
MDCCCXXV.

Codex litteris Cuphiceis exaratus; absque anni nota, quo continetur in Grammaticam, *Paraphrasin* dictam, *Censura*, cui titulus (1) *Errorum*, qui in eadem Grammatica occurrunt, *Recensio*: auctore *ABILHASSANO SOLAIMAN BEN MOHAMAD BEN ABDALLA ALSOBAI Malacitano*. Videtis *Tom. I.* Bibliothecæ nostræ, pag. 31. (2)

¹⁸³⁹
MDCCCXXVI.

Codex exaratus die 17. *Schabani*, anno *Egira* 970. quo continetur opus *Pratum floridum* (3) inscriptum, de Arabici sermonis peritia, puritate, elegantia atque usu, quod edidit clarissimus *ASSIUTHÆUS*. Idem sanè opus extat *Tomo I.* nostræ Bibliothecæ, pag. 56. an-

Xx 2

no

Finis: ونعم الوكيل
(3) *Titulus*: كتاب المزهر في علوم اللغة

no Egiræ 983. descriptum; sed hoc longè locupletius est illo, atque emendatius.

¹⁸³²
MDCCCXXVII.

⁷³⁰ Codex nitidè exaratus *Damasci* anno Egiræ 730. die 15. Saphari, quo continetur opus de conscribendarum Epistolarum ratione, hoc titulo insignitum: *Scribendi Ars* (1). Hujus auctor SCHEHABEDDINUS MAHMUD BEN SALMAN BEN PHAHD, ALEPINUS (2), non verò Hispanus, ut Catalogi Regiæ Bibliothecæ Parisiensis Auctores non satis consultò adnotarunt pag. 264. Num. MDLXXIV. (3)

¹⁸³³
MDCCCXXVIII.

Codex, prætermisâ anni notâ, exaratus, quo continetur Pars secunda Commentarii in opus de linguæ Arabicæ Præceptis, titulo hocce insignis: *Clarissimorum Virorum Observationes* (4), ubi etiam de Inscriptionibus: auctore ABRAHAM BEN OMAR BEN ABRAHAM ALGIABARI (5), qui obiisse traditur anno Egiræ 732. (6)

¹⁸³⁴
MDCCCXXIX.

Codex nitidè exaratus, quo continetur Commentarii in Logicam, quæ

Solaris (7) inscribitur, Pars prior, cujus auctor (8) ABU ALMOHAMED ABDELGANI EBN MAHMUD BEN ABRAHAM ALGIARBARDI. (9)

Aliorum auctorum in eandem Logicam Commentarii duo in nostra Bibliotheca recensentur pag. 180. & 187.

¹⁸³⁵
MDCCCXXX.

Codex nitidis descriptus litteris, quo continetur opus Apologeticum de Æthiopum colore, indole, virtute ac præstantiâ, hoc titulo: *Æthiopum & Nigritarum Dotes* (10), in XX. capita distributum: auctore GEMABELDINO ABILPHARAGIO ALGIAUZI (11), qui diem obiit anno Egiræ 567. (12)

De hac re egregiè inter alios scripsit ASSIUTHEUS.

¹⁸³⁶
MDCCCXXXI.

(Mss. in hands in the library of London, lat. 1278)

Codex eleganter descriptus, aureisque litteris identidem spectabilis, quo continetur Tractatus de Physiognomia, in partes IX. distributus, titulo *Naturas cognoscendi Scientia* (13): ubi de hominum ingeniis ac moribus ex oculis, fronte, vultu, totius denique corporis habitu, pernoscentis differitur. Agitur etiam ibidem de Animalium naturâ, necnon de variarum Nation-

- (1) Titulus: حسن التوسل الي صناعة الترسيل
(2) Auctor: شهاب الدين محمود بن سلمان بن فهد الحلبي
(3) Initium: اما بعد حمد الله
Finis: دون المختار
(4) Titulus: الجزء الثاني من جملة ارباب المراد في شرح عقيلة اذراب القضايد
(5) Auctor: ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجعبري
(6) Initium: وقال رحمه الله
Finis: فياليتني قد كنت اول

- صام
(7) Titulus: الرسالة الشمسية
(8) Auctor: ابو المحامد عبد الغني ابن محمود بن ابراهيم الجعبري
(9) Initium: الحمد لله الذي وهب لنا
Finis: اردنا تجديرة والله الموفق
(10) Titulus: تنوير الغبش في فضل السودان والحبش
(11) Auctor: جمال الدين ابو الفرج الجوزي
(12) Initium: الحمد لله الذي اختارني
Finis: واني فقير فاعني
(13) Titulus: رسالة في علم القيافة

tionum indole atque habitu. Scriptoris nomen latet. (1)

1837
MDCCCXXXII.

Codex nullâ anni notâ, quo continentur :

1.° Opus, *Florum Volucrumque Arcana referata* (2) inscriptum, ubi de Animantium ac Vegetabilium natura ingenioque differitur. (3)

2.° Collectio variarum Sententiarum, Apologorum ac Narrationum ad informandos mores pertinentium.

1838
MDCCCXXXIII.

Codex nitidè exaratus absque anni notâ, in quo habetur Historia Universalis in epitomen contracta, hoc titulo: *Rerum spectandarum Hortus* (4), eaque ab orbe condito ad annum Egiræ 800. per annorum seriem perducta: cujus auctor *ABULVALIDUS MOHAMAD BEN ALSCHOHNA*, qui vivere defuit anno Egiræ 883. (5)

Historiam hanc Universalem passim laudat *HERBELOTUS* in *Bibliotheca Orientali*, ubi illam describit pag. 792. nullâ Compendii, quod exhibet Codex noster, mentione factâ.

Animadvertendum hoc loci est, Scriptores Mahomeranos de rebus suis domi bellicque gestis scitè atque accu-

ratè scribere; non ita quidem de Veteris ac Novi Testamenti Historia, ubi veris falsa bene multa ex Alcorano & Mahometanorum traditionibus prodigialiter involvunt.

1839
MDCCCXXXIV.

Codex absque anni nota exaratus, complectens:

1.° Tractatum de Deo Uno, cui titulus *Unius Dei demonstratio* (6): auctore *MOHAMAD BEN ASAAD ALDUANI*. (7)

2.° Commentarium in opus, quod *Disputandi Ratio* (8) inscribitur, ubi de Theologia Scholastica illius auctor *MASSUD ALSCHIRVANI* (9), ex provincia *Schiruan* in Persia, edifferit.

3.° Synopsin *Logicæ* incerti auctoris, anno Egiræ 966. die 9. mensis Scheuali exaratam.

4.° Commentarium in opus Theologicum, quod *Ortus* (10) inscribitur, ubi de rebus ad Theologiam Scholasticam pertinentibus agitur: auctore *AHMAD ALABIURDI* (11), ex urbe *Abiurd* in Persia.

1840
MDCCCXXXV.

Codex nitidè exaratus absque anni nota. Ibi occurrit Anonymi Commentarius in opus Dogmaticum *Fundamenta* (12) inscriptum, quod edidit Do-

(1) *Initium*: الحمد لمن يستحق

الحمد

Finis: والله تعالى اعلم

(2) *Titulus*: كشف الاسرار عن حكم الطيور

(3) *Initium*: الحمد لله القريب في بعزه
وضعت كتابي هذا مترجما عما استفرغته
من الحيوان برمزة والجماد بغمزة وما
خاطبتني به الاشجار بلسان حالها
والاطيار عن مقرها وارتحالها

Finis: بالبلا مخصص ووص

(4) *Titulus*: روضة المناظر في اخبار

الاوليل والواو اخ

(5) *Initium*: الحمد لله الذي احسن

الي يوم الريد

(6) *Titulus*: رسالة في اثبات الواحد تعالى

(7) *Initium*: سبحانك سبحانك

واليه الرجوع

(8) *Titulus*: حاشية على شرح المواقف

(9) *Auctor*: مسعود الشرواني

(10) *Titulus*: حاشية على شرح المطالع

(11) *Auctor*: احمد الابدري

(12) *Titulus*: عقايد النسف

(1) *Uta cod. fuit vendida in London entre la de l'onde - vid. Catalogue of rare and Spanish books forming the Library of D. J. Antonio Canale - 1824 - n. 1276.*

Doctor *ALNASAPHI*, ubi de præcipuis Religionis Mahometanæ Capitibus. (1)

Id autem operis tanti fit apud Mahometanos, ut complures haberit Explanatores, quos inter principem sibi vindicat locum *MASSUD BEN OMAR ALTAPHTAZANI*.

¹⁸⁴¹
MDCCCXXXVI.

Codex litteris Cuphicis exaratus, quo continentur:

1.º Tractatus de Hæreditate, *Institutiones* (2) inscriptus, quem evulgavit *ABI ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELMALEK ALKALBI* (3), gente *Hispanus*, professione Jurisconsultus. (4)

2.º Commentarius in opus *EBN ALHAGEBI* de Hæreditate: auctore *KHALIL BEN ISAC Hispano*. (5)

3.º Fragmentum ejusdem generis.

4.º Epitome Juris Canonici ad mentem Doctoris *BEN MALEKI*, anno Egiræ 973. feriâ 1. die 17. Gemadi prioris exarata: auctore *AHMAD BEN IAHLA BEN MOHAMAD ALNUSCHRISI*. (6)

5.º Anonymi Quæsitæ Legalia & Decisiones, anno Egiræ 909. die 1. Rabii posterioris exarata.

¹⁸⁴²
MDCCCXXXVII.

Codex initio mutilus, quo con-

(1) *Initium*: الحمد لله المتوجـهـد

Finis: والله المرجع والمآب

(2) *Titulus*: كتاب الفرائض في المواريث

(3) *Auctor*: ابي عبد الله محمد بن عبد الملك الكلبي

(4) *Initium*: الحمد لله منزل الحكم من غير تطويل ولا تكرار

(5) *Auctor*: خليل بن اسحق

(6) *Auctor*: احمد بن يحيى بن محمد النوشريسي

(7) *Finis*: وحسبنا الله ونعم الوكيل

tinetur Anonymi Commentarius in *Alcoranum*. (7)

¹⁸⁴³
MDCCCXXXVIII.

Codex exaratus anno Egiræ 812. die 14. Scheuali, quo continetur Commentarius in *Codicem Traditionum*, cujus auctor *BADREDDINUS ABDALLA ALZARKASCHI*, *Ægyptius* (8), qui anno Egiræ 794. obiisse fertur. (9)

¹⁸⁴⁴
MDCCCXXXIX.

Codex litteris Cuphicis descriptus, anno Egiræ 875. feriâ 6. die 20. Scheuali, quo continetur Commentarius alter in eundem *Codicem Traditionum*, cui titulus *Collectio & brevis Commentatio genuinarum Traditionum* (10): auctore *ABILPHADL AHMAD BEN ALI BEN HAGIAR ALASCALANI* (11), *Syro Ascalonita*. (12)

¹⁸⁴⁵
MDCCCXL.

Codex nitidè exaratus, anni notâ carens, quo habetur Commentarius in *Librum*, cui titulus *Locorum difficiliorum, quæ in Libro qui Sanitas inscribitur occurrunt, Explanatio* (13), ubi Mohameti dogmata propugnatur. Illius auctor *AHMAD BEN MOHAMAD*

(8) *Auctor*: بدر الدين عبد الله النزر كسي المصري

(9) *Initium*: الحمد لله علي ما عم لا ارب غير

(10) *Titulus*: تلخيص وشرح الجامع الصحيح

(11) *Auctor*: ابي الفضل احمد بن حجر العسقلاني

(12) *Initium*: اما بعد فهذا تلخيص جعلنا عليه خشبا متشبيكا

(13) *Titulus*: مزيل الخفا عن الفاظ الشفا

MAD BEN HASSAN ALSCHOMNI (1), qui, ut ex notâ in extremo Codice adscriptâ liquet, obiit anno Egræ 872. (2)

IN OCTAVO.

MDCCLXLI.

870 Codex exaratus anno Egræ 870. ultima die Ragebi, quo continetur proximè laudati Scriptoris alter in idem opus Commentarius.

MDCCLXII.

Codex anni notæ expers, quo continentur:

1.º Grammatica Persica, ubi occurrunt Persica nomina, litterarum ferie disposita, quibus Turcica vocabula identidem respondent.

2.º Grammatica alia Persica, adjectâ Hispanâ vocum Persicarum interpretatione. Auctor est LOTHPHALLA BEN ABI JOSEPH ALHOLAIMI, vel ALHALIMI, celeberrimi Lexici Persici conditor, cujus haud pauca exemplaria occurrunt in Regiâ Bibliotheca Parisiensis Catalogo, pag. 288. & 289. (3)

MDCCLXIII.

876 Codex nitidè exaratus die 10. Scheuali, anno Egræ 836. quo continetur lectissimorum variis de rebus Epigrammatum Collectio, hocce titulo insignis: *Horti Odor*, & *Os subridens* (4): auctore Clarissimo viro SALAHEDDINO EBN ABIK SAPHADITA, cu-

jus laudes atque alia scripta vide Tomo I. nostræ Bibliothecæ pag. 125. & 126. (5)

MDCCLXIV.

Codex cum anni notæ, tum Auctoris nominis expers, quo continentur Scholia in Logicam, cujus inscriptio (6) *Ortus Luminum*. (7)

De hac Logica videtur Bibliothecam nostram Tom. I. pag. 200. Cod. DCLXXVII.

MDCCLXV.

Codex, in quo nimirum habentur:

1.º Commentarius in Logicam, quæ *Appendix BARDAAI* (8) ab Auctoris nomine nuncupatur.

2.º Commentarius alter in eandem Logicam, descriptus anno Egræ 925.

3.º Anonymi Commentarius in Logicam ATHIREDDINI ALABHARI, cui titulus *Sufficiens* (9), exaratus anno Egræ 961. die 1. Moharami.

MDCCLXVI.

Codex nitidè exaratus anno Egræ 838. die 27. Ragebi, Institutiones 838
Canonicas complectens hoc titulo prædita: *Legum Ratio ac Scientia* (10), quas Doctor ALBEIDHAVI, nobilissimus Jurisconsultus olim edidit. Alterum extat exemplar in nostra Bibliotheca Tom. I. pag. 450.

Co-

(1) Auctor: احمد بن محمد بن حسن الشميني

(2) Initium: اما بعد حمد الله علي فضاله

Finis: عن الفاظ الشف

(3) Initium: حمد وسب اس

Finis: بود شرط ك لام

(4) Titulus: الروض الناسم والتعسر الباسم

(5) Initium: اما بعد حمد الله الذي عمته امير المؤمنين ومنبر

(6) Titulus: طوالح الاذ وار

(7) Initium: قوله بحسب

اي قبض

(8) Titulus: حاشية بردء بي

(9) Titulus: شرح كاف بي

(10) Titulus: منهاج الوصول الي علم الاصول

MDCCCXLVII.

641 Codex exaratus anno Egiræ 641, feriâ 3. die 16. Gemadi posterioris, quo continetur opus bipartitum de Canonicis & Apochryphis Traditionibus, *Judicium & Examen* (1) inscriptum. Illius auctor *ABU BAKERUS MOHAMAD BEN MUSA ALHAZEMI*, quem videtis *Tom. I.* nostræ Bibliothecæ pag. 525.

MDCCCXLVIII.

637 Codex Cuphicus exaratus litteris anno Egiræ 637. die 3. Ragebi, quo continetur Bibliotheca, seu Historia Jurisconsultorum, cui titulus *Classes* (2), ab anno Egiræ primo ad annum 350. perducta: auctore *ABU ISAC ABRAHAM BEN ALI BEN JOSEPH ALPHIRUZABADI ALSCHIRAZI* (3), qui diem obiit anno Egiræ 416. (4)

MDCCCXLIX.

300 Codex nitidè exaratus mense Ragebo, anno Egiræ 800. opus Asceticum complectens, in capita IX. partitum, cui titulus *Pagine* (5). Auctor, cujus nomen non apparet, ex ipsa loquendi ratione, perinde ac argumenti tractatione, Christianus videtur.

(1) *Titulus*: الاعتبار في الناسخ

(2) *Titulus*: طبقات الفقهاء

(3) *Auctor*: ابو اسحق ابراهيم بن

يوسف الفيروز ادي

(4) *Initium*: اخبرنا الامام العلامة

ذكرته في اصحاب ملكي

(5) *Titulus*: الصحايد في

MDCCCL.

Codex eleganter descriptus absque anni nota, quo continetur opus Paræneticum de Pœnitentia, bipartitum. Pars prior *Contritionem perfectam* continet, adnexis Psalmis XIV. Altera verò Pars *Attritionem* unà cum Psalmis VI. complectitur. Illius auctor *Pater ANTONIUS*, Societatis Jesu Sacerdos & in Syria Missionarius.

MDCCCLI.

Codex exaratus anno Egiræ 1045, Christi 1635. quo continentur:

1.º Tractatus Dogmaticus, in capita VII. distributus, quorum primum *De Fide Orthodoxa* agit; secundum *De Sancta Trinitate*; tertium *De Verbi Divini Incarnatione*; quartum *De Sanctis Patribus*, maximè Græcis, quorum sententiæ ad id Mysterii pertinentes crebrò allegantur; quintum *De Communicatione Idiomatum*; sextum *De Jacobitarum hæresi*; septimum denique *De Nestorianis*, eorumque hæresi, quos Auctor anonymus validissimis confutat argumentis.

2.º *De Confessione*, sive de confitendi peccata apud Sacerdotem ratione.

POSTERIORIS TOMI

FINIS.

IN-

I N D E X.

ROMANÆ NUMERORUM NOTÆ Tomum, Præf. Præfationem, Litera P. Paginam, C. Columnam designant.

A

- A**BA ABDALLA. *Vide* Mohamad Ben Abraham Ben Ali Ben Bacchus. = Mohamad Ben Ahmad Ben Alhadad. = Mohamad Ben Mohamad Ben Ahmad Ben Salvator.
- ABDALLA EBN ALRACAN. *Vide* Mohamad Ben Abraham Ben Ahmad Alauafi.
- ALGEIUSCH, Hispaniæ Rex. *Vide* Nasserus Mohamedi Ben Mohamedi, Josephi Nasseritæ filius.
- ALHAKEM. *Vide* Almonderus.
- ALHASSAN. *Vide* Mohamad Ben Ahmad Ben Abi Khaithama.
- ALHOSSAIN BEN ALRABI, Cordubæ Rex. *I. p. 112. c. 1.*
- ALMAKHSCHABI. *Vide* Assentus Ben Zaid Ben Iahia Alabadita.
- ALMOTHAREBUS. *Vide* Abdelrahman Ben Abi Alphahd Alafchgiai.
- ALPHATEUS. *Vide* Nafsir Ben Abraham.
- ALPHETUH JOSEPHUS BEN ZIRI BEN MANAD, Sanhagarum Dux, Africæque Præfectus, Imperium sibi an. 362. vindicavit. *II. p. 195. c. 2.*
- ALTHAHERUS. *Vide* Mohamad Ben Joseph Ben Abdalla Altamimæus Almozenus.
- AMRU ABDELRAHMAN cum fratre Abdalla Ben Mohed Ben Vazir Abu Mohamad à Rege Almetuakelo an. Eg. 1627. interficitur. *II. p. 60. c. 1.*
- BAHAR. *Vide* Saphuan Ben Edris.
- GEMRA, Tremisleni Rex. *Vide* Moises Ben Joseph Ben Abdelrahman Ben Jagmoras.
- HAIAN: *Vide* Mohamad Ben Joseph Ben Ali Ben Haiian Athireldinus.
- MOHAMAD BEN VIZIRUS. Ab eo victus, & in carcerem coniectus est Mohamad Ben Omar Ben Almonder Abulualid. *II. p. 53. c. 1.*
- MOHAMAD MAHMUD ALAINI. *Vide* Aba Mohamad Mahmud Ebn Mohamad Alainæus.
- MOHAMAD MAHMUD EBN MOHAMAD ALAINÆUS. Ejus Commentarius in poëma Ben Maleki de re Grammatica inscriptum *Verborum auctoritas. I. p. 4. c. 2.*
Alter in ejusdem Ben Maleki claram & comprobaram universæ Grammaticæ methodum Commentarius, titulo *Declaratio. Ibid. p. 34. c. 1.*
- MUSA. *Vide* Isa Ben Mohamad Alamui.
- NASSER ALHOMAIDI. *Vide* Mohamad Ben Phatuh Abu Abdalla.
- NASSER BEN KHACAN. *Vide* Alphath Ben Ali Ben Ahmad.
- OTHMAN BEN HOKM, Minoricæ Rex. *I. p. 112. c. 1.*
- SCHAGEUS, Dux Ubedæ. *II. p. 45. c. 1.*
- VAHEBUS, Regiæ Valentæ Aulæ Præfectus. *II. p. 45. c. 1.*
- ZAKARIA, Cæsaraugustanus, Historiæ Hispaniæ Scriptor. *II. p. 40. c. 2.*
- ABAD ABU AMRU, Hisp. Rex. *Vide* Abu Amru Abad.
- BEN MOHAMAD, nomine *Almoteded*, Hispalis Rex. *I. p. 106. c. 1.*
- ABADAT BEN MA ALSAMA, Cordubensis, Odarum Scriptor. *I. p. 128. c. 1.*
- BEN MOHAMAD ALACRA, Cordubensis, Odarum item Scriptor. *I. p. 128. c. 1.*
- ABADITÆ. Eorum in Hispania Dynastiæ principium, series & finis. *I. p. 75. c. 1. & 2. & II. p. 209. c. 1. & seqq.*
- ABADUS, Almotamedi Obaditæ filius, Cordubæ Rex consilio & opera Abdelaziz Albekri constitutus. *II. p. 46. c. 1.*
Occiditur ab Harizo Ben Hakem Ben Akascha, & ab eodem caput ejus Hispalim ad Almamunum Regem deferretur. *Ibid. pag. 45. c. 2.*
- ABAIDALLA BEN ABD ALKAPHI ALABADI, Poëma de Poëticæ regulis à Mohamad Alfauî conditum, commentariis illustravit. *I. pag. 81. c. 2.*
Hispali VI. Egiræ seculo floruit. *Ibid.*
- BEN ALHASSAN ABULCASSEN, Astrologus, Saturni puer nuncupatus. Ejus Arithmeticæ & Altronomiæ singularis prudentia. *I. p. 404. c. 1.*
Ejusdem opera recensentur. *Ibid.*
- MOHAMAD BEN ABDALLA ALZARCASCHI, Grammaticus *I. p. 26. c. 1.*

Ejus Commentarius in Ben Maleki Alphiam seu Millenarium, inscriptus *Ædificii fundamenta. Ibid.*

ABALCASSEMUS. Vide Mohamad Ben Abdalla Ben Macatel.

ABALGAMRÆUS, urbium Xerez et Arcos Præfectus, Rondæ arcem cum reliquis præfidiis expugnat, civiumque bona diripit. *II. p. 56. c. 2.*

Regium sibi nomen arrogat, et amplissima vectigalia imperat. *Ibid.*

ABANUS, Abdelrahmani IV. Hispaniarum Regis filius, Poëta insignis. *II. p. 34. c. 2.*

ABBAS, Chodabandæ filius, Persiæ Rex, obiit an. Christi 1629. postquam annos quadraginta quinque regnasset. *II. p. 344. c. 1.*

Ejus Successor. *Ibid.*

—BEN MOHAMAD ALSALEHI, Hispalensis ex urbe Talca sive Italica, Poëta acutus et mordacissimus, an. Eg. 329. vitâ functus. *II. p. 139. c. 1.*

—BEN OCBATA ALHAMDANI, aliàs *Ebn Alfaca* dictus, Hispalensis ex oppido Cebolla, politiorum literarum Cordubæ professor. *II. p. 146. c. 1.*

Obiit in patria an. Eg. 414. *Ibid.*

—BEN SAID GIAUHARÆUS, Astronomus insignis. Ejus Vita & Scripta. *I. p. 402. c. 2.*

ABBASI Hemicyclium. *II. p. 10. c. 2.*

ABBASIDÆ, seu ABBASIDITÆ: Quo pacto Orientis imperio potiti. *II. p. 184. c. 2.*

Orientis Imperatorum ex hac stirpe series. *Ibid. p. 185. c. 1. et seqq.*

Post Obaiditas extinctos iterum Ægypti Caliphatum obtinuerunt. *Ibid. p. 197. c. 1.*

ABBASIDÆ CALIPHÆ.

Abulabbasus Saphahus, primus. *I. p. 377. c. 2.*

Almamon VII. *I. p. 239. c. 1.*

Almanfor Abu Giaphar II. *I. p. 65. c. 2.*

Almohdi III. *I. p. 148. c. 2.*

Almotaz XIII. *I. p. 66. c. 2.*

Almotaz Billa XIV. *I. p. 81. c. 1.*

Caiemus Bamralla XXVI. *I. p. 154. c. 1.*

Giaphar Mutuakelus X. *I. p. 111. c. 2.*

Motafimus VIII. *I. p. 111. c. 2.*

Muctaphus XXXVIII. *I. p. 261. c. 2.*

Nasserus Ledinallah XXXIV. *I. p. 108. c. 2. & p. 111. c. 1.*

ABBASIDITÆ. Vide Abbasidæ.

ABBASUS, Almetuakeli, urbis Badajoz Regis filius. Ejus luctuosa nex. *II. p. 41. c. 1. & p. 213. c. 1.*

ABBUCASIS, nobilis Medicus. Ejus verum integrumque nomen. *II. p. 136. c. 2. & seq.*

ABD ALUADAD, Medicus Valentinus. *II. p. 101. c. 2.*

ABDALLA, Abdelmaleki Ben Omar Ben Meruan Ben Alhakem, supremi militiæ Ducis filius, Meridæ ab Aldelrahmano Hisp. Rege quare præfectus. *II. p. 31. c. 2.*

—Abdelrahmani III. Hisp. Regis filius. *II. p. 103. c. 2.*

—Hispaniæ Rex Omniadita, Almonderi frater ac

Successor, virtutibus & maximè temperantiâ insignis. *II. p. 200. c. 1.*

A Kalebo Ben Haphsun bellis & incurfionibus vexatus est. *Ibid.*

Conscripto exercitu, Hispanos conjuratos armis subegit. *Ibid.*

Quo anno natus, quo vitâ functus. *Ibid. c. 2.*

Quo Rex salutatus. *Ibid.*

Poëta fuit egregius, necnon multiplici eruditione ornatus. *Ibid.*

Quis ejus Successor extiterit. *Ibid.*

Qualem se exhibuerit erga duos probos viros à fratre Almondero capitis iniquè damnatos. *II. p. 36. c. 1.*

Filium natu majorem cui tradiderit institutum. *II. p. 36. c. 2.*

Tyrannum Suar Ben Hamdun Alcaifi, à quo ipse priùs fuerat superatus, iterum aggressus, capit & interficit an. Eg. 277. *II. p. 37. c. 1.*

Ejus in Solimanum Ben Ansus Ben Asbaga, Emeritæ Tyrannum, à se devictum, mira clementia & largitas. *II. p. 37. c. 1.*

In eundem ob Satyras in se conscriptas non illepida animadversio. *Ibid. c. 2.*

—Cognomento *Ben Alaphtas*, proavus Omari Ben Mohamad, Regis Badajoz & Algarbiorum. *II. p. 67. c. 1.*

Lusitaniæ regnum per vim occupat. *Ibid.*

Ei postea filius ac nepos in regnum successere. *Ibid.*

—ABILPHARAGIUS, vulgo *Ebn Althaieb*. Ejus de Octimestri Partu Opusculum. *I. p. 300. c. 1.*

Ejusdem alia Opuscula Medica. *Ibid.*

Obiit an. Eg. 453. *Ibid.*

Ejus Elogium ex *Arabica Philosophorum Bibliotheca* depromptum. *Ibid. & c. 2.*

—ABU BAKER ALMOTEMEDUS, Almotamedi Alalla Regis Hispaniæ filius. *II. p. 210. c. 1.*

—ABU MOHAMAD, Regis Hispan. Abdelrahmani Alnaferi Ledinalla filius, literarum peritiâ quàm fuerit conspicuus. *II. p. 38. c. 1.*

Historiam Imperatorum Abbasidarum ad sua tempora perductam, necnon alia tùm solutâ, tùm strictâ oratione conscripsit. *Ibid.*

A patre ob quandam à se factam seditionem interfectus est. *Ibid.*

—ABU MOHAMAD, cognomento *Aladel*, regnante Abdeluahedo, Regis insignia Murciae sumsit, ejusque in locum Senatûs operâ interfecti, suffectus; deinde ab eodem Senatu & regno & vitâ ipse spoliatus est. *II. p. 222. c. 2.*

Morum integritate, necnon literis ornatus traditur. *Ibid.*

Ejus Successor. *Ibid.*

—ABU MOHAMAD BEN SAAD BEN ABI GIAMRA AZADITA, Murcianus. Ejus Commentarii in Traditionum Codicem, inscripti *Animorum Hilaritas*. *I. p. 522. c. 1. & 2.*

Ejus obitus. *Ibid. c. 1.*

—ABU MOHAMAD EBN HESHAM ANSARÆUS. Vide Ben Hescham.

—ABU OMAR BEN RASCHID, Granatensis: Ejus Bi-

Bi-

- Bibliothecæ Ægyptiacæ, *Iter Ben Raschidi* inscriptæ, Volumen tertium. *II. p. 165. c. 2.*
- ABULBARKAT BEN AHMAD BEN MAHMUD ALNASAPHI, ex Nasapha Persiæ urbe. Commemoratur ejus in Alcoranum Commentariorum Tomus primus, quibus hæc inscriptio: *Sacrarum Literarum Cognitio & Interpretationum Veritas. I. p. 496. c. 1.*
- AHMAD BEN ALI BEN KHATMAT ANSARÆUS ALMERINI, Granatensis. Varia poematum genera composuit. *I. p. 112. c. 2.*
Ex Africæ Regibus Merinis genus duxisse traditur. *Ibid.*
- AHMAD BEN IAHA ALNAUSCHERSIUS, Antistes. Ejus ad Antistitem Abu Abdallam Ben Casian Epistola an. Eg. 398. data. *II. p. 170. c. 1. & p. 341. c. 2.*
- ALHASSAN JOSEPH BEN MAHD ALZIATI, Granatensis, Grammaticus. Ejus in Poema *Lamiat* Commentarius. *I. p. 34. c. 2.*
Ejusdem familia inter Granatenses nobilissima. *I. p. 35. c. 1.*
Ex eâ ortus Leo Africanus. *Ibid.*
- ALMAIMON Calipha, Astronomicorum studiorum insignis fautor. *I. p. 429. c. 1.*
- ALMAKHZUMI, Cordubensis. Ejus Grammaticæ Institutiones. *I. p. 28. c. 1.*
Ejusdem Animadversiones de peritia & puritate sermonis Arabici. *Ibid. & c. seq.*
Ubi & quando floruerit. *Ibid. c. 1.*
- ALMOTADEUS ALPHATEHUS ABU NASSER ALMAMUNEUS, Regis Hispaniæ Mohamad, qui Almotemedus Alalla nuncupatus est, filius. *II. p. 40. c. 1.*
- ALNAPHEI. Hujus Opusculum de Alcorani utilitate & præstantiâ, *Margaritarum Ordo* inscriptum. *I. p. 496. c. 1.*
- BEN ABDELAZIN BEN ARCAM ALNAMAIRI, Accitanus, varia condidit in laudem Mahometi Poemata. *II. p. 102. c. 2.*
Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN ABDELAZIZ BEN MOHAMAD, ex Regia Omiaditarum stirpe. Ejus res gestæ. *II. p. 38. c. 2.*
- BEN ABDELBER ALRAINI ABA MOHAMAD, vulgò *Ben Abilmaged*, ex oppido Raia in ditione Archidonæ, cujus Prætor fuit; vir genere & literis clarus, qui Granatæ an. Eg. 739. decessit. *II. p. 103. c. 1.*
- BEN ABDELRAHMAN, vulgò *Ben Jaser*, Granatensis, vir ob commodos mores Principibus acceptissimus, idemque sermone lepidus & acutus. *II. p. 102. c. 2. & seq.*
Ejus obitus. *Ibid. p. 103. c. 1.*
- BEN ABDELRAHMAN, vulgò *Ebn Hadida Alk-hazragita*, Cairensis. Is Mahometi Historiam bipartitam, cui titulus *Fax splendida*, an. Eg. 779. edidit. *II. p. 166. c. 1.*
- BEN ABDELRAHMAN ABA MOHAMAD, Granatensis, versu & prosâ multa conscripsit. *II. p. 102. c. 2.*
Marochi an. Eg. 587. fato functus est. *Ibid.*
- BEN ABDELRAHMAN ALANSARI, vulgò *Alzahravi*, Cordubensis ex urbe Zahra, Philologus, & Arabicarum antiquitatum & plurium linguarum peritissimus. *II. p. 129. c. 1.*
Obiit an. Eg. 600. *Ibid.*
- BEN ABDELRAHMAN BEN MOAVIA, vulgò *Valentinus* dictus. Res ab eo gestæ. *II. p. 33. c. 1. & 2.*
Ejus mors. *Ibid. c. 2.*
- BEN ABDELRAHMAN EBN ALABAR ALCODAI, Valentinus, sexti Egiræ seculi Scriptor. Historiam Poëtarum Hispanorum insigniorum, infertis lectissimis eorum carminibus, *Munus Hospitii* inscriptam, concinnavit. *I. p. 95. c. 1.*
Poëtarum aliquot ex hoc Opere excerptorum Index. *Ibid. & col. seqq.*
- BEN ABDELUAHED ABA MOHAMAD, Malacitanus, Loxæ Præfectus. *II. p. 119. c. 2.*
Fato functus est an. Eg. 734. *Ibid.*
- BEN ABI AHMAD ABU MOHAMAD BEN ZAID ALGAPHECHI, Granatensis. Ab Algaphecho Arabum Principe genus duxit, atque Illiberis, Rondæ & Malacæ Prætor fuit. *II. p. 100. c. 2.*
Consilia Juridica, quorum titulus *Via Regia*, scripsit, obiitque Granatæ an. Eg. 731. *Ibid.*
- BEN ABI BAKERUS ALCODHAI, ex oppido Honda, variâ eruditione, doctrinâ & morum integritate clarus. *II. p. 129. c. 2.*
Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN ABRAHAMI BEN GIAPHAR ALAMUI, vulgò *Abu Mohamad Alafili*, ex urbe Siduna seu Medina Sidonia, utriusque Juris Doctor celeberrimus, à Rege Alhakemo accersitus, Cordubæ Jurisprudentiam professus est. *II. p. 137. c. 2. & seq.*
Obiit an. Eg. 392. *Ibid.*
- BEN ABRAHIM, cognomento *Ben Montel*, ex urbe Morviedro, vir literatus, qui an. Eg. 611. vivere desiit. *II. p. 129. c. 1.*
- BEN ABRAHIM ABA MOHAMAD, vulgò *Ben Zobair*, Granatensis, professione Medicus, Philologus etiam insignis, fortissimus item Miles. *II. p. 101. c. 1.*
Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN ABRAHIM ABA MOHAMAD, vulgò *Ebn Almarabe*, ex urbe Velez, Poëta insignis, cujus laudes & interitus memorantur. *II. p. 101. c. 1.*
- BEN ABRAHIM BEN ALI ALTAGIBI ABU MOHAMAD, vulgò *Ben Aschilula*, urbis Accitanæ Princeps. *II. p. 97. c. 2. & seq.*
Ejus Epitaphium. *Ibid. p. 98. c. 1.*
- BEN ABRAHIM BEN TADMIR ALHAGIARI, ex urbe Guadalaxara. Ejus Vita & Scripta. *II. p. 101. c. 1. & 2.*
- BEN AHMAD ABU ABDALLA BEN ABDELRAHIM ALGASSANI, Malacitanus, Jurisconsultus egregius. *II. p. 137. c. 2.*
Quo anno natus, quo extinctus. *Ibid.*
- BEN AHMAD ABU MOHAMAD, aliàs *Ben Galilus* dictus, Hispalensis, Marochi Rhetorice,

- & Jurisprudentiæ professor. *II. p. 129. c. 1.*
Cordubæ decessit an. Eg. 592. *Ibid.*
- BEN AHMAD BEN ATHIA, Malacitanus, vir non vulgaris literaturæ, obiit in oppido Octaba an. Eg. 648. *II. p. 120. c. 1.*
- BEN AHMAD BEN GALEB BEN ZAIDUN ALMAHKZUMI, Cordubensis, literis & belli peritiâ clarus. *II. p. 120. c. 1.*
Ejus ortus & obitus *Ibid.*
- BEN AHMAD BEN HAPHS ALANSARI, ex urbe Denia, Medicus & Historicus nobilis, Cauri an. Eg. 645. fato defunctus. *II. p. 130. c. 1.*
- BEN AHMAD BEN MAHMUD ABULBARKAT, Commentario, qui *Monumentorum Thesaurus* inscribitur, Alnasaphi Opera Canonica illustravit. *I. p. 468. c. 1. & 2.*
- BEN AHMAD BEN SAID BEN JARBU, ex urbe Santa Maria, vir eruditissimus. Ejus Opera. *II. p. 144. c. 1.*
Obiit Hispali an. Eg. 522. *Ibid.*
- BEN AHMAD BEN SCHARAHIL ALHAMDANI, Granatensis ex oppido Hamdan, utriusque Juris Doctor, egregiusque Orator. *II. p. 119. c. 2.*
- BEN AHMAD BEN SOLIMAN ALANSARI, vulgò *Ebn Thailiesan*, Cordubensis. Bibliothecam Philologorum Cordubensium scripsit. *II. p. 129. c. 2.*
Naturæ concessit an. Eg. 614. *Ibid.*
- BEN AHMAD DHIAELDIN, cognomento *Ebn Al-baithar*, sive *Ibnu El Baitar*. Vide Beithar.
- BEN AJUD ALANSARÆUS, vulgò *Ebn Khorugi*, ex urbe Calatayud, Scholæ Malekiticæ Doctor, auctorque Operis de utroque Jure in tomos VIII. distributi, quod *Textus* inscribitur. *II. p. 100. c. 1.*
Granatæ, centum prope annos natus, obiit an. Eg. 562. *Ibid. & p. 119. c. 1.*
- BEN ALGEBAIR BEN OTHMAN ALIAHSI, Granatensis, vir & genere & multis aliis nominibus præstantissimus, qui Loxæ decessit an. Eg. 510. *II. p. 119. c. 1.*
- BEN ALHAGE MOHAMAD BEN DONCROH. Ejus tomus primus de Contractibus. *I. p. 460. c. 1.*
- BEN ALHAKEMUS, Dux, Almanforem Cæsaraugustæ Regem sibi propinquitate conjunctum Granatæ an. Eg. 430. interfecit. *II. p. 211. c. 2.*
- BEN ALHAKEMUS, Vizirus. *II. p. 79. c. 1.*
- BEN ALHASSAM BEN ISA ALGIOBER, Granatensis, literis & armis clarissimus. *II. p. 99. c. 1.*
In Regem Almamonem Abid Abad, sub quo militavit senex, carmina condidit. *Ibid.*
- BEN ALHASSAN ALANSARÆUS, Malacitanus, vir doctissimus. Hujus gesta & scripta. *II. p. 100. c. 1.*
- BEN ALHASSAN BEN ABDALLA ALANSARI, vulgò *Ebn Alcorthobi*, Malacitanus, antiquitate generis, & temporum rerumque gestarum cognitione clarissimus. Historiam Hispaniæ scripsit. *II. p. 129. c. 1.*
Vitâ functus est an. Eg. 611. *Ibid.*
- BEN ALI ABU MOHAMAD BEN SALMUN, Granatensis, Rhetor, Poëta & Jurisconsultus præclarus. Complura edidit carmina. *II. p. 99. c. 2.*
Ei tribuitur præstantissimum Opus de re Grammatica, quod *Sanum* inscribitur. *Ibid.*
Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN ALI BEN MOHAMAD ALTAGIBI ABU MOHAMAD BEN ASCHILULA, Regnum Malacæ an. Eg. 655. adeptus, animi fortitudine & æquitate prænituit. *II. p. 99. c. 1.*
- BEN ALI BEN SALMON ALKANANI, Granatensis, doctrinâ & scriptis clarus. *II. p. 119. c. 1.*
Natus est an. Eg. 669. atque in prælio Tarifæ cecidit an. Eg. 741. *Ibid.*
- BEN ALUALID ABU MOHAMAD BEN BAKERUS ALANSARI, Carmonensis ex loco Soticas, Jurisconsultus & Historicus, natus an. Eg. 360. & Damasci an. 448. extinctus. *II. p. 143. c. 2.*
- BEN ALZOB AIR, subjectâ Iracâ, Caliphæ sibi nomen arrogat. *II. p. 182. c. 1.*
Prælio à Duce Alhagiagæo superatus atque interfectus an. Eg. 93. ejus jussu cruci affigitur. *Ibid.*
- BEN AMAGIUR ABULCASSEM, Persa Ariensis, ex Regia Pharaonum stirpe, cujus scripta Mathematica recensentur. *I. p. 403. c. 2.*
- BEN ASAD JAPHEI, Jamanita. De vitâ & moribus Monachorum Suphtarum librum edidit hoc titulo: *Hortus odoratus*. *I. p. 225. c. 2.*
Claruit octavo Egræ seculo. *Ibid.*
- BEN BAKER BEN KHALAPH, vulgò *Ben Kuter*, Hispalensis ex oppido Sorba, Jurisconsultus & Historicus, qui Cordubæ an. Eg. 575. decessit. *II. p. 128. c. 2.*
- BEN BALCHIN BEN BADIS BEN HABUS BEN MAK-SAN, *Almodhpher Villa*, & *Alnasser Ledinalla* vocitatus, Granatæ Rex an. Eg. 465. renuntiat. *II. p. 98. c. 2.*
Alcoranum manu suâ pereleganter exscripsit. *Ibid.*
- Josephum Ben Tasphin Granatæ Regem salutavit an. Eg. 483. Marochumque petit, ubi naturæ concessit. *Ibid. & c. seq. & p. 213. c. 2.*
- BEN CASSEM ALPHARI, Dux. *II. p. 207. c. 2.*
- BEN CASSEM BEN KHALAPH ALLAKHAMITA, cognomento *Alhariri*, Hispalensis. Historiam Hispaniæ, seorsumque Familiarum Origenes edidit. *II. p. 129. c. 2.*
Bibliothecam item virorum, qui literis in universa Hispania claruere, concinnavit. *Ibid. & p. 130. c. 1.*
Quando natus & extinctus. *Ibid.*
- BEN HAIAN ALRUSCHI, Valentinus, Jurisconsultus eruditus, copiosissimam habuit Bibliothecam. *II. p. 138. c. 1.*
Decessit an. Eg. 484. *Ibid.*
- BEN HAKEMUS, patruelis Almanforis Diltia-stain Cæsaraugustæ Regis, eundem an. Eg. 430. interfecit. *II. p. 95. c. 1.*
- BEN HANDHALA, Medinensium exercitûs Dux, in prælio adversus Jazidum Calipham occisus. *II. p. 180. c. 2.*
- BEN HUD, Cæsaraugustæ Rex, Christianorum Regem, qui fidem illi fefellerat, ad Summi Romani Pontificis judicium vocavit. *II. p. 107. c. 2.*
- BEN JAHIA ALHADHRAMI, vulgò *Ben Saheb Al-*

- Alfalah*, Valentinus ex oppido Palma, Philologus & Historicus insignis, ac Bibliothecæ Arabico-Hispanæ Scriptor. *II. p. 128. c. 2.*
 Valentiaë obiit an. Eg. 578. *Ibid.*
- BEN JAHIA BEN ABD SOLIMAN ABA ALCASSEMUS, vulgò *Ebn Arabi*, Cordubensis, Philologus & Jurisconsultus præclarus. *II. p. 101. c. 1.*
 Mundæ, Rondæ, Malacæ, necnon Granatæ fuit Præses, ibique Academiam Alcoranificam instituit. *Ibid.*
 Vitâ sanctus est an. Eg. 666. *Ibid.*
- BEN JAHIA BEN HANI LAKHAMITA, Granatenfis, doctrinâ & in rebus gerendis prudentia præstitit. *II. p. 119. c. 1. & 2.*
 Præturam in ditione Alaschar, fortè Aluchar, obtinuit. *Ibid.*
 Obiit an. Eg. 605. *Ibid.*
- BEN JAHIA BEN MOHAMAD, vulgò *Zacharia Alanjari*, Jurisconsultus celeberrimus, Murciaë natus an. Eg. 675. *II. p. 119. c. 1.*
 Almuñecar præfuit & Bazæ, ubi an. 745. decessit. *Ibid.*
- BEN JEHIA BEN ZACHARIA ALANSARÆUS, Granatenfis, Juris & Arithmeticæ peritissimus, quo anno natus & quo demortuus sit. *II. p. 100. c. 2.*
- BEN JETUH SEU FETUH, ALZOGRI, Dux Conchæ. Ben Handainæum Murciaë regno depellit, ac Saipheldaulatum Ebn Hud in ejus locum sufficit. *II. p. 55. c. 1.*
 Rem aliter memorat Ahmedus Ben Saheb Alfalat. *Ibid.*
 Regis Alphonfi copiis adjutus, Murciaë vexat; sed prælio victus an. 542. occumbit. *II. p. 55. c. 2.*
- BEN JOSEPH, vulgò *Ben Radhuan Alnahari*, Malacitanus, literarum studiosus, & civilium rerum prudentissimus, Malacæ Constitutiones optimas dedit. *II. p. 102. c. 1.*
 Oratoriâ & poëticâ facultate inclaruit, ac utriusque præclara monumenta reliquit. *Ibid. c. 2.*
- BEN JOSEPH ALDHAHER, cognomento *Aladhed*, Africaë & Ægypti Rex, à Viziro Salahedino publico conspecta privatur. *II. p. 197. c. 1.*
 Obiit an. Eg. 564. *Ibid.*
- BEN JOSEPH BEN AIUB ALCARSCHI ALPHARI, Sætabensis ex loco Rogat, Jurisprudentiam Deniæ professus est. *II. p. 128. c. 1.*
 Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN JOSEPH BEN GEUSCHAN, ex urbe Daroca, Philologus & Medicus insignis. *II. p. 128. c. 1.*
 Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN ISA ALSCHAIBANI ABU MOHAMAD ex oppido Quinta in Cæsaraugustæ ditione, Jurisconsultus, Valentiaë, scriptis relictis, decessit an. Eg. 530. *II. p. 144. c. 1.*
- BEN ISA BEN ABI HABIB ABU MOHAMAD, ex urbe Silves, vir variarum Disciplinarum peritus. *II. p. 128. c. 1.*
 Silves præturam obtinuit, quâ, ut studiis vacaret, sese exiit. *Ibid.*
- Ut viros doctrinâ & eruditione claros audiret, iter in Africam & Asiam aggressus est. *Ibid.*
 Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN ISACI HADHRAMITA, Grammaticus. *I. p. 2. c. 1.*
- BEN JUNES BEN THALHA BEN AMRUN, Oranenfis, Medicus & Arithmeticus peritissimus, an. Eg. 429. clarus. *II. p. 144. c. 1.*
- BEN KHAJAR ALGIANI ABU MOHAMAD, ex urbe Jaen, Poëta egregius. *II. p. 55. c. 2. & seq.*
 Prætor provinciam obtinuit Fessam, ubi ab Almohaditis captus, ab eisdem ob eximias doctes in libertatem ac pristinam dignitatem restituitur. *Ibid. p. 56. c. 1.*
 Beneficii memor plura carmina in eorundem laudem conscripsit. *Ibid.*
 Ubi & quando decesserit. *Ibid.*
- BEN KHALIL ALMARDINI, in Omniaditarum templo publicæ precationis Præco. *I. p. 368. c. 1.*
 Opus edidit *Analecta pretiosa* inscriptum. *Ibid.*
- BEN MAHMUD ABULBARKAT. Hujus opus, *Monumentorum Thesaurus* inscriptum, adjectis ad oras variorum Notis. *I. p. 468. c. 2.*
- BEN MARDANIS, Almoravidita, Almeriam civitatem subigit. *II. p. 54. c. 1.*
- BEN MARUAN ALTAGIBI ABULAHASSENUS, Valentinus, Jurisconsultus, prudentiâ & æquitate conspicuus, oppidi Sobrob in regno Valentiaë Præfectus. *II. p. 129. c. 1.*
 Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD, Omniadita, Imperator. Bellum ei indicit Obaidalla Ben Omiah. *II. p. 47. c. 1.*
- BEN MOHAMAD, vulgò *Albagi*, Hispanus ex urbe Begia, Jurisprudentiæ Hispali professor, qui an. Eg. 378. ibidem obiit. *II. p. 137. c. 2.*
- BEN MOHAMAD, vulgò *Ben Sara*, Santarenfis, Carmina varia conscripsit; obiitque an. Eg. 519. *II. p. 102. c. 1.*
- BEN MOHAMAD, vulgò *Dilnun Abu Abdalla*, ex oppido Cangiar vel Cangeria in Guadalaxaræ tractu, literarum studiosissimus, cujus Bibliotheca triginta aureorum millibus æstimata fuit. *II. p. 120. c. 1.*
 Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ABA THALEB ALGARPHI, Septæ Rex, doctrinâ & morum innocentia clarus. *II. p. 99. c. 1.*
 A Christianis an. Eg. 705. prælio superatus, Granatam petere cogitur, ubi decessit an. 713. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ABU AHMAD BEN ALSAIED, Bacensis, Grammaticus & Jurisconsultus insignis. Tractatum scripsit de studiorum ratione. *II. p. 143. c. 2.*
 Opus etiam de causis cur Juris antistites inter sese discrepent, alterumque de Judicio Forensi edidit. *Ibid.*
 Decessit an. Eg. 521. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ALAZADITA, vulgò *Ben Abi Giamerad*, Murcianus, Granatæ primùm Prætor,

- tor, deinde Septæ Quæstor. *II. p. 100. c. 2.*
Ejus mors. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ALBULIONI, Malacitanus, Scrip-
tor celeberrimus, cujus varia extant carmina.
II. p. 102. c. 2.
Obiit ann. Eg. 440. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ALMOTAZ BILLA. Opusculum
conscripsit de Arte poëtica, cui titulus *Ars
nova. I. p. 81. c. 1.*
Quem habuerit Patrem. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ALSCHACPHI ALSUSI, Corduben-
sis, Philologus & Medicus. Opus de re Me-
dicâ vulgavit hoc titulo: *Experimenta usu
probatissima. II. p. 130. c. 1.*
Cordubæ occisus est à Barbaris an. Eg. 403.
Ibid.
- BEN MOHAMAD ALSCHARRAT, Malacitanus,
Arithmeticæ peritissimus, egregiusque carmi-
num conditor, Granatæ decessit an. Eg. 703.
II. p. 102. c. 1.
- BEN MOHAMAD BEN ABDALLA ALRAKI, vulgò
Ebn Hatlab, Alepi & Damasci Regis fuit
à Secretis an. Eg. 859. *I. p. 163. c. 1.*
Præclarum Opus edidit de conscribendarum
Epistolarum ratione juxta Virorum gradum &
conditionem, cui *Prata exquisita* titulus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ABDELRAHMAN an. Eg.
275. Hispaniæ Regnum auspiciatus est. *II. p. 34.
c. 1.*
Eloquentissimus juxta atque eruditissimus
fuit. *Ibid.*
Seditionem Cordubæ à militibus, fovente
Kalebo Ben Haphsun, excitatam oppressit, i-
psumque Kalebum in turpem fugam conjecit.
Ibid.
Obiit septuagenarius an. Eg. 300. cum re-
gnasset annos XXV. *Ibid. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN ABDELRAHMAN ABU KHA-
LED, Jurisprudentiæ Almeriæ, ubi natus fue-
rat an. Eg. 497. professor. *II. p. 119. c. 1.*
Granatæ Prætor obiit an. 544. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ABDELSALAM ABA MO-
HAMAD ALKAZLI, Granatensis, Juris scientiâ &
eruditione non vulgari ornatus. *II. p. 119. c. 2.*
Domi incendio consumtus periit. an. Eg.
574. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ABRAHIM ALABDARITA
ABA MOHAMAD, vulgò *Alkauab*, Granaten-
sis, Jurisconsultus. Ejus obitus. *II. p. 99. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN ALI, vulgò *Ben Obai-
dalla Alhagiari*, Bæticus ex oppido Can-
gera, Juris peritiâ ac multiplici eruditione præ-
clarus. Ejus mors. *II. p. 128. c. 2 & seq.*
- BEN MOHAMAD BEN ALI BEN ABDALLA BEN
ABBAS, primus ex Abbasidis Orientis Impera-
tor, *Alfaphahus* dictus. *Vide Alfaphahus.*
- BEN MOHAMAD BEN ALKHATHIB, Granatensis,
celeberrimi Ebn Alkhathib filius, & doctri-
næ hæres. *II. p. 102. c. 1.*
Ejus ad patrem Epistola & Epigramma lau-
datur. *Ibid.*
Quo anno natus sit. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ALSAIED ALBATHALUSI,
Pacensis. Ejus Opus tripartitum, hoc titulo:
*Extemporanea rudimenta, ac expositio me-
thodi scribendi. I. p. 146. c. 1.*
Operis ratio. *Ibid.*
Auctoris obitus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN GIAZI, Granatensis, Gram-
maticus, & publicus Jurisprudentiæ professor,
multorumque varii argumenti carminum scri-
ptor. *II. p. 99. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN HAGIAGE, vulgò *Ebn Ja-
femin*, Fessanus, Arithmeticus egregius, qui
laudatissimum scripsit poëma de Algebra. *II.
p. 130. c. 1.*
Marochi an. Eg. 600. jugulatus est. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN LEB, Almeriensis Pro-
cer, Jurisprudentiâ & eruditione, necnon va-
riis honoribus & legationibus clarus. *II. p. 119.
c. 2.*
Almeriæ obiit an. Eg. 747. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN MATHRUH ALTAGIBI, Va-
lentinus, Jurisconsultus & Orator disertissi-
mus, ac Deniæ & Valentini Præfectus. *II. p.
129. c. 2.*
Ubi, & quando obierit. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN MOGHIT, vulgò *Ebn Al-
sophar*, Cordubensis, Hispaniæ Regis Alha-
kemi Almostanferi Chronographus, cujus ius-
su *Historiam Regum Omniaditarum* scri-
psit. *II. p. 137. c. 2.*
Toleti decessit an. Eg. 352. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN NASSERI ALAZADI AL-
HAPHEDI, vulgò *Abulualid Ebn Alphardi*,
Cordubensis, vir eruditissimus. Ejus Opera,
& obitus. *II. p. 142. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN OMIA BEN JAZID, dictus
Abu Hawthorat, Hispaniam Rege Alhakemo
ingressus, literisque humanioribus excultus
traditur. *II. p. 35. c. 1.*
Quibus apud eundem Regem muneribus
functus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN SAHL ALDHARA, Granaten-
sis, Mathematicus clarissimus, & filii Princi-
pis Abu Abdallæ Ben Sad Magister. *II. p. 128.
c. 2.*
Egregia de re Mathematicâ edidit opera,
obiitque Murciae an. Eg. 571. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN SAID ALAMUI, cognomen-
to *Albasculai*, ex oppido Basculi, Cordubæ
Jurisprudentiæ professor; octogenario major de-
cessit an. Eg. 461. *II. p. 143. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN ZAIAD ALANSARI, Cor-
dubensis, pietatis famâ apud suos ac literis
clarus. Opus condidit de ratione scribendarum
Epistolarum. *II. p. 143. c. 1.*
Obiit an. Eg. 435. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ZAIIDUM ALMAKHZUMI, Cor-
dubensis, Jurisprudentia, genere, & varia eru-
ditione nobilis. *II. p. 128. c. 2.*
Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ZAKRI. Ejus Commenta-
rius in Ben Alhagebi Institutiones Juris, in-
scri-

- scriptus *Curiosi viri desiderium*. I. p. 468. c. 1.
 Claruit Granatæ an. Eg. 838. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD EBN ALHASSAN ALKHAZRAGITA, vulgò *Ebn Alhalla*, Granatensis, Jurisconsultus præclarus, & urbis Almuñecar Prætor. II. p. 119. c. 2.
 Obiit an. Eg. 526. *Ibid.*
- BEN MOHEB BEN VAZIR ABU MOHAMAD, Hispalensis, Alicaceri provinciæ Princeps. Rerum ejus historica Synopsis. II. p. 59. c. 2. & seq.
 Tristis ejusdem exitus. *Ibid.* p. 60. c. 1.
 Multorum carminum Scriptor fuit. *Ibid.*
- BEN MOSLAMA BEN ALAPHTAS, Meknasæ natus, Lusitanæ Regis Saburi Vizirus, post ejus mortem, Regno usurpato, Regis insignia & *Almanforis* nomen sumsit. II. p. 212. c. 2. & seq.
 Ejus Successores. *Ibid.* p. 213. c. 1.
- BEN MUSA ABU MOHAMAD, vulgò *Ebn Bartolus*, doctrinâ & pietate clarus. Mercia nobili genere natus an. Eg. 481., ibidem Maximi Templi Sacerdos factus est. II. p. 128. c. 1. & 2.
 Magistri sui Abu Bakeri Ben Abi Derhem vitam scripsit. *Ibid.*
 Obiit an. 563. *Ibid.*
- BEN MUSA BEN SAID ALANSARI, *Alfcharagi* dictus, Toletanus, austeritate vitæ ac doctrinâ celebris. II. p. 143. c. 2.
 Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN NEGEM BEN SCHAS GELALEDINUS ABU MOHAMAD. Ejus opus inscriptum *Lapidum pretiosorum Collectio*, explanationem juris utriusque ad mentem Maleki continens. I. p. 456. c. 2.
 Ejusdem tomus II. Commentariorum in Juris Canonici titulos de Matrimonio & Dotibus. *Ibid.* p. 457. c. 1.
- BEN OMAR BEN ISA BEN VALID, vulgò *Ebn Alaslami*, ex urbe Guadalaxara, nobilis Jurisconsultus. Ejus Opera. II. p. 142. c. 2. & seq.
 Cordubæ decessit an. Eg. 451. *Ibid.*
- BEN PHARGHIUS BEN GAZLON, aliàs *Ebn Alafsal*, Granatensis, vir pietate & doctrina apud Mahometanos celeberrimus, qui multa de Virtutibus & Vitiis elucubravit. II. p. 103. c. 1.
 Obiit an. Eg. 487. *Ibid.*
- BEN RADA BEN KHALED, Poëta eximius, Eboræ Algarbiorum natus an. Eg. 354. & Hispali defunctus an. 429. II. p. 143. c. 1.
- BEN SAHL ABA MOHAMAD, vulgò *Beluageh Naphek*, id est, *Inspirator*, Hispanè *Saludador*, Granatensis, Philosophus & Mathematicus clarissimus. II. p. 99. c. 2. Ejus nominis fama apud omnes nationes. *Ibid.*
 Egregia edidit scripta. *Ibid.* p. 100. c. 1.
 Ubi & quando obierit. *Ibid.*
- BEN SAID ABU MOHAMAD, vulgò *Ebn Alschphac*, Cordubensis, Regiæ Curia Præses, Jurisperitiâ & scriptis nobilissimus, obiit an. Eg. 426. II. p. 143. c. 1.
- BEN SAID ALBASCULAI, Cordubensis, Jurisconsultus, scriptis notissimus, decessit *Cordubæ* an. Eg. 458. II. p. 138. c. 1.
- BEN SAID ALUAGEDI ABU MOHAMAD, Tremifenenfis ex oppido Vageda, Jurisconsultus, & Valentia iterum Prætor. II. p. 130. c. 1.
 In ea Maximi Templi Conclave ære suo condidit. *Ibid.*
 Obiit an. Eg. 636. *Ibid.*
- BEN SAID BEN ABDALLA ALSALAMANI ABA MOHAMAD, Granatensis ex clarissimâ Ben Alkathib familia, vir & doctrinæ laude & bellicâ virtute illustris. II. p. 99. c. 1. & 2.
 Multa cum ligatâ, tum solutâ oratione conscripsit. *Ibid.*
 Granatæ mortuus est an. Eg. 741. *Ibid.* c. 2.
- BEN SAID BEN LABAGE ALAMAUI, ex oppido Santaella, Concionator pietate ac doctrina clarissimus. Plura scripsit Ascetica. II. p. 143. c. 1.
 Monasterium haud procul à Corduba sibi construxit, ubi an. Eg. 436. decessit. *Ibid.* & c. seq.
- BEN SALAM, Mahometi socius. Ejusdem Pseudoprophetae sententiâs & res gestas literis consignavit. I. p. 476. c. 2.
- BEN SCHAKER EBN ABI ALMOTHAHER ALMADANI, doctus Geometra & Astronomus, Persicè & Arabicè plura ligatâ & solutâ oratione scripsit. I. p. 403. c. 2. & seq.
 Obiit in urbe Hispahana circa an. Eg. 570. *Ibid.* p. 404. c. 1.
- BEN SOLIMAN ABA MOHAMAD, vulgò *Ebn Hauthalla*, Granatensis, vir longè eloquentissimus, & eruditionis, quâ pollebat, studiosissimus. II. p. 100. c. 2.
 Cordubæ, Hispali, aliisque urbibus præfuit. *Ibid.*
 Granatæ obiit an. Eg. 612. *Ibid.* p. 101. c. 1.
- BEN SOLIMAN ABU MOHAMAD ALANSARI, vulgò *Ben Hauthalla*, Valentinus ex oppido Honda. *Bibliothecam Hispanam, Annalesque Valentinus* scripsit. II. p. 129. c. 1. & seq.
 Varias in Hispaniâ præfecturas gessit. *Ibid.*
 Granatæ decessit an. Eg. 612. *Ibid.*
- BEN SOLIMAN BEN DAVUD ALANSARI, Malacitanus, omni scientiarum genere ornatissimus, Hispali & Granatæ Prætor. II. p. 119. c. 2.
 Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN TAMAM BEN ATHIA ALMOHAREBI, Granatensis ex oppido Calfana seu Calzana, Dux fortissimus, qui Regem Ben Haphsun bis prælio superavit. II. p. 119. c. 1.
- BEN THALHA BEN ATHIA ALMOHAREBI ABU BAKERUS, Granatensis, Jurisconsultus, Granatæ & Almeriæ Præfectus. II. p. 119. c. 1.
 Ejus ortus atque obitus. *Ibid.*
- BEN ZOB AIR. Monetam rotundam primus Meeccæ cudid. II. p. 174. c. 1.
 Monetæ lemmata. *Ibid.*
- EBN MASRUR, genere Christianus, Astrologi Albumafaris puer ac discipulus. Ejus Opera. I. p. 403. c. 1. & 2.

- EBN MOHAMAD, Hispaniarum Rex. Eo imperitante condita est urbs Loxa an. Eg. 280. *II. p. 253. c. 1.*
- EBN MOHAMAD BEN DERI ALTAGIBI, *Alrikli* dictus, Cæsaraugustanus ex oppido Rikla, doctrinā & scriptis clarissimus, qui decessisse fertur an. Eg. 498. *II. p. 143. c. 2.*
- JAHIA BEN ISAC, Toletanus E Christiano Mahometanus factus, apud Regem Hispan. Abdelrahmanum I. Medici atque Viziri munere fungitur. *II. p. 101. c. 2.*
Opus edidit de Medicina V. tomis comprehensum, Græcorumque placitis accommodatum, cui titulum fecit *Sericum*. *Ibid. p. 102. c. 1.*
- ISMAEL, Josephi Ducis Malacæ filius. Historiam Beni Marin Africæ Regum evulgavit an. Eg. 789. quam *Odor Rosæ* inscripsit, & Abulabaso Ahmedo Regi Fefsæ nuncupavit. *II. p. 176. c. 2.*
- MOHAMAD BEN JOSEPH ALSENSI ALHASNI, Granatensis. Ejus Opera recensentur. *I. p. 203. c. 2. & seq.*
- MOHAMAD BEN MOAD, Cordubensis. Tractatum edidit inscriptum *Productiones quantitatum superficialium Sphæræ*. *I. p. 382. c. 2.*
- MOHAMAD BEN MOHAMAD BEN EDRI ALPHARANI ALCOETHAI ALCALUSI, Hispanus. Ejus Tractatus de Arte Metrica, cui titulus *Sigillum referatum*. *I. p. 69. c. 1.*
Poema ejusdem, quod exempli gratiâ suam Artem Metricam adornaturus composuit an. Eg. 686. *Ibid.*
- MOHAMAD BEN MOHAMAD LAIDUN, Ægyptius. Ejus poema de Rhetorica & Poetica. *I. p. 57. c. 1.*
- ZEIDAN, Marochi Rex. *I. p. 189. c. 1.*
- ABDAMARUS ALGELDAKI, Persa. Ejus Commentarii in Berhanneddini Abulhassan de Arte Chymica poema *Particulæ Auri* inscriptum. *I. p. 194. c. 2.*
- ABDELALA, Musæ filius, Patrem in Hispaniam proficiscentem comitatur. *II. p. 321. c. 1.*
- ABDELAZIZ ABDELSALAM. *Vide* Azzedinus Abdelsalam Ben Ahmad Ben Ganem.
- ALBEKRI, Huelvæ & insulæ Saltes Princeps. Ejus præclaræ res gestæ, & obitus. *II. p. 46. c. 1.*
- ALI BEN DAUD ALHAUARI ALMOSARATI, Hispanus, cur *Alhauari* appellatus. *I. p. 380. c. 2.*
Ejus Commentarius in Compendium scientiæ supputandi Ben Albannæ Granatensis. *Ibid.*
Alterum ejusdem Commentarii exemplum, cui accedit Oratio dedicatoria Viziri Abu Mohamad Ben Omad Regi Granatæ Abu Nassar Ismail inscripta an. Eg. 761. *Ibi. p. 381. c. 2.*
- BEN ABDALLA ALARAKI, Aecitanus, Medicus & Poeta nobilis, cujus aliqua extant carmina. *II. p. 107. c. 2.*
Obiit in patria an. Eg. 715. *Ibid.*
- BEN OMAR, alias *Ben Garzia*, ex urbe Guadalaxarâ, doctrinâ clarus; decessit anno Eg. 382. *II. p. 145. c. 1.*
- MASSUDUS, Hispalensis, sexti Eg. seculi Scriptor. Tractatum concinnavit de Tabulis Sinuum, earumque in Trigonometria usu, *Sufficiens* dictum. *I. p. 353. c. 1.*
- ABDELAZIZÆUS, Almonderi filius, & Regis Hisp. Abdelrahmani Alnaferi Ledinalla nepos, cognomento *Ebn Alcarschia*, Rhetor atque Poëta. *II. p. 38. c. 2.*
Carminum ejus notitia à quibus petenda. *Ibid.*
- ABDELAZIZUS, Ducis Moysis vulgò Musa Ben Nafsir filius, ob præclaras victorias celeberrimus. *II. p. 105. c. 2.*
Præcipua ejus gesta ex Rasi. *Ibid.*
Pacis fœdus ipsum inter & Todmirum Gothorum Regem initum. *Ibid. & c. seq.*
Hispaniæ præficitur. *Ibi p. 323. c. 1.*
Roderici uxorem sibi destinat, & Hispali in æde Salvatoris cum ea commoratur. *Ibi p. 234. c. 2.*
Fœdum ex adversum ædem extruxisse fertur. *Ibid.*
Ejus an. 98. interfecti caput Solimano alatum. *Ibid.*
Ab ipsius morte anno ferè uno Hispania Præfecto vacat. *Ibid.*
- BEN AHMAD BEN MOHAMAD, Bokharensis. Ejus Commentarius in Compendium Juris Civilis Mohamad Ben Omar Akhsiketi. *I. p. 472. c. 1.*
- BEN ALI BEN ZAIDAN ALSAMATI, Cordubensis, Scriptor clarus, Poëta, Orator & Philosophus nobilis. Ejus ortus & obitus. *II. p. 133. c. 1.*
- BEN GIOMAA, Grammaticus, Muselensis in Afsyria. Ejus expositio *Alphiæ* seu *Millenarii*. *I. p. 4. c. 1.*
Vide etiam Azzedinus Abdelaziz Ben Giomaa.
- BEN HOSSAIN, vulgò *Ebn Halala*, Hispalensis ex oppido Tebar, Historicus. Ejus obitus. *II. p. 132. c. 2. & seq.*
- BEN JAHIA BEN MOSLEM ALKANANI. Ejus Opus dogmaticum de Alcorani creatione, titulo *Controversiarum Liber*. *I. p. 526. c. 1.*
- BEN MOHAMAD, vulgò *Abulashbaghæus*, Cæsaraugustanus ex oppido Valschid, Chronographus an. Eg. 555. clarus. *II. p. 132. c. 2.*
- BEN OMAR BEN HABNUC, vulgò *Abu Jones*, ex oppido Montschon in Orientali Hispaniæ plaga. Apud Cæsaraugust. annonæ præfuit an. Eg. 463. *II. p. 132. c. 2.*
- BEN Tabet BEN SUARIUS, Sætabiensis ex oppido Belala, Scriptor an. Eg. 453. clarus. *II. p. 132. c. 2.*
- EBN ABDELRAHMAN BEN ALMANSOR MOHAMAD BEN ABI AMER, Valentiaæ Rex, Cæsaraugustæ decessit an. Eg. 352. *II. p. 215. c. 1.*
Ejus Regni Successor. *Ibid.*
- ABDELCADER ABU BAKR BEN ABDELRAHMAN-

- MANUS ALGIORGIANI, Persa. Ejus Opus de re Grammatica, titulo *Centum Regentes*. *I. p. 23. c. 1. & p. 39. c. 1.*
- Romæ id opus prodiit cum versione Latina. *Ibid.*
- Illud exposuere Mohamad Ben Ahmad Alcaisari, & Khaledus Ben Abdalla Ben Abi Bakr Alanfaræus. *Ibid. c. 2. & p. 40. c. 1.*
- Ejusdem Operis pars altera, cui titulus *Propositiones*. *Ibid. & p. 7. c. 2.*
- Operis Commentatores. *Ibid. p. 7. c. 2. & p. 8. c. 1.*
- Alia ejusdem Opera. *Ibid.*
- Ipsius Opus, *Candelabrum* nuncupatum, commentatus est Abu Kenanah *Ibid. p. 40. c. 1.*
- Commentarius in Librum *Declarationum* Abi Ali Alhaffan Ben Ahmad. *I. p. 12. c. 1.*
- Opusculum de Hereditate, ejusque divisione, cum notis Cassemi Ben Khathib. *I. p. 506. c. 1.*
- In Alcoranum Commentarius, titulo *Margaritarum pretium*. *I. p. 506. c. 2.*
- Operis ejus de Jure Canonico Commentatores. *Ibid. p. 482. c. 1. & p. 508. c. 2.*
- Tractatus item de Deo uno Scholiastæ. *Ibid. p. 521. c. 1. & 2.*
- Commentarius Alzamakani in Opus ejusdem Algiorgiani de Eloquentia Arabica, *Demonstrationes* inscriptum. *Ibid. p. 60. c. 2.*
- BEN ALI BAKER BEN KHADHER ALDOMASSI, Cairensis. Edidit Opus Poëticum Academicum hoc titulo: *Parva collectio ex majori excerpta*, in quo literarum seriem, & perfectam postremarum syllabarum consonantiam servat. *I. p. 137. c. 2.*
- Claruit an. Eg. 859. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ALPHAKEHI. Ejus Dissertatio de Alcorani Legibus. *I. p. 207. c. 1.*
- Floruit Cairi an. Eg. 963. *Ibid. c. 2.*
- ABDELCADERUS EBN MOHAMAD ALANSARAEUS ALGEZIRI, Afsyrius. Ejus Tractatus Historicus de origine & usu potionis *Café* an. Eg. 966. editus. *II. p. 172. c. 2.*
- Extat in Regia Bibl. Paris. *Ibid.*
- ABDELCAHER ALGIORGIANI. Vide Abdelcader Abu Bakr Ben Abdelrahmanus Algiorgiani.
- BEN ABDELRAHMAN ALGIORGIANI. Vide eundem qui supra.
- BEN MOHAMAD BEN ALI ALMODHFER, Hostiata, Grammaticus, scholâ Schapheiticus. *I. p. 30. c. 1.*
- Ejus Poëma de particulis sub titulo *Myseriorum* seu *Arcanorum declaratio*. *Ibid.*
- Ejusdem *Florilegium*, i. e. Tractatus de Grammatica. *Ibid. c. 2.*
- ABDELCARIM BEN ZAINEDDINUS HUAEZ ALCASCHARI, Ægyptius. Opus Asceticum edidit sub titulo *Animarum vita & manuductio ad viam virtutis*. *I. p. 212. c. 2.*
- Claruit quinto Eg. seculo *Ibid.*
- ABDELCAUI SOLIMANUS, Bagdadensis. Jurisprudentiæ Compendium edidit. *I. p. 480. c. 2.*
- ABDELGANI BEN ABDELUAHEB, Hierosolymitanus. Ejus Commentariorum in Codicem Traditionum tomus II. necnon Collectio Canonum secundum Pseudoprophetae traditiones. *I. p. 517. c. 1.*
- BEN SAID, Alazadita, Bibliothecæ concinnator. *II. p. 333. c. 1.*
- ABDELGIABAR, Regis Hispan. Abdelrahmani filius. *II. p. 103. c. 2.*
- BEN ABDALLA BEN AHMAD BEN ASBAGHI ALMARUANI, ex Regia Omniaditarum stirpe, Cordubensis. Scripsit Historiam universalem titulo *Regum & Regiminis spectaculum*. *II. p. 145. c. 2.*
- Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- ABDELHAC BEN ABI ALCASAM, Ægyptius, octavi Egiræ seculi Scriptor. Edidit de arte Kabbalisticâ Opusculum hoc titulo, *Supplicis viri Thesaurus, ac viri idonei studium*. *I. p. 377. c. 2.*
- BEN ABRAHIM, vulgò *Ben Sabin Alachi*, Murcianus. Septæ Monachus factus, literarum studiis se totum dedit. *II. p. 107. c. 2.*
- A Rege Cæsaraug. Abdalla Ben Hud Roman legatur, ut apud Summum Pontificem in jus vocaret Christianorum Regem, qui sibi datam fefellerat. *Ibid.*
- Plura edidit Opera de Dogmaticâ & Mysticâ Theologiâ, è quibus duo recensentur. *Ibid. & c. seq.*
- Meccæ decessit an. Eg. 669. *Ibid. p. 103. c. 1.*
- BEN GALEB, vulgò *Ebn Athia*, Granatensis ex oppido Casala, Almeriæ Prætor. Ejus aliqua extant carmina. *II. p. 106. c. 1. & 2.*
- Ipsius ortus & obitus. *Ibid.*
- Tomis decem Alcorani interpretationem complexus est, quorum octavum hæc Bibliotheca repræsentat. *I. p. 489. c. 1.*
- BEN MOHIC BEN BAKER BEN HAMAMAT BEN MOHAMAD BEN VAZIR BEN CAPHUS EBN KARMATH BEN MARIN ABA MOHAMAD, Mauritanæ Regnum armis adeptus est. *II. p. 233. c. 1.*
- Marinorum familiæ fundamenta jecit Fessæ an. Eg. 610. *Ibid.*
- Quatuor habuit filios, quos post mortem Successores reliquit. *Ibid.*
- Eorum nomina. *Ibid.*
- ABDELHAMID BEN ABILHADID, Hispanus; Grammaticus & Poëta. Ejus Poëma de libro *Eloquens* appellato, cujus Auctor Kemaleddinus Abilabbas Talabi; adjectis ad oras Codicis variarum notis. *I. p. 43. c. 2.*
- BEN VASCE ABULPHADHL, *Ebn Tarek* nuncupatus, Persa, Arithmeticus celeberrimus. Ejus scripta. *I. p. 405. c. 2.*
- ABDELKARIM, vulgò *Alhaphedh*. Ejus Collectio Traditionum Mahometanarum. *I. p. 496. c. 2.*
- ABDELKARIMUS ALTHAIE, Orientis Calipha Abbatidita, an. Eg. 381. omni potestate spoliatus decessit. *II. p. 189. c. 2.*

- BEN ABDELUAHED BEN MOGHITH, Viziri dignitatem apud Regem Hisp. Alhakemum obtinuit. *II. p. 36. c. 1.*
Ejus res gestæ. *Ibid.*
- ABDELMAGID BEN APHAN ALBALUI, Illiberitanus, doctrinâ clarus, obiit an. Eg. 280. *II. p. 121. c. 1.*
- ABDELMALEK MERUANIDA, Templi Hierosolymitani conditor. *I. p. 229. c. 2.*
- ABDELMALEKUS Calipha. Describuntur Nummi, quos Iracæ anno Eg. 76. ex auro & argento cudit. *II. p. 174. c. 2.*
- Abdallæ Ben Mohamad Ben Omia Ben Jazid, vulgò Abu Hauthorat, filius, Regi Hisp. Mohameto à libellis. *II. p. 35. c. 1.*
Literis humanioribus excultus fuisse traditur. *Ibid.*
- × —Abdelmaleki Ben Hozail filius, Patri in urbis S. Mariæ Principatum succedit. *II. p. 42. c. 2.*
- Hispaniæ Rex, Abulualidi filius ac Successor. *II. p. 209. c. 1.*
Ab Ebn Abad Hispalis Principe occisus est. *Ibid.*
- Almanforis Aulæ Cordubensis Præfecti filius, Imperatoriæque patris dignitatis hæres. *II. p. 50. c. 2.*
- Maruani Alhakemi Caliphæ filius & Successor laudatur; & præcipuæ Caliphatus sui tempore res gestæ recensentur. *II. p. 182. c. 1. & 2.*
Ejus obitus. *Ibid. c. 2.*
- Vulgò *Abulmali*, Doctor. Institutiones Juris Mahometani scripsit, in quas Commentarium edidit an. Eg. 953. Mohamad Ben Mohamad Abdelrahman Alkhathab. *I. p. 481. c. 1.*
Earundem Institutionum duo alii Scholiastæ. *Ibid.*
- Dictus *Almodhpher*, Hispanæ Reip. Summus Dux, Almanforis filius ac Successor, rei militaris scientiâ præclarus. *II. p. 202. c. 2.*
Obiit an. Eg. 399. postquam annos ferè septem regnasset. *Ibid. & c. seq.*
Ejus in Regno Successor. *Ibid.*
- × —ABU MARUAN BEN RAZIN. Vide Ebn Razin Dulriatfain.
- ABU MERUAN, ejusque pater. *II. p. 47. c. 2.*
Imperitante in Hispania Heschamo Ben Alhakemo, Toletò præfuit. *Ibid.*
Carmen edidit, quo Regi Heschamo victoriam de Galebo, urbis Medina-Celi Principe, relatum gratulatur. *Ibid.*
- ABU MERUAN, aliàs *Omalaldaulat*, Aragoniæ Rex, quintus ex Beni Hud familia. *II. p. 57. c. 1. & p. 212. c. 1.*
Cujus fuerit filius. *Ibi p. 57. c. 1.*
Quibus conditionibus ad eum delatum sit Regnum. *Ibid.*
Cæsaraugustæ civitatem sibi rebellem Christianorum ope subjecit an. Eg. 512. *Ibid. & p. 212. c. 1.*
Obiit in oppido Roda an. 524. *Ibi p. 212. c. 1.*
- Quis ejus Successor extiterit. *Ibi p. 57. c. 1.*
- BEN ABDALLA BEN BADRUN ALHADRAMITA, ex urbe Silves, Poeta & Orator clarus. Carmen Poetæ Ben Abdun Commentario illustravit, cui titulum fecit *Floris Calyx. II. p. 132. c. 2.*
Sexto Eg. seculo vixit. *Ibid.*
- BEN AHMAD BEN ABDELMALEK BEN SCHAHID ABU MARUAN, Cordubensis, Orator, Poeta & Chronographus nobilis. Arabum Annales in partes centum distributos scripsit. *II. p. 145. c. 1.*
An. Eg. 393. ex insidiis occisus est. *Ibid.*
- BEN AHMAD BEN SOLIMAN, Cæsaraugustæ Rex. *II. p. 211. c. 2.*
- BEN ALI BEN SAID BEN KHALAPH ALGASSANI, aliàs *Abu Maruan*, Almeriensis. Ejus ortus & obitus. *II. p. 121. c. 1.*
Ab Oriente magna cum librorum copia in Hispaniam rediens, à Christianis propè Malacæ portum captus est. *Ibid.*
- BEN BASCHAR BEN MERUAN BEN ALHAKEM. Cum aliis Hispaniam profectus, Cordubæ egregia Opera Poetica evulgavit. *II. p. 31. c. 2.*
- BEN CATHANUS ALPHAHRI, Hispaniæ iterum Præfectus. *II. p. 325. c. 2.*
- BEN HABIB ABU MARUAN ALSALAMI, Cordubensis. Juris scientiâ & multiplici eruditione excelluit, scripsitque Tractatum luculentissimum de Jure. *II. p. 138. c. 1.*
Cordubæ interiit an. Eg. 239. *Ibid.*
- BEN HABIB ALSALAMI, Granatensis ex oppido Hosn Vath, vir omnium scientiarum genere instructissimus, qui mille & quinquaginta fertur conscripsisse libros, è quibus varii recensentur. *II. p. 107. c. 1.*
Obiit Cordubæ an. Eg. 289. *Ibid.*
- BEN HESHAM, vulgò *Ebn Athala*, ex urbe Silves, anno Eg. 475. natus, in Rhetorica, Philosophia, ac Jurisprudencia versatissimus. *II. p. 132. c. 1.*
Quos earum artium Magistròs audierit. *Ibid.*
Genealogiarum libros III. concinnavit. *Ibid.*
Decessit an. Eg. 551. *Ibid.*
- BEN HOZAIL BEN RAZIN GESAMALDAULAT. Poeta fuit insignis, exercitatisissimusque miles. *II. p. 42. c. 1.*
A militibus, quos regebat, nullatenus distingui voluit. *Ibid.*
Principatum urbis S. Mariæ jure hæreditario obtinuit. *Ibid.*
Quam magnificè in eo se gesserit. *Ibid.*
Obiit an. Eg. 496. *Ibi c. 2.*
Quis ejus Successor extiterit. *Ibid.*
It. Vide Ebn Razin Dulriatfain Abu Maruan Gesamaldaulat.
- BEN JONAS ALABDARITA, vulgò *Ebn Albeithar*, Granatensis, Scriptor accuratissimus, & Malacæ Præfectus. *II. p. 120. c. 2.*
Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN KHALAPH ABU MARUAN, vulgò *Abud*, urbis S. Mariæ Rex, ex Beni Hud stirpe. *II. p. 216. c. 1.*

—BEN MASSARRA BEN PHARAGI BEN AZIZ ALIAHSI ABU MARUAN, Cordubensis, eruditione clarus, atque Arabicarum Antiquitatum curiosissimus. *II. p. 145. c. 1.*

Cordubæ decessit an. Eg. 552. *Ibid.*

—BEN MOHAMAD AXISEUS, vulgò *Ebn Alhamami*, Granatensis, Jurisconsultus ac Orator Regius, necnon Almuñicar, Loxæ & Quesadæ Prætor. *II. p. 121. c. 1.*

Obiit Granatæ an. Eg. 591. *Ibid.*

—BEN OMAR BEN MERUAN BEN ALHAKEM, vir doctus, & rei militaris peritissimus. Ejus res gestæ. *II. p. 31. c. 2.*

—BEN SAID BEN KHALAPH ALANSI, Illiberitanus ex oppido Iahseb. Inter Arabes Hispanos primò fortunatissimus, postremò Granatæ in vinculis miserè periit an. Eg. 560. *II. p. 107. c. 2.*

—BEN TARIPI ABU MARUAN, Cordubensis. Opusculum de Verborum Conjugatione accuratissimè scripsit. *II. p. 145. c. 1.*

Obiit an. Eg. 400. *Ibid.*

—BEN ZAHR, seu *Ebn Zohr*, vulgò *Avenzo-har*, aliàs *Abu Maruan Ben Abdelmalek Ben Mohamad Ben Maruan*, Hispalensis, Medicus clarissimus, origine & religione, teste Herbelotio, Judæus *II. p. 132. c. 2.*

Opus edidit de Medicamentis simplicibus compositisque, *Taisir* inscriptum, aliudque de Morborum curatione, Abrahamo Principi dicatum. *Ibid.*

Extat illud in Reg. Biblioth. Paris. *Ibid.*

Obiit Auctor Hispali an. Eg. 557. *Ibid.*

—EBN ABDALLA, vulgò *Ebn Badrun Hadramita*, Hispalensis. Commentaria scripsit in Poema Ben Abdun Abi Mohamad Abdelmagid de rebus tragicis Omari Ben Mohamad, Regis Badajoz. *II. p. 66. c. 2.*

ABDELMASIH EBN NAAMA. Aphrodisæi Commentaria in octavum Librum Aristotelis de Organo Arabicè interpretatus est. *I. p. 244. c. 1.*

Vide etiam Ebn Naama.

ABDELMENEMUS BEN MOHAMAD, vulgò *Ebn Alphas*. Granatæ an. Eg. 524. natus, ibid. eruditione & juris prudentiâ claruit. *II. p. 106. c. 2.*

Præfecturarum & Operum ejus notitia. *Ibid.*

Ipsius obitus. *Ibid.*

Ejusd. Epitaphium, ab se carmine conscriptum. *Ibi p. 107. c. 1.*

—BEN MOHAMAD ALABARCUHI, Grammaticus. Ejus Expositio *Medullæ medullarum* Ben Heschami. *I. p. 38. c. 2.*

Florebat Cairi nono Eg. seculo. *Ibid.*

ABDELMOHSEN, Syrocaariensis. Poema Gemaledini Abi Amru Othman Ebn Alhagebi de Arte Metrica & Rhythmica commentatus est. *I. p. 120. c. 1.*

ABDELMOIN BEN AHMAD, vulgò *Ben Al-bak*, Persa Balakhita. Nominum Ænigmati-corum Thesaurum Cothbeddini Ben Alaeldini

commentatus est, plurima ingeniosa ænigmata de suo adjiciens. *I. p. 162. c. 2.*

ABDELMUMEN. Quo tempore ejus Dynastiæ Imperium sit eversum. *II. p. 225. c. 1.*

—ABU MOHAMAD, Almohaditarum Princeps. Hispaniarum Imperio sibi vindicato, Granatæ Præturam propinquis suis dedit. *II. p. 256. c. 2.*

—BEN ALI ALKUMI, Jazedita, Hispan. Rex, Almohaditarum secundus. *I. p. 293. c. 1. & 294. c. 1.*

Regnum auspicatus anno Eg. 524. obiit in urbe Sala an. 558. *Ib. p. 294. c. 2.*

Ejus Edicti adversus Judæos & Christianos summa. *Ibi p. 293. c. 1.*

—BEN ALI BEN ALUI BEN IALI BEN MARUAN BEN NASSER BEN ALI BEN AMER BEN MUSA BEN AUNALLA, Almahadi in Pontificatu Successor. *II. p. 220. c. 1.*

Africam & Hispaniam armis suo imperio subjecit anno Eg. 540. *Ibid.*

Obiit in urbe Sala, vulgò Salé an. Eg. 558. *Ibid.*

Quis in ejus locum suffectus. *Ibid.*

—BEN HEBATALLA, Hispahanus. Sermones de morum doctrina scripsit, titulo *Disci aurei*. *I. p. 159. c. 2.*

ABDELRAHIM, Hispahanensis. Ejus Commentarii tum in Albeidhavi Tractatum Theologicum, *Ortus Luminum* appellatum, tum in Avicennæ Physicam. *I. p. 534. c. 1.*

—ALBARI ALMOHAGERI. Opus Poeticum concinnavit, cui titulus *Diuan*. *I. p. 88. c. 1.*

Inter heroicos Poetas principatum obtinuit, Damasci quinto Eg. seculo clarus. *Ibid.*

—BEN HASSAN, vulgò *Alasnavi*, Ægyptius ex urbe Asna. Ejus Commentarius in Opus Albeidavi de Jure Mahometano. *I. p. 478. c. 2.*

ABDELRAHMAN ALAGEHURI, Granatensis. Opera Canonica Khalili Ben Isaac in epitomen contracta Notis illustravit. *I. p. 466. c. 2.*

Ejusd. Opus de Jure Civili exposuit. *Ib. p. 473. c. 2.*

Juris item Institutiones ipsius Khalili Commentario elucidavit. *Ibi p. 479. c. 2.*

—ALSAKHAULI. Ejus Commentarior. in Poema Abdelrahmani Ben Alhossain de Traditionibus Tomus primus. *I. p. 536. c. 2.*

Obiit an. Eg. 806. *Ibid.*

—ALTAGIURI, Alepinus. Commentarium elucubravit in Tractatum de Astrolabio à Badereldino, vulgò Almardino concinnatum. *I. p. 367. c. 2.*

—BEN ABDALLA, aliàs *Alshaili*, nobilis Malacitanus. Ejus ortus & obitus. *II. p. 104. c. 2.* Granatæ omni Scientiarum genere enituit. *Ibid.*

Opus de Divinis Nominibus, aliaque scripsit. *Ibid.*

—BEN ABDELCADER ABULCASSEMUS, ex oppido Lebsa Accitani tractûs. Ejus ortus atque interitus anni. *II. p. 120. c. 2.*

Utriusque juris Doctor fuit eximius, Al-

- meriæque Canones prælegit, ubi *Itinerarium Orientale* publicavit. *Ibid.*
- BEN ABDEL CARIM BEN JAHIA BEN VAPHE ALAKHAMITA, inter Hispaniæ Proceres clarissimus, atque variar. disciplinar. peritus. Ejus Vita. *I. p. 404. c. 2. & seq.*
- BEN ABDELMALEKUS ALIANSCHATÆUS, Granatensis, linguæ Arabicæ peritiâ & eruditione conspicuus, insignis item Poeta satyricus. *II. p. 105. c. 2.*
Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN ABI ALPHAHID ALASCHGAI, dictus *Abu Almotharebus*, Illiberitanus, Orator & Poeta celeberrimus, an. Eg. 370. clarus *II. p. 120. c. 2.*
Varia Carmina edidit. *Ibid.*
- BEN ABRAHIM ABULCASSEMUS, vulgò *Ebn Alhakim*, Rondæ natus, splendore generis, doctrinâ & modestiâ clarissimus. *II. p. 120. c. 1.*
Obiit an. Eg. 673. *Ibid.*
- BEN ABRAHIM ALANSARÆUS, *Ebn Alphassal* dictus, Granatensis, vir magni ingenii, summaque eloquentiâ & memoriâ præditus, cujus plura extant Carmina & Epistolæ. *II. p. 104. c. 2. & seq.*
- BEN ABRAHIM ALKHAZRAGITA ABULCASSEMUS, vulgò *Ebn Alphas*, Granatæ, ubi natus est, literis, opibus & auctoritate multum valuit. *II. p. 104. c. 1.*
Marochi rerum potitus, à Rege Granatæ Nassero prælio superatus occubuit, cujus corpus ejusd. Regis jussu ad Marochi portam affixum est. *Ibid. & c. seq.*
Celeberrimi Poematis de Deo Auctor fuit. *Ibid.*
Vide etiam Abdelrahmanus Ben Abraham Abulcassemus Alkhazragæus.
- BEN ABRAHIM BEN IAHA ABULCASSEMUS, vulgò *Ebn Alhakin*, Rondæ primarius civis. Ejus laudes & obitus. *II. p. 104. c. 1.*
- BEN AHMAD ABA GIAPHAR, cognomento *Ben Alcasiri*, Granatensis, Philosophus ac Jurisconsultus præclarus, & Academiae Cordubensis Socius. *II. p. 104. c. 2.*
Plura evulgavit & solutâ & ligatâ oratione Opera Philosophica. *Ibid.*
Eidem tribuitur præstantissimum Opus de Virorum illustrium Vitis. *Ibid.*
A Christianis interfectus est in prælio navali an. Eg. 576. *Ibid.*
Vide item Abdelrahmanus Ben Ahmiad Abu Giaphar.
- BEN AHMAD BEN ATHIA, vulgò *Altanesi*, Granatensis, Jurisperitus, & multiplici eruditione ornatus. Obiit an. Eg. 684. *II. p. 120. c. 2.*
- BEN ALHASSAN ABU BAKERUS, vulgò *Ben Hani*, Granatensis, Jurisconsultus, & Scriba Regius. Ejus ortus & obitus. *II. p. 120. c. 2.*
- BEN BADR BEN AHMAD, Hispaniæ Regis Abdallæ libertus, Poeta non imperitus, prudens item ac fortis miles. *II. p. 48. c. 2.*
Sub Abdelrahmano III. Hispali præfectus est, indeque Viziri dignitate auctus. *Ibid.*
- BEN HABIB BEN ABI OBADAT BEN ACBAT ALAMUL. Ad Hispaniam unâ cum nonnullis Damasci proceribus se contulit an. Eg. 123. *II. p. 32. c. 2.*
Ejus operâ Bageius Ben Baschar, Imperatoriæ militiæ Dux, tumultuantes in Hispania Barbaros profligavit. *Ibid.*
- BEN ISMAIL BEN BADR, vulgò *Aclodiseus*, Hispanus, clarus Geometra, & Dialecticus. *I. p. 404. c. 2.*
- BEN MASSUD, Persa. Ejus Carmen de Jurisprudentiâ. *I. p. 475. c. 2.*
- BEN MAUIA BEN HESCHAM BEN ABDELMALEKUS BEN MERUAN, cognomento *Abulmothrephus*, primus ex Omniaditar. stirpe Hispan. Rex, an. Eg. 138. renuntiatus, sedem Regiam Cordubæ primùm fixit. *II. p. 30. c. 2.*
Ejus carmina à quibus è Hispanis Scriptoribus referantur ac celebrentur. *Ibid.*
Josephum Ben Abdelrahman Alamri, totius Hispaniæ Proregem, victum interimit. *Ibi p. 31. c. 2.*
Fratris sui filiam, nomine *Kanza*, cui nuptum dederit, & quare. *Ibid.*
Vide item Abdelrahmanus Ben Moavia Ben Hescham, Saphar dictus.
- BEN MOHAMAD, vulgò *Almoapheræus*, Granatensis. Historicum ejus elogium. *II. p. 105. c. 1.*
Obitus. *Ibi. c. 2.*
Extant quædam ejus Carmina & Epistolæ. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ABI ZAID BEN KHALDUN, Hispalensis, vir generis & doctrinæ laude egregius, cujus Opera recensentur. *II. p. 105. c. 1.*
Claruit an. Eg. 756. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ABU ZAID, vulgò *Ebn Mafschri*, Granatensis, ob singularem Arabicæ & Hispanæ linguæ peritiâ non semel ad Principes Christianos legatur. *II. p. 120. c. 2.*
Obiit Granatæ an. Eg. 731. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ABDALLA BEN HOBASCH ABULCASSEMUS, Hispalensis, eruditissimus vir, ac præclarus Jurisconsultus, cujus ingenium laudatur. *II. p. 138. c. 1.*
Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ABDELAZIZ BEN ATASCH, Cæsaraugustanus, Jurisconsultus eximius, Murciae, Almeriæ & Granatæ Præfectus. *II. p. 120. c. 2.*
Ejus obitus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN JOSEPH BEN ABDELMUMEN, Valentiaæ Rex, animi fortitudine & bellica virtute præstans. *II. p. 120. c. 1.*
Cum Aragoniæ Rege foedus iniit. *Ibid.*
Regno pulsus, ab eodem benignè excipitur. *Ibid.*
Cum duobus filiis Christo nomen dedissetur. an. Eg. 626. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD EBN KHALDUN ALHADRAMI, Granatensis. Ejus Epitome Theologiæ Dogmatici-

- ticæ, cui titulus *Medulla*, Opus autographum. *I. p. 540. c. 1.*
- BEN MOHAVIA ABA ALMOTHREPH, nuncupatus *Sacr*, ex Regia Omniaditarum stirpe Damasci ortus, Rhetor & Poeta pene incomparabilis. *II. p. 103. c. 2.*
Hispanum Imperium, quod ab Omniaditis ad Abbasidas transferat, quo pacto recuperaverit. *Ibid.*
Cordubæ Imperator salutatus an. Eg. 138. ætatis. 25. *ibid.* obiit an. 172. *Ibid.*
Castellæ Regnum, post Hispaniam subactam, vestigale fecit. *Ibid.* & *c. seq.*
Regium ejus de hac re diploma. *Ib. p. 104. c. 1.*
- BEN OMAR BEN MOHAMAD BEN SAHL ABULHASSAN RAZÆUS, Suphita. *Vide* Abulhassan Abdelrahman Ben Omar.
- ABDELRAHMANUS, Almanforis, Aulæ Cordubensis Præfecti, filius, & paternæ dignitatis Successor. *II. p. 50. c. 2.*
- Mohamadi filius, Zohairi Regis Almeriæ opè Murcia Regnum adeptus. *II. p. 215. c. 1.*
- Aliàs *Abi Taschphin*. Tremiffeni Regnum Patri Abu Hamu Musæ eripit, sibi que usurpat. *II. p. 229. c. 2.*
Quo pacto id amiserit. *Ibi & c. seq.*
Vide etiam Abdelrahmanus Abu Taschphini.
- Cognomento *Abulmothreph*, hujus nominis secundus, & Hispan. Rex IV. Omniadita. Quo tempore electus. *II. p. 33. c. 2. & seq.*
Historicum de eo elogium. *Ibi p. 34. c. 1.*
Omnium primus Hispanum Principatum Regis nomine sibi assumpto nobilitavit. *II. p. 199. c. 1. & seq.*
Poetica & Oratoria laude conspicuus fuit, *Hispaniæque Annales* condidit. *Ibi c. 2.*
Ejus operâ & Corduba exornata est, & communitum Regnum. *Ibid.*
Annos triginta natus, Rex renunciatus est, obiitque an. Eg. 238. eodem die quo Regnum adeptus. *Ib. c. 1. & 2.*
Quantum temporis imperaverit. *Ib. c. 2.*
Ejus Successor. *Ibid.*
- SCHANGIUL per contumeliam cognominatus, Hispan. Reip. Summus Dux, Abdelmaleki frater ac Successor. *II. p. 202. c. 2. & seq.*
Eum, Imperio usurpato, interficit Ben Abdelgiabar. *Ib. p. 202. c. 2.*
Menses tantum quatuor imperasse traditur. *Ibi p. 203. c. 1.*
- ABI AHMAD ALHAMADITA, Cairensis, Opus condidit Poeticum titulo *Auditus Munus de Poeticis Salibus*. *I. p. 123. c. 2.*
Terna hujus Operis inter Escorialenses Codices asservantur exempla. *Ibid.* & *c. seq.*
Quo Eg. seculo inclauerit. *Ibid.*
- ABU KATHIR, Ægyptius. Ejus Animadversiones in Carmina Poetæ Abilthaieb. *II. p. 156. c. 1.*
- ABU MATHREPH, Illiberitanus, doctrinâ & morum integritate clarus. Opus de re rusticâ scripsit. *II. p. 130. c. 2.*
- Quarto Eg. seculo obiisse fertur. *Ib. p. 131. c. 1.*
- ABU TASCHPHIN. Tremiffenensi Regno ac vitâ patrem suum Musam Abu Hamu an. 718. spoliavit. *II. p. 279. c. 1. & p. 285. c. 1.*
Ejus laudes. *Ib. p. 296. c. 1.*
Tempus quo floruit. *Ibid.*
Vide it. Abdelrahmanus Ben Musa Ben Othman Ben Iagmarasan Ben Zian Abu Taschphin.
- ABULMOTHREPH, Hisp. Rex Omniadita. Opera Poetica edidit an. 411. in quæ Censuram seu Animadversiones Anonymus quidam scripsit. *I. p. 67. c. 1.*
Vide etiam Alasbaghus Abulcassem.
- ALBASTHAMUS, Arabicæ Philosophor. Historiæ Scriptor. *I. p. 364. c. 1.*
- ALGIAMI. Ejus Expositionis Caphiæ exempla duo. *I. p. 35. c. 1.*
Alia item duo; alterum cum Offameddini Scholiis, alterum cum Notis locupletissimis. *Ib. c. 2.*
Ejusd. in prædictam Caphiam Scholia. *Ib. p. 36. c. 2.*
Poemata *Hest Urnac* inscripta Persicè edidit. *Ib. p. 159. c. 2.*
Eorum argumentum. *Ibid.*
Fabulam quoque Milesiam ead. linguâ conscripsit, cui fecit titulum: *Ortus Luminum*. *II. p. 160. c. 2.*
Extat hoc opus variis Codicibus comprehensum in Reg. Biblioth. Paris. *Ib. p. 161. c. 1.*
Vide it. Mula Giami Abdelrahmanus.
- ALMORTADHI, Hispan. Rex. *II. p. 38. c. 1.*
- BEN ABDALLA ABU ZAID, Valentinus, Mathematicus incomparabilis, cui vulgatissimum accensetur de Arithmetica & Algebra Opus. *II. p. 131. c. 1.*
Obiit an. Eg. 456. *Ibid.*
- BEN ABDALLA ABU ZAID, vulgò *Alfahili*, Malacitanus, Marochi Jurisprudentiæ professor, omnique scientiarum genere ornatus. *II. p. 131. c. 2.*
Complura Opera scripsit, è quibus tria recensentur. *Ibid.*
An. Eg. 509. ortus est, & an. 581. Marochi demortuus. *Ibid.*
- BEN ABDALLA ABU ZAID, vulgò *Ben Mentel*, Cæsaraugustanus, genere, & doctrinâ clarissimus, cujus nonnulla carmina extant. *II. p. 144. c. 2.*
An. Eg. 451. natus, decessit in patria an. Eg. 515. *Ibid.*
- BEN ABDALLA ALGAPHARI, Hispan. Præfectus. *II. p. 325. c. 2.*
- BEN ABDALLA BEN GASCHALEON, Cæsaraugustanus, Historicus peritus ac diligens, Cordubæ extinctus an. Eg. 541. *II. p. 144. c. 2. & seq.*
- BEN ABDALLA BEN MAISERAT, Cæsaraug. Prætor. Ejus obitus. *II. p. 131. c. 1.*
- BEN ABDELRAHMAN BEN RAGIA ALHAGERI, aliàs *Schementani*, laenensis, ex loco Schementan, Mathematicus, Almeriæ Prætor, ubi an. 486. decessit. *II. p. 144. c. 2.*

- BEN ABRAHIM ABULCASSEMUS ALKHAZRAGEUS, Granatensis. Cum *Marochum* invasisset, per Barbarorum insidias interfectus est an. Eg. ferè 600. *II. p. 58. c. 2. & seq.*
Poeta fuit disertissimus. *Ibi p. 59. c. 1.*
Vide it. Abdelrahman Ben Abraham Alkazragita Abulcassemus.
- BEN AHMAD ABU GIAPHAR, aliàs *Ebn Alcafi*, Granatensis, Jurisconsultus singularis. Ejus Opera & obitus. *II. p. 131. c. 2.*
—*Vide quoque* Abdelrahman Ben Ahmad Aba Giaphar.
- BEN AHMAD BEN ALI ALHOMAIDI, Hispanus. Artis Poeticæ Paraphrasim conscripsit. *I. p. 92. c. 2.*
- BEN AHMAD BEN KHALAPH, Cordubensis, Alcorani Interpres in Regio Patriæ Collegio, atque ejusd. urbis Decurio. Ejus obitus. *II. p. 145. c. 1.*
- BEN ALHOSSAIN, vulgò *Alaraki*, Iracensis. Explanatio sui Poematis *Alphia*, *Memoria*, & *Animadversio* appellati, quo totam Traditionum scientiam complectitur. *I. p. 520. c. 1.*
Ejusd. Poematis Explanatores alii. *Ibid. & c. 2. & p. 536. c. 2.*
- BEN HESCHAM BEN ABDELGEBAR BEN ABDELRAHMAN ALNASERI, vulgò *Abulmethreph*, *Almoftaderus Billa* dictus, Almohdei Regis Cordubæ frater, moribus & literis clarus. *II. p. 51. c. 2.*
Omnium consensu Rex Cordubæ an. ætatis XXIII. & Eg. 414. constituitur, eodemque Barbarorum insidiis interfectus traditur. *Ibid. & p. 206. c. 2. & seq.*
Poeta & Orator fuit disertissimus. *Ib. p. 207. c. 1.*
Ejus in Regnum Successor. *Ibid.*
- BEN JOSEPH EBN ROCHIA ALAZHARAMI, Fefanus. Ejus eruditio & Bibliotheca laudantur. *II. p. 132. c. 1.*
Obiit an. Eg. 605. *Ibid.*
- BEN MARUAN ALANSARI, vulgò *Alcanazei*, Cordubensis. Pietate ac literis excelluit; Tractatumque de Contractibus, ac Historiam Philosophorum Cordubensium scripsit. *II. p. 144. c. 1. & 2.*
Ejus ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN MOAVIA BEN HESCHAM, *Saphar* dictus, Ommiaditar. Hispan. Regum princeps. *II. p. 197. c. 2.*
Obiit an. Eg. 172. *Ibid.*
De ejus Patriâ, adventûs in Hispan. tempore, annisque quibus Rex salutatus, & è vivis sublatus est, varior. Auctor. testimonia. *Ib. p. 198. c. 1.*
Quantum temporis regnarit. *Ib. c. 2.*
Quis ejus Successor. *Ibid.*
Vide etiam Abdelrahman Ben Mavia &c.
- BEN MOHAMAD, Persa, ex urbe Bastam in Korasana. Opus edidit sub titulo *Oratorum Methodus*, & *Ratio scribendi de rebus lætis Epistolas*. *I. p. 153. c. 2.*
Obiit an. Eg. 843. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD, *Almortadha* nuncupatus, ab Alameritis Hispaniæ Tarraconensis Rex electus. *II. p. 206. c. 2.*
A Duce Sanhagitarum interfectus. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD, Bagdadensis, vulgò *Ben Askar*. In ejus Summam Canonicam, cui titulus *Manuductio*, Commentar. Salomon Ben Schoaib Ben Khedhr Albahri. *I. p. 459. c. 2.*
- BEN MOHAMAD ABULCASSEMUS, aliàs *Ben Hobaisch*, Almeriensis, Murcia Rhetorices & Philosophiæ professor. *II. p. 131. c. 2. & seq.*
In Arabicarum Antiquitatum studio quantum præ cæteris excelluerit. *Ibid.*
Opus de Nominibus Gentilitiis familiarum Hispanarum, item aliud de Disciplina Militari, plures in Tomos distributum, scripsit. *Ibid.*
Murciæ octogenarius decessit an. Eg. 584. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ABULMOTHREPH, Toletanus, Medicinæ & Jurisprudentiæ professor, necnon Regii Viridarii Toletani Præfectus. Ejus ortus & obitus. *II. p. 131. c. 1.*
Ipsius Opera de re Medica & Rustica. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD ALCAISI, vulgò *Gathi*, Hispanè *Gato*, Cordubensis, Medicus, eruditione nobilis, qui an. Eg. 548. interiit. *II. p. 131. c. 2.*
- ABDELRAHMANUS (hujus nominis III.) BEN MOHAMAD BEN ABDALLA, *Almasser Ledinala*, postea *Fidelium Imperator* nuncupatus, Hispan. Rex Ommiadita, Abdallæ nepos & Successor. Quæ ad ejushistoriam pertinent. *II. p. 37. c. 1. & 2. & p. 103. c. 1. & 2. & p. 200. c. 2. & seqq.*
- BEN MOHAMAD BEN IAZID ABULHASSENUS, Cordubæ Prætor, & Jurisconsultus insignis. Ejus ortus & obitus. *II. p. 144. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN SIDABUH, ex urbe Agabra, seu Cabra, Jurisconsultus, & Cordubæ annonæ Præfectus, Granatæ an. Eg. 489. defunctus. *II. p. 131. c. 1.*
- BEN MUSA ABU TASCHPHIN. *Vide* Abdelrahmanus Abu Taschphin.
- BEN MUSA BEN ABI DERHEM ALTAGIBI, vulgò *Abulmathreph*, Oscensis, Jurisconsultus, & Patriæ Proprætor. *II. p. 131. c. 1.*
Oscæ Historiam ad an. usque Eg. 501. scripsit. *Ibid.*
- BEN MUSA BEN OTHMAN BEN IAGMARASAN BEN ZIAN ABU TASCHPHIN, ex Zaianitis Tremisensi Rex, à Fesæ Rege è folio deturbatus. *II. p. 302. c. 1.*
It. *Vide* Abdelrahmanus Abu Taschphin.
- BEN OMAR, vulgò *Alualid*, Cordubensis, Philologus. Historiam edidit Principum Almeritarum. *II. p. 144. c. 2.*
Obiit in Patria an. Eg. 423. *Ibid.*
- BEN OMAR ABULCASSEMUS, vulgò *Albaiaft*, Cordubensis, Jurisperitus singularis, Regiæ Cordubensis Curia à secretis delectus, quam præclarè hoc munus gesserit. *II. p. 144. c. 2.*
Decessit an. Eg. 525. *Ibid.*

BEN

- BEN OTHMAN ALSADPHI ABULMETHREPHUS, Toletanus Magnam pretiosorum Libror. supellectilem ex Oriente in Hispan. advexit. *II. p. 144. c. 1.*
Ejus Operum recensio. *Ibid.*
Ejusd. ortus & obitus. *Ibid.*
- BEN VALID BEN GANEM. Historicum ejus encomium. *II. p. 37. c. 2.*
Ingeniosa condidit Carmina. *Ibid.*
- MOHAMAD ALSOLEMI, vulgò *Almokanafi*, Murcianus, Poeta inter Hispanos longè nobilissimus. *I. p. 93. c. 2.*
- ABDELRAHUPH. Cujus fuerit filius. *II. p. 48. c. 1.*
Toleto septem annos præfuit, & Viziri postmodum dignitatem, quandiu vixit, obtinuit. *Ibid.*
- ABDELRAUPH BEN ALMANAUI, sectâ Schapheiticus, Ægyptius, Commentator Poematis *Alphia* inscripti, de Mahometi vita rebusque gestis, ab Abulphadel Zeineddino Abdelrahmano editi. *I. p. 130. c. 2.*
Claruit millesimo Eg. anno. *Ibid.*
- BENTAGI ALAEREFIN. Ejus Notæ in Commentarium quo Abu Ismail Abdalla Opus Asceticum Algazeli, *Viatorum Ædes* inscriptum, illustravit. *I. p. 220. c. 2.*
- ABDELRAZAC BEN GIABER BEN SOLIMAN BEN ALUAS, Granatensis, ex oppido Novales, utriusque Juris Doctor & professor, quinto Eg. seculo vixisse fertur. *II. p. 121. c. 1.*
- ABDELRAZACUS BEN GEMALEDDINUS ABI ALGANAIEM ALCASCHANI, Persa ex urbe Caschan. Ejus Commentarius in Alcoranum, titulo *Allegoriae*. *I. p. 495. c. 1.*
- BEN JOSEPH ALASCHAREUS, ex oppido Langerora in Regno Granatensi, Philologus & Jurisconsultus, qui an. Eg. 571. obiit. *II. p. 107. c. 1. & 2.*
- ABDELSALAMUS. Quæstoris munus ubi & quo tempore obierit. *II. p. 48. c. 1.*
Filiorum ejus natu maximus quis qualifve fuerit. *Ibid.*
- EBN MOHAMAD BEN GANEM, Hierosolymitanus. Ejus Opusculum de rebus ad pietatem spectantibus, hoc insigne titulo: *Mysteriorum Solutio, & Theaurorum Clavis*. *I. p. 155. c. 2.*
- ABDELUAHAB BEN ALI BEN NASSER, Bagdadensis. Ejus Opus, *Tyronum Institutio* nuncupatum, Juris Mahometani Institutiones complectens. *I. p. 472. c. 2.*
- BEN ISAC ABU MOHAMAD ALPHARI, vulgò *Ebn Alhamri*, ex oppido Alhamra in Sætabis ditio- ne, Poeta egregius, an. Eg. 525. fato functus. *II. p. 133. c. 1.*
- BEN MOHAMAD ABU VAHEB, Toletanus. Quæ ad ejus historiam spectant. *II. p. 47. c. 2. & seq.*
- BEN MOHAMAD BEN ALI ALCAISI, *Almonscheri* dictus, Malacitanus, & Historiæ Malacitanæ scriptor. *II. p. 133. c. 1.*
Obiit an. Eg. 598. *Ibid.*
- BEN TARILDINUS ALSEBKI. De Juris Institutionibus Tractatum concinnavit. *I. p. 397. c. 1.*
- ABDELUAHED ABU MALEK, Mauritaniæ Rex, Abu Joseph Ben Abdelhaci filius & Successor. *II. p. 233. c. 2.*
- BEN ABI ALSADAD, vulgò *Albaheli*, Malacitanus, Jurisconsultus, & Alcorani Interpres in Regio Malacæ Collegio. *II. p. 107. c. 1.*
Plura scripsit de Jurisprudencia, atque in ejusd. Alcorani explanationem; obiitque in Patria an. Eg. 705. *Ibid.*
- ABDELUAHEDUS ABU MOHAMAD, Doctoris Abu Haphs filius. Africa à Rege Alnâssero præfectus, provinciam ad Regis Edrisi tempora obtinet; cui filius Abu Phares succedit. *II. p. 225. c. 2.*
- ABU MOHAMAD, *Alrafchidæus* dictus, Hispaniæ & Marochi Rex *II. p. 224. c. 1. & 263. c. 1.*
Iahia, Alnâsseri filio, prælio victo cæloque, tranquillo fruitur regno. *Ib. p. 224. c. 1. & 2.*
In piscinam fortè delapsus periit an. Eg. 640. *Ib. p. 224. c. 1.*
Ejus Regni Successor. *Ibid.*
- AHMED BEN AHMED ALHASSANI, Grammaticus, sexto Eg. seculo clarus. Ejus *Verborum Inflexio*. *I. p. 9. c. 1.*
- BEN ABI HAPH: OMAR BEN ABDELUAHED, princeps familiæ Beni Haphs. *II. p. 225. c. 2.*
- EBN ABI IACOB BEN JOSEPH BEN ABDELMUMEN BEN ALI, Hispaniæ Rex Almohadita. *II. p. 222. c. 2.*
Eo Rege præpotens Senatûs auctoritas & magnam Regno perniciem, & ipsi necem anno Eg. 621. intulit. *II. p. 222. c. 2.*
Quis post eum ad solium evectus. *Ibid.*
- ABDERRAMEN ABENMEIA. Ita à Roderico Toletano appellatus Abdelrahmanus Hispan. Rex ex Omniaditis primus. *II. p. 198. c. 1.*
- ABENHAMIT. Sic apud eundem Rodericum dictus Ali Ben Hamud. *II. p. 206. c. 1.*
- ABESCHA, seu *Abesfa*, Valentiniæ oppidum. Ejus situs. *II. p. 123. c. 2.*
- ABIHARA urbs Perfidis. *I. p. 185. c. 1.*
- ABHARITA (Doctor) Ejus *Disceptationes Legales*. *I. p. 466. c. 1.*
- ABI ABBAS ALABLI ex urbe Niebla, Scriptor Hispanus. *II. p. 16. c. 2.*
- ABDALA BEN GEMAD, Septanus. Edidit Mundi Annales hoc titulo: *Epitome omnia complectens*. *II. p. 16. c. 2.*
- ABDALLA, Granatæ Prætor. *II. p. 256. c. 2.*
- ABDALLA, aliàs *Algalebus Billa*, Malacæ Rex. *II. p. 114. c. 1.*
- ABDALLA ALBAGÆUS, Hispanus, ex urbe Beja. Ejus Appendix ad Commentarium Iacobi Ben Said Almokelati in Poema *Lamiat*. *I. p. 5. c. 2.*
- ABDALLA ALKHUANGÆUS. Vide Ali Alkhuangi.
- ABDALLA BEN ALGISAS. De Gemmis scriptit. *I. p. 322. c. 2.*
- ABDALLA BEN ALKHATHIB ALSALEMUS. Vide Ebn Alkathib.

- ABDALLA BEN ALSABAG ALMACNASI, ex urbe Mecnasa in Mauritania. Ejus Poema de Metaphorarum usu, inscriptum *Metaphoræ Applicatio*, cum Commentariis Ahmad Ben Ali Ben Abdelrahman Almanghuri, Granatensis. *I. p. 61. c. 2.*
- ABDALLA BEN HAMIDÆUS, literarum humaniorum professor. *II. p. 77. c. 1.*
- ABDALLA BEN MOHAMAD, vulgò *Abu Giaifsch Ansaræus*, Cordubensis. *Difficultatum Explanatio*, quæ in ejus *Epitome Artis metricæ* occurrunt, Auctore Anonymo. *I. p. 121. c. 1.*
- ABDALLA BEN SCHEBRIN, in urbe Silves Rhetorices professor. *II. p. 132. c. 1.*
- ABDALLA MALEK BEN ANES ALASBAHITA, Antistes & Doctor Medinæ. Epistolam paræneticam ad Calipham Raschidum Harunum Abbasidam scripsit. *I. p. 162. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD, Hispanus, dictus *Arithmeticus*. Ejus Opus de Sciothericis, hoc titulo: *Scientia ex umbra desumpta*. *I. p. 352. c. 2. & seq.*
Sphæram aliter ac Ptolemæus descripsit. *Ibid.*
- ABDALLA MOHAMAD, Nasserita, Granatæ Rex. Anno Eg. 725. regnare cœpit, obiitque an. ejusd. Eg. 733. *I. p. 526. c. 1.*
- ABDALLA MOHAMAD, Abheri filius, Persa. Tractatum elucubravit de Sphæra, quem *Splendores Signorum* inscripsit; obiitque an. Eg. 673. *I. p. 397. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD ABILKHAIR, vulgò *Alfakhair*, Ægyptius. Theologico-Mysticum Tractatum evulgavit an. Eg. 860. titulo, *Selecta de Orationis præstantia*. *I. p. 227. c. 2.*
Alium item Tractatum condidit, hac inscriptione, *Orationis jaculatoriæ virtus*. *Ib. p. 228. c. 1.*
Obiit an. 864. *Ibid.*
- ABDALLA MOHAMAD ALABAREUS, Hispanus. Ad Bibliothecam Arabico-Hispanam Ebn Pasqual Supplementum adjecit. *II. p. 16. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD ALCARUINI. Ejus Commentar. in Rhetoricam *Clavis* appellatam. *II. p. 336. c. 1. & p. 340. c. 2.*
Ejusd. Grammatica, *Commeatus* dicta. *Ibid.*
- ABDALLA MOHAMAD ALSANUSI (Doctor) Compendii Dialectices Scriptor. *I. p. 78. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELMALEK ALKALBI, Hispanus. Ejus Tractatus de Hæreditate, inscriptus *Institutiones*. *II. p. 350. c. 1.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELMUMEN BEN SALAM ALKHAZAGUI. Ejus Historia Arabicar. Antiquitatum cum notis, hoc titulo, *Proverbiorum Liber*. *II. p. 169. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN ABI JACOB ALSENSUI, Commentator Libri, cui titulus *Præcipui fidei Articuli*. *I. p. 488. c. 1.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN ABI SCHAKER, Granatensis. Seculo Eg. septimo inclaruit, Opusque scripsit hoc titulo, *Tabularum Corona, & Thesaurus sufficiens*, quod Institutiones Astronomicas, Chronologicas, & Geographicas complectitur. *I. p. 368. c. 2. & seq.*
In eo Ptolemæum passim castigat ac emendat. *Ib. p. 369. c. 1.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD ABRAHIM, Malacitanus. *Solaminis Carmen*, cujus Auctor Abulabbas Ahmad Alnacausi, explanavit. *I. p. 129. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD ALHASSAINI, Septanus, Grammaticus, Antistes, ac Regius Granatæ Judex. *I. p. 43. c. 1.*
Confecit Scholia in Poema Khazragicum Dhialdini Alkhazragi. *Ibid.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD BEN ABI BAKERUS ALANSARÆUS ALCORTHABI, Cordubensis, quarto Eg. seculo clarus, *Hispaniarum Doctoris* cognomento illustris. Ejus Commentarior. in Alcoranum varii Tomi. *I. p. 489. c. 2. & seqq.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN AIUB, Cordubensis. Opus de Rhetorica edidit, cui titulum fecit *Demonstratio*. *I. p. 57. c. 1.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN ALI ALBATHUI, vulgò *Abi Macra*, Arabs Scenita. Poema condidit de Anni Solaris & Lunaris ratione. *I. p. 107. c. 2.*
- ADALLA MOHAMAD BEN ANBASA, Albuvgiani avunculus, ab eodem Arithmeticam & Geometriam edoctus. *I. p. 433. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN NASSER ALMANSOR, Granatæ Rex, ex Bennasseritis tertius, an. Eg. 701. inauguratus. *I. p. 321. c. 1.*
- ABDALLA MOHAMAD BEN OMAR, vulgò *Ben Badr*, Hispanensis. Opus adornavit, quod hoc titulo insignivit: *Algebra & Comparationum Epitome*. *I. p. 370. c. 1.*
Quis id illustraverit. *Ibid. & c. seq.*
- ABDALLA MOHAMAD EBN MARDANIS, vir opibus & armis potentissimus, Rex Murciae renuntiatus. *II. p. 55. c. 2.*
- ABDALLA MOHAMAD SCHAMSEDDINUS. Ejus *Collectio Collectionum*, i. e. Tractatus de rebus Grammaticis. *I. p. 25. c. 2.*
Eam Commentario illustravit Afsiuthæus. *Ibid. & c. seq.*
- ABDALLA SALAHEDDINUS KHALIL BEN ABIK, Saphadita. Ejus *Annulus gemmatus*, Opus scilicet Poeticum Academicum. *I. p. 125. c. 1.*
Id Operis maximi à Mahometanis fit. *Ibid.*
Alterum hujus Operis exemplum, Auctoris manu exaratum. *Ib. c. 2.*
Ipsius Opus aliud, *Lacrimæ queribundi & impatientis Amantis* inscriptum. *Ibid.*
Ejusd. & Tageddini Ebn Alderaihem *Certamina Poetica*. *Ib. p. 126. c. 1.*
Supplementum Dissertationum Ebn Zeidum elaboravit. *I. p. 144. c. 1.*
Item Expositionem in Epistolam ejusd. ad Cordubæ Regem Ebn Gehur. *Ib. p. 159. c. 1.*
Historiam quoque Literariam Cæcorum, inscriptam *Virorum luminibus orbatorum Monumenta*. *II. p. 333. c. 2.*

- Collectionem etiam Epigrammatum, *Horti odor & os subridenti* nuncupatam. *Ibi. p. 351. c. 1.*
- Obit an. 764. *I. p. 126. c. 1.*
- ABI ABDALLA SCHAMSEDDINUS MOHAMAD BEN HASSAN ALTAIMI ALSCHADELI. Duplex Carminum ejus inter Codices Escorialenses Collectio. *I. p. 90. c. 2.*
- ABDELRAHMAN MOHAMAD, vulgò *Ben Thaberus*, an. Eg. 539. literarum studio, & bellica virtute clarus. *II. p. 54. c. 2.*
- Murciæ parentibus & genere & dignitate conspicuis natus est. *Ibid.*
- Ejus prudentia, industria & eruditio. *Ibid.*
- Ab adolescentia Carmina condidit. *Ibid.*
- Hispanam Historiam ad suam usque ætatem perductam scripsit. *Ibid.*
- A Murcianis Rex salutatur anno Eg. 539. *Ibi. p. 55. c. 1. & 2.*
- Eo duce bellum in Almoraviditas renovant. *Ibi. c. 2.*
- Marochum petit, ibique an. 574. obit. *Ibid.*
- ABDELRAHMAN MOHAMAD ALSALMI, Nisaburiensis. Ejus de Mahometanor. Moribus Opus, titulo *Societatis Leges. II. p. 335. c. 2. & 340. c. 2.*
- ABRAHAMUS, Granatæ Prætor. *II. p. 256. c. 2.*
- AHMAD ALHASSENUS BEN ABDALLA BEN SAID ALASKARI, Ascarita. Ejus *Promptuarium*, seu Selectiorum Carminum, quæ præstantissimi quique concinnare Poetæ, additis propriis non paucis, Collectio. *I. p. 111. c. 2.*
- In ejus laudem Assiuthæi testimonium. *Ibid.*
- AHMEDUS BEN GIAPHAR BEN HAGIAPH ALMOAPHERÆUS, Valentiaë urbis Prætor. Ab Imperatore Alphonso ad flammam cum uxore & filiis damnatus, quo pacto veniam consecutus. *II. p. 43. c. 2.*
- ALABAS AH AD BEN MOHAMAD BEN OTHMAN AZADITA, vulgò *Ebn Albanna*, Granatensis Mathematicas disciplinas summa cum laude Marochi docuit, ibique Tabulas vulgavit Astronomicas. *I. p. 369. c. 2.*
- Institutiones etiam Arithmeticas titulo *Isagogica Numerorum Scientia*, edidit. *Ibid.*
- Hujus operis Commentator. *Ibid.*
- Scripsit quoque Scholia in *Scientiam Logisticam. Ib. p. 379. c. 1.*
- It. Tract. de Arithmetica, cui titulus *Compendium Scientiæ supputandi. Ib. p. 380. c. 2.*
- Hujus Tract. Commentator. *Ibid.*
- Vide etiam Abilabbas Ben Othman Ben Albanna.
- ALABBAS ALINASCAHTI, Septæ Rex. *I. p. 112. c. 1.*
- ALCASSEM MAHMUD BEN OMAR ALZAMKHASHRI, vulgò *Giarallah*. Ejus ortus & obitus. *I. p. 40. c. 2.*
- Ejusdem *Liber Distinctionum* de re Grammatica. *Ibid.*
- Operis distributio. *Ibid.*
- Ejusd. Libri exemplar alterum cum Notis Perficis & Arabicis. *Ibid.*
- Varior. in hunc librum Commentarii. *Ib. p. 15. c. 2. & seq.*
- Ipius Grammaticæ Institutiones, quas *Exemplar* appellavit. *Ib. p. 40. c. 2.*
- Quinam id opus commentati. *Ibid. & c. seq. & p. 38. c. 2.*
- Commentarium confecit in Carmen Alschanari de Sermonis Arabici elegantia. *Ib. p. 134. c. 2.*
- Onomastici quoque Arabici, cui *Nominum Diadema* inscriptio, Auctor fuit. *Ib. p. 171. c. 2.*
- Aliud etiam edidit Dictionarium ordine alphabetico digestum, inscriptumque *Eloquentiæ Fundamenta. Ib. p. 172. c. 1.*
- Ejus Commentarior. in Alcoranum secundus, tertiusque Tomus. *Ib. p. 489. c. 1.*
- Eorundem Scholiastæ. *Ib. c. 2. & p. 499. c. 1.*
- Sententiarum ejus Impugnator. *Ib. p. 529. c. 2.*
- Prædictos Commentarios Censurâ Dogmatica notavit Omarus Abu Ali Ben Mohamad &c. *Ib. p. 499. c. 1. & 2.*
- In ejus Opera Alcoranica Algiorgiani Scholia, & Altaphtazani Commentarius. *Ib. p. 509. c. 1.*
- Eorundem Censura per Cothbedinum; & adversus eam pro ipsis Apologia Mulæ Zadeh. *Ibid.*
- ALI ALCALI ISMAEL, Bagdadensis. Ejus Carminum Tomus secundus, titulo *Diuan. I. p. 106. c. 2.*
- Obit an. Eg. 356. *Ibid.*
- ALI ALHASSAN BEN AHMAD BEN ABDELGAPHAR, Persa Samaui, Grammaticus, anno Eg. 351. illustris. *I. p. 11. c. 2. & 31. c. 2.*
- Ejus Liber *Declarationum* binis tomis comprehensus. *Ib. p. 11. c. 2.*
- Tomi alterius aliud exemplar. *Ib. p. 12. c. 1.*
- Hujus Operis Commentatores. *Ibid.*
- Ejusd. Paraphrasis ac Supplementum de Grammaticis Institutionibus. *Ib. p. 31. c. 1.*
- Cui nuncupaverit Opus. *Ib. c. 2.*
- ALI ALHASSEM CASSEM BEN ABDALLA, Scholæ Malakiticæ Doctor Moradæus. Ejus Commentarii in *Alphiam* contracti Tomus primus, secundus & tertius, isque geminatus. *I. p. 18. c. 1. & 2.*
- Vide quoque Abi Ali Hassan Moradæus.
- ALI ALHASSENUS BEN ALHAITEM, Basrensis. In Prolegomena Elementor. Euclidis Commentarios elucubravit. *I. p. 340. c. 2.*
- ALI HASSAN MORADÆUS, Grammaticus. Ejus *Analesta*, seu Tractatus de Particulis. *I. p. 19. c. 2.*
- Vide item Abi Ali Alhassen Cassem Ben Abdalla.
- ALI ISMAIL BEN ALCASSEMUS, Bagdadensis. Opus Historico Poeticum scripsit, sex in partes divisum, cui titulum fecit *Supplementorum Summa, seu Apendix. II. p. 69. c. 2.*
- Poetarum insigniorum Vitas & Scripta in eo Opere persequitur, & claruisse perhibetur apud

- Granatam VI. Eg. Seculo. *Ibid.*
- ABI ALI OMARUS BEN MOHAMAD BEN ABDALLA Azadita. Ejus Commentatio in Grammaticam incerti Auctoris. *I. p. 10. c. 2.*
Ubi & quando obiisse dicatur. *Ibid.*
- ALOLA BEN KARNIB, Albugiani in Arithmetis & Geometricis disciplinis Magister. *I. p. 433. c. 2.*
- ALSABI, Cœnobita. Virilia sibi amputavit amore castitatis. *I. p. 226. c. 1.*
- AMER BEN GARCIA. Complures de variis argumentis literas scripsit. *I. p. 158. c. 1.*
- AMERUS, Damascenus, unus è septem insignibus Alcorani Lectoribus, anno Eg. 118. vitâ functus. *I. p. 504. c. 2.*
- BAHR, Cordubæ Jurisprudentiæ Professor. *II. p. 132. c. 1.*
- BAHR SEPHUAN BEN EDRIS, Murcianus. *Collectionem* edidit *Poetico-Hispanam*. *I. p. 93. c. 1.*
Aliam quoque, cui titulus *Viatoris Commeatus*, evulgavit. *Ibid. & p. 98. c. 2.*
Poetarum Hispanor. quorum carmina hæc Collectio complectitur, series. *Ib. p. 93. c. 2. & seqq.*
Obiit an. Eg. 598. *Ib. p. 98. c. 2.*
- BAKER, vulgò *Ben Mohamad Alhokak*, Monachus Suphita. Carmina amatoria edidit cum hæc inscriptione: *Collectio Carminum & Versuum pentastichorum*. *I. p. 110. c. 2.*
Claruit in Syria an. Eg. 752. *Ibid.*
- BAKER BEN ABDELMALEK ALMOCRI, Lector Templi & Collegii Cairensis. Ejus Opus de Arte Poetica quadripartitum, titulo: *Humaniorum Literarum Gemmae, & Poetarum Theaurus*. *I. p. 91. c. 2.*
Brevis ex cap. 2. hujus Operis de priscorum & recentiorum Poetarum classibus excerpta Differtatio. *Ibid. & c. seq.*
- BAKER BEN ABRAHIM, Granatæ Præfectus. *II. p. 256. c. 1.*
- BAKER BEN HAGGIA, Syrus Apameus. Opus Philologicum elaboravit, titulo *Foliorum Fruetus*. *I. p. 164. c. 1.*
- BAKER BEN MOHAMAD, Granatæ Præfectus. *II. p. 256. c. 1.*
- BAKER BEN NOCTHA, Bibliothecæ Concinnator. *II. p. 333. c. 2.*
- BAKER HESHAM ALMOTAD, Hispan. Rex, Ommiditarum postremus. Quoto anno Eg. natus, & Regnum auspiciatus. *II. p. 38. c. 2.*
Imperii anno tertio vix expleto, Regnum abdicare cogitur. *Ibid.*
- BAKER MOHAMAD BEN ALHASSAN BEN DORAID AZADITA, Basorensis. Poema *Regium Conclave* dictum scripsit. *I. p. 139. c. 1.*
Ejus Vita ex ipsius Scholiaste Abu Abdalla Mohamad Ben Ahmad &c. *Ibid.*
- BAKERUS BEN ABDELAZIZ, Rex Valentia. *II. p. 43. c. 1.*
- BAKERUS BEN ALSAIEGH EBN BAGEH, Philosophus, à Latinis *Avempace* appellatus. *II. p. 110. c. 2.*
- BAKERUS MOHAMAD BEN KHAIR BEN KHALIPHA, Hispanus. Ejus Descriptio Bibliothecarum, quæ per Hispaniam ad usum publicum numero septuaginta patebant, cui titulum præfixit: *Index literarius*. *II. p. 71. c. 1.*
Numerus Scriptorum, qui ex variis Hispaniæ urbibus prodire, ex eo Opere desumptus. *Ibid.*
- BAKRI MOHAMAD BEN ZOB AIR, pravus in Grammaticis novitatum amator. *I. p. 12. c. 2.*
- BASCHAR MATHEUS BEN JUNES, Syrus Gassanita. Varia Aphrodisæi Opera Arabicè transtulit. *I. p. 242. c. 2. & 243. c. 2.*
Themistii in quatuor priores Libros Aristotelis de Organo Commentaria Syriacè interpretatus est. *I. p. 244. c. 1.*
Arabicè convertit ejusd. de Cælo & Mundo Libri primi partem. *Ib. c. 2.*
In eundem Librum Commentarios Alexandri & Macidori Arabicos etiam fecit. *Ib. p. 245. c. 1.*
Versio hæc à quo emendata. *Ibid.*
Aliorum ejusd. Aristotelis Operum & Commentatorem & Interpretem egit. *Ib. p. 305. c. 1. & seqq.*
- FARGE. In Motanabbi Carmina Commentarium elucubravit, quo hujus Poetæ Opera ab injusta Abilphathi Othman Ben Hanni censurâ vindicat. *I. p. 74. c. 1.*
Commentarii titulus. *Ibid.*
- GEMAIEL ZIANI, Constantiensis, Poematis de Grammatica Arabica, *Argiuzat* nuncupati, Auctor. *I. p. 397. c. 1.*
- GIAPHAR BEN ABRAHIM BEN KHALED, Hispanus, sexto seculo Eg. clarus. Opusculum de Aromatum substitutione elaboravit. *I. p. 317. c. 2.*
- GIAPHAR BEN HAMDAN. Ejus Annotationes in Ali Ben Redhuani Commentarium, super Galeni Librum de Arte medendi ad Glauconem. *I. p. 249. c. 2.*
- GIAPHAR MOHAMAD BEN MUSA. Commentarios tres Galeni in Hippocratis Librum primum Epidemiorum, necnon sex in secundum Arabicè reddidit. *I. p. 251. c. 2. & seq.*
- GIAPHAREUS ALKOZNI, Hispanensis, Medicus clarissimus. *II. p. 88. c. 1.*
- GIAPHAREUS ALRACUTHI, Murcianus, Medicus itidem eximius. *II. p. 87. c. 1.*
- HAMED ALGAZELI. Ejus Opusculum de Dogmatibus Mahometanorum *Religionis Finis* dictum. *I. p. 487. c. 2.*
Vide etiam Abi Hamed Mohamad Algazeli.
- HAMED EZZEDDINUS EBN ABI ALHADID ALMADAINI, Assyrius ex urbe Madain. Ejus *Astri Cursus*, de Rhetorica & Poetica facultate. *I. p. 56. c. 1.*
Quando perfectum Opus. *Ib. c. 2.*
- HAMED MOHAMAD ALGAZELI, Persa, Thufensis, Antistes. Ethicum edidit Opus sub titulo *Scientiæ ad Religionem spectantes, in classes distributæ*. *I. p. 213. c. 2.*

- Operis divisio & ratio. *Ibid.*
Opus, ut potè à Mahometanis magni habitum, complures Commentariis elucidarunt, & in compendium contraxerunt. *Ibid.*
Auctoris obitus. *Ib. p. seq. c. 1.*
Item, *Vide* Abi Hamed Algazeli.
- HAMID DAUSI BEN SULA. Sub ejus auspiciis instaurata urbs Oran. *II. p. 2. c. 2.*
- HAPHS, Persa, Chorasanus, Euclidis Commentator. *I. p. 340. c. 1.*
- HATEM SAHL, præclari Poetæ Abi Baker Mohamad Ben Alhassan Ben Doraid Azaditæ Magister. *I. p. 139. c. 1.*
- HAZEMUS MODENUS. Ejus Quæsitæ ad rem Talismanicam pertinentia. *I. p. 377. c. 2.*
Claruit anno Eg. 134. *Ibid.*
- IAHIA, Fessæ Rex, ab Amero ejus nepote occisus. *II. p. 236. c. 1.*
- IAHIA ALBATHRICI. Quadripartitum Ptolemæi Arabicè vertit. *I. p. 362. c. 2.*
- IAHIA ZACHARIAS ANSAREUS, Ægyptius. *Solaminis Carmen*, cujus Auctor Abulabbas Ahmad Alnacaufi, commentatus est. *I. p. 129. c. 2.*
Cairi floruit octavo Eg. seculo. *Ibid.*
- IALI MOHAMAD EBN ALHABARAT, Bagdadensis, ex Regio Abbasidarum genere. Ejus Poemata duo, atque aliquot Fabulæ morales, sub hoc titulo: *Amicorum Oblectamentum & Otium*. *I. p. 138. c. 1.*
Operis descriptio. *Ibid.*
Ejusd. Comœdia faceta, titulo: *Homo vocem nimium extollens, nimiumque deprimens*. *Ib. p. 162. c. 1.*
- IOSEPH JACOB EBN ISAC ALSEKAITI, Grammaticus & Philologus. Ejus *Castigata loquendi ratio*. *I. p. 8. c. 1.*
Ejusd. laus ab eruditione, & Arabicæ linguæ peritia. *Ibid. c. 2.*
Necis ei ab Imperatore Metuakelo illatæ annus. *Ibid. c. 1.*
- ISA ABRAHIM BEN JOSEPH BEN TESCHPHIN, ex Dynastia Almoravidarum, Hispan. & Marochi Rex. *I. p. 102. c. 2.*
- ISA MOHAMAD BEN SURA, vulgò *Altarmazi*. Ejus *Liber morum Mahometi*. *II. p. 335. c. 2. & 340. c. 2.*
- ISAAC BEN IAHIA ALZARCALLI, Cordubensis. Ejus Tabulæ Astronomicæ. *I. p. 392. c. 2. & seq.*
Ab eo & inventum & denominatum Mathematicum instrumentum, *Zarcallicum* dictum. *Ib. p. 393. c. 1.*
Ejus Vita ex Arabica Philosophor. Bibliotheca. *Ib. & c. seq.*
Problemata varia ex eo, aliisque Auctoribus, tum Astronomis, tum Chronologis excerpta. *Ib. p. 394. c. 1. & seqq.*
- ISAACUS ABRAHIM EBN MUSA ALANBASI Hierosolymitanus, Grammaticus. Ejus *Lucida Margarita*, i. e. Commentarius in *Millenarium* Ben Maleki, an. Eg. 765. absolutus. *I. p. 18. c. 1.*
- KAMELUS SCHAGIA BEN ASLAM, Ægyptius, *Calculator* vocitatus. Libros de Algebra evulgavit, quos commentatus est Ali Ben Ahmad Alomrani. *I. p. 411. c. 1.*
- MACRA. *Vide* Abi Abdalla Mohamad Ben Ali Albathui.
- MAHER MUSA BEN SENAN, in Medica facultate Ali Ben Alabbas Præceptor. *I. p. 260. c. 1.*
- MASCHAR. *Vide* Albumafar.
- MICHAEL, Rex Persiæ ex prima Selgiucidarum Dynastia. Insignem Poetam Abi Baker Mohamad Ben Alhassan Ben Doraid Azaditam decem aureorum millibus ob poema in ipsius laudem conditum donavit. *I. p. 139. c. 1.*
E Regio Solio ante an. Eg. 308. deturbatus est. *Ibid.*
- MOHAMAD ABDALLA BEN ABBAS BEN MOHAMAD ALKHAZRAGI, vulgò *Cordubensis*. Edidit Commentarium in *Facilem Methodum* Ben Maleki. *I. p. 17. c. 1. & seq.*
- MOHAMAD ABDELBAKI, Judex. Commentarium scripsit in Librum X. Elementor. Euclidis. *I. p. 340. c. 2.*
- ABI seu ABU MOHAMAD ABDELMAGID BEN ABDUM, Hispanus, Poeta celeberrimus, in oppido Eburna an. Eg. 529. fato functus. *II. p. 65. c. 1.*
Ejus elegantissimum Poema de rebus adversis & sine infelicissimo urbis Badajoz Regum Beni Muslama, vulgò *Beni Alaphtas*, cum Commentariis Abu Meruan Abdelmalek Ben Abdalla Ben Badrun. *Ibid.*
Aliud ejusd. Poematis exemplar. *Ib. p. 176. c. 2. & seq.*
- MOHAMAD BEN ISMAIL ALHOSAINI, Monachus Suphita. Tractatum morale concinnavit hoc titulo: *Societas & Solamen derelictorum*. *I. p. 224. c. 1.*
- MOHAMAD BEN MAZDALI, Granatæ Præfectus. *II. p. 256. c. 1.*
- MOHAMAD GIABER BEN AFLAH, Hispanensis, quinto Egir. seculo clarus. Edidit Opus Elementa Astronomica complectens. *I. p. 345. c. 1.*
Tractatum item, *Liber de Sphæris* nuncupatum. *Ib. p. 367. c. 1.*
- MOHAMEDUS DUX. *II. p. 52. c. 2.*
- NASSER BEN ALUAZIR ABILCASSEM HEBAT ALLA, cognomento *Ben Macula*, Auctor Dictionarii Historici, cui titulus: *Expulsio Dubiorum ex Nominibus ambiguis*. *II. p. 28. c. 2.*
Hujus Dictionarii distributio & ratio. *Ibid.*
Quando inceptum & absolutum. *Ibid.*
Auctoris mors. *Ibid.*
Ejusd. Dictionarii Partis III. & IV. bina in Escorialensi Biblioth. exemplaria. *Ib. & c. seq.*
- NASSER BEN MAKULA, Bibliothecæ Concinnator. *II. p. 333. c. 1. & 2.*
- NASSER MOHAMAD BEN MOHAMAD ALPHARABI. Musices Elementa evulgavit. *I. p. 347. c. 1.*
- NASSERUS ALPHARABIUS. Quisnam ejus Logicam commentatus. *I. p. 178. c. 1.*
- OMAR BEN MOHAMAD, Hispanus. Grammaticæ Institutiones scripsit. *I. 117. c. 2.*

- ABI OMARUS BEN ALHAGEBUS, Alexandrinus. Ejus Libellus de Arte metrica. *I. p. 397. c. 1.*
- OMARUS BEN ALHAGEBUS GEMALELDINUS. Ejus in Alcoranum Commentarius, *Elucubrationes*, seu *Diſtata*, inſcriptus. *I. p. 496. c. 2.*
- OMARUS JOSEPH BEN HARUM ALRAMADI, Poetarum Hiſpanorum Hiſtoriae auctor. *II. p. 38. c. 2.*
- OMRAN BEN ALHAGEBI. In ejus Opera Metaphyſica Commentarius Ahmedi Ben Alabbas Ebn Mondel. *I. p. 117. c. 2.*
- OTHAMAN SAID BEN MOHAMAD ALOCBANI, Granatenſis. Commentatus eſt Abi Zaid Abdelrahmani Opus de Algebra, cui titulus *Operationum Arithmeticarum Analyſis*. *I. p. 370. c. 1.*
- OTHMAN, Damascenus. Alexandri Aphrodiſſi Tractatus Philoſophicos tres Arabicè interpretatus eſt. *I. p. 242. c. 2.*
Ejuſd. in Ariſtotelis Librum IV. de Phyſica auſcultatione Commentaria in eand. linguam tranſtulit. *Ib. p. 244. c. 1.*
- PHATH ALMOZI, Cordubeniſis, anno Eg. 567. clarus. Ejus Opus inſcriptum *Bonorum morum Exercitatio*, & *Amicorum Oblectamentum*. *I. p. 114. c. 2.*
- TALEBUS ABDALLA BEN ABIELABBASUS, Septæ Princeps. A Mahometo III. Granatæ Rege regno pellitur an. 705. *II. p. 275. c. 1.*
Ejus opes ipſe Mahometus an. ſequenti ſibi uſurpat. *Ibid.*
- ABI ſeu ABU TAMAM HABIB BEN AUAS ALTHAI, Syrus, Poeta præſtantiffimus. Ejus Opera Poetica, quibus titulus: *Carmina heroica ad recentiorum Poetarum methodum accommodata*, qui commentati. *I. p. 69. c. 1. & 76. c. 1.*
Veterum Poetarum Carmina collecta concinnavit & auxit. *Ib. p. 69. c. 1.*
A quodam Principe in carminis ipſi oblato premium ingenti ſummâ donatur, verbis ampliffimis adornatâ. *Ibid.*
In Elegiam ab eo compositam acutum cujusdam cum laude dictum. *Ib. c. 2.*
Extant illius varia Carmina in Regum, aliorumque virorum principum laudem, quorum duplex in hac Biblioth. exemplum. *Ibid.*
Motaflemi & Vateki Imperatorum res geſtas, Amuræ item, ſeu Gomorræ, expugnationem carmine deſcripſit. *I. p. 121. c. 2.*
An. Eg. 190. natus, ejuſd. 231. Muſeli deceſſit. *Ibid.*
- THABETUS, eximiæ virtutis juvenis. A fratre Othmano Ben Abdelrahmano Zaianitarum Rege comes in Tremiffeneniſi expeditione deligitur. *II. p. 230. c. 2.*
- THAHER TAMIN, Granatæ Præfectus. *II. p. 256. c. 1.*
- ZACHARIA JAHIA BEN GANIAT, exercitus Imperator. *II. p. 52. c. 2. & ſeq.*
- ZACHARIA MOHAMAD, Hiſpaleniſis. Ejus Commentariorum in Ebn Albannæ Arithmeticarum libros volumen ſecundum. *I. p. 369. c. 1. & ſeq.*
- ZACHARIAS AINUI. Ejus Opus de Legibus à mulieribus ſervandis in Meccano itinere. *I. p. 484. c. 2.*
- ZACHARIAS IAHIA ANSARÆUS, Ægyptius. An. Eg. 881. commentatus eſt Poema Abulphadel Joſeph Ben Mohamad Ben Joſeph, de Dei Opt. Max. nominis virtute, *Mæroris Determinorium* inſcriptum. *I. p. 152. c. 1.*
- ZAIID ABDELRAHMANUS ALI BEN OMAR ALDALLALI, Cordubeniſis, incertæ ætatis Scriptor. Ejus Opus de Algebra, titulo *Operationum Arithmeticarum Analyſis*, cum perdoctis Abi Othaman Said Ben Mohamad Alocbani Commentariis. *I. p. 370. c. 1.*
- ZAIIDUN ALSCHOILI, Grammaticæ in urbe Malaca Profeſſor. *II. p. 100. c. 1.*
- ZARCA AHMAD EBN ZAINEDDINUS, Araceniſis. Ejus Commentarius in Canonum Collectionem Doctoris Alſobki, an. Eg. 824. editus. *I. p. 479. c. 1.*
- ABIELHASSAN BEN ALHAGI, Granatæ Præfectus. *II. p. 256. c. 1.*
- ABILABAS ALPHADHELI BEN HATEM. Opusculum confecit, cujus titulus *Deſcriptio Planetiſphærii*. *I. p. 392. c. 2.*
- ABILABBAS, Murcianus. Variarum ejus precum excerptio. *I. p. 503. c. 2.*
- ABDALLA BEN ALMOTAZ, ex Regia Abbaſidarum ſtirpe, cujus fuerit filius. *I. p. 66. c. 2.*
Bibliothecam concinnavit celebriorum Poetarum, titulo *Epitome Claiſſis Poeticæ*. *Ibid.*
- AHMAD ALMANSOR BILLAH, Rex Marochi. Bibliothecam apud ſe habuit. *I. p. 67. c. 1.*
- AHMAD BEN IEHIA, Cordubeniſis. Commentarium edidit in Poema Maimum Ben Cais Ben Giendal, cognomento Alagschi. *I. p. 73. c. 1.*
- AHMAD BEN IEHIA THAALABUS. Ejus Commentarius in Poema Zohairi Ben Abi Salmi Almazini de rebus præclarè geſtis Ducum Haretii Ben Auph, & Harmi Ben Senan. *I. p. 63. c. 2.*
- AHMAD BEN JOSEPH BEN ALKOMAD. Opus Astrologicum evulgavit *Arcanorum Clavis* inſcriptum. *I. p. 371. c. 2.*
Duo alia ejus Opera laudantur in Arabica Philoſophorum Biblioth. *Ib. p. 372. c. 1.*
- AHMAD BEN ZAKRI, Tremiffeneniſis. Ejus Synopſis Theologica. *I. p. 397. c. 1.*
- AHMED EBN ABI HAGELA, Africanus. Hiſtoriam Egypti publicavit an. Eg. 757. quam inſcripſit *Vas ſacchariferum*. *II. p. 27. c. 2.*
- ALMOCRI, Hiſpaleniſis. Ejus Commentariorum in Alcoranum, quorum titulus *Utilitates*, Tomus II. *I. p. 487. c. 2.*
Decceſſit an. Eg. 500. *Ibid.*
- BEN OTHMAN BEN ALBANNA, Granatenſis. Ejus de Judiciis ex Eclypſibus excerpta. *I. p. 352. c. 2.*
Vide item Abi Alabas Ahmad Ben Mohamad Ben Othman Azadita, vulgo Ebn Albanna.
- MOHAMAD BEN LAZID ALMOBARRAD, Grammatici-

- ticus. In ejus *Loca obscura ac difficiliora explanata* (de re Grammatica) Commentarius Said Ben Said Alpharki. *I. p. 27. c. 2.*
Ejus mors. *Ibid.*
- ABILBAHLULÆUS. De Gemmis scripsit. *I. p. 322. c. 2.*
- ABILCASSEM ALI BEN GIAPHAR, vulgò *Ebn Cataa*, Hispalensis. Artem Metricam edidit, titulo *Poeticæ Eloquentia in compendium contracta. I. p. 82. c. 1.*
Obiit an. Eg. 514. *Ibid.*
- ALI EBN ALCOTAI, Philologus, Hispalensis. Opusculum concinnavit de Arte Poetica, inscriptum *Tractatus universæ Poeticæ in compendium contractæ. I. p. 81. c. 1.*
- ALZAGIAGI. Vide Abulcassemus Abdelrahmanus Alzagiagi.
- MOHAMAD BEN AHMAD ALHASNI, Granatensis, præcipuus Poematis Alkhazragi de Arte Metrica illustrator. *I. p. 82. c. 2.*
- MOHAMAD BEN HANI, Hispanus. Ejus Carminum Collectio, in quibus Regis Africae & Ægypti Moez Ledinallah Phathemitæ res gestas celebrat. *I. p. 130. c. 1.*
- OMAR BEN ALI, Muselensis. Edidit Opus, cui titulus *Liber selectus*, de oculorum morbis. *I. p. 317. c. 1.*
- ABILCASSEMUS BEN ABI ALHASSAN ALKHOTMAI ALSAMILI, Hispalensis. Quæstiones conscripsit ad rem Grammaticam spectantes *I. p. 43. c. 2.*
Commendatur ab Arabicæ linguæ peritia. *Ib. p. 44. c. 1.*
Obiit an. Eg. 581. *Ibid.*
- BEN HABAISCH, Hispaniæ Chronicorum Scriptor. *II. p. 42. c. 2.*
- ABILGORANIC, cognomen Africae Regis Mohamad Ben Ahmad Ben Mohamad. *II. p. 192. c. 2. & seq.*
Cur ita appellatus. *Ibid.*
- ABILHABBASUS AHMEDUS BEN OMAR, Murcianus, vir pietate clarus. *II. p. 339. c. 2.*
Ejus Vitæ Scriptor. *Ibid.*
- ABILHAGIAGES JOSEPH BEN MOHAMAD BEN THAMLUS, Hispanus. Ejus Tractatus Philosophicus, *Liber Isagoges* dictus. *I. p. 193. c. 1. & 2.*
- ABILHAGIGÆUS ISMAEL BEN NASSERUS, Rex Granatæ. *II. p. 29. c. 2.*
- ABILHAKEMUS BEN HASNUM, Rex Malacæ. *II. p. 56. c. 1.*
- ABILHASANUS ALI ALHASNI ALSCHADHLI, Tunetanus, vir apud suos pietate clarus. Ejus Vita ab Abu Abdalla Mohamad Ben Ahmad conscripta. *I. p. 140. c. 2.*
- ABILHASENUS ABDELAZIZ BEN ABI AMER, Valentiaæ Rex. *II. p. 40. c. 1.*
- BEN BESAM, Tadmiri Annalium, *Margarita* inscriptorum, Auctor. *II. p. 42. c. 2.*
- ABILHASSAN ABADALLA ABI ALRABI ALCARACHI, Hispanus. Grammaticus. *Excerptorum ejus pars secunda. I. p. 42. c. 1.*
- ALI, vulgò *Alschaftari Alnomairi*. Ejus Opera Poetica, titulo *Diuan. I. p. 66. c. 1.*
- ALI ALSCHADLI, Sectæ Malakiticæ Doctor. Edidit Commentarium in *Agrumiam*, quem *Astra lucida* nuncupavit. *I. p. 23. c. 1.*
Is ortum Hispaniæ, ei doctrinam debuit. Africa; ubi sub finem octavi Eg. seculi obiit. *Ibid.*
Barbaros vocat Africanos. *Ibid.*
- ALI BEN BERI, Syrus. Artem Rhythmicam, cui titulus *Sufficiens*, condidit. *I. p. 81. c. 2.*
- ALI BEN MUSA ANSARÆUS, Hispanus, vulgò *Ebn Arfa Ras*. Poema conscripsit de Mundi Opificio. *I. p. 155. c. 2.*
- ALKARSITA, vulgò *Ebn Alnaphis*. Vide Ali Ben Abihazam Alcarschi, vulgò Ben Naphis.
- MOHAMAD EBN THABATHABA ALALUI, seu ALIDITA. Evulgavit Opus de Arte Metrica hoc titulo *Carminum mensura. I. p. 81. c. 1.*
- ABILHASSANUS BEN ABI ALRAGELUS, Hispalensis. Ejus de Astrologia Genethliaca Tractatus, *Liber ceteris arte præstans* dictus. *I. p. 363. c. 1.*
Qui, & quibus de causis eum proscripserint. *Ibid.*
- SOLAIMAN BEN MOHAMAD BEN ABDALLA ALSOBAI, Malacitanus. *Errorum qui in Grammatica Paraphrasi dicta occurrunt, Recensionem* fecit. *II. p. 347. c. 2.*
- ABILHASSEN EBN ALNABIAH, Ægyptius. Poemata confecit varia in laudem Ægypti Regum Nasserî Ledinalla, & Saifeldini Abu Baker Ben Aiub. *I. p. 90. c. 1.*
- ABILHASSENUS ALI, Bæticæ Proconsul. Ejus ac fratris Abraham Ben Edris in prælio obitus. *II. p. 59. c. 2.*
- ALI, vulgò *Alschadelus*, vir pietate ac doctrina apud suos insignis. Ejus obitus, & Vitæ Scriptores. *II. p. 339. c. 2.*
- BEN JOBER, Hispanus. *Itinerarii Meccani ac Ægyptiaci* auctor. *I. p. 141. c. 1.*
- EBN ALSAIEG, Hispalensis, Literarum humaniorum Professor. *II. p. 87. c. 1.*
- MUSA, vulgò *Candela* dictus, in urbe Silves Rhetorices Professor. *II. p. 132. c. 1.*
- ABILHOKM MALEC BEN ABI ZAID ABDELRAHMAN BEN ALMORGEL, Malacitanus. Poema condidit de Mahometi vita, bellis rebusque gestis, *Vicenarium* appellatum. *I. p. 108. c. 1.*
Tituli ratio, ac Poematis artificium. *Ib. p. 107. c. 2.*
Aliud etiam scripsit de eod. argumento, *Desades* nuncupatum. *Ib. p. 108. c. 1.*
- ABILHOSSAIN IAHA BEN NEGIN, Operis Ethici, *Via felicitatum* dicti, Scriptor. *I. p. 231. c. 2.*
- ABILMOALI SAAD BEN ALI ALKHOTAIRI ALVARAC. Ejus Opus Poeticum Academicum autographum, titulo *Specimen lepidè ac falsè dicendi. I. p. 135. c. 1.*
Cordubæ claruit an. Eg. 560. ibique decessit an. 568. *Ibid.*
- ABILOLA ALMOPHASEL BEN ABRAHEM, Apameus. Tractatum confecit an. Eg. 603. de præcipuis utriusque juris Mahometani fundamentis; quem

- inſcripſit *Quæſitorum Propoſitum*. I. p. 463. c. 1.
- ABILOLA ALPHARDI, Bibliothecæ concinnator II. p. 333. c. 2.
- ABILPHADHL ABDELRAHMAN, vir apud ſuos pietate & doctrinâ conſpicuus. Ubi & quando natus. II. p. 168. c. 2.
- A quo ejus vitæ hiſtoria conſcripta. *Ibid.*
- ABILPHADL AHMAD BEN ALI, BEN HAGIAR ALASCALANI, Syrus Aſcalonita. Ejus in Codicem Traditionum Commentarius hoc titulo: *Collectio & brevis Commentatio genuinarum Traditionum*. II. p. 350. c. 2.
- ABILPHARAGIUS EBN GIAPHAR, vulgò *Codamah*, Philologus Bagdadensis. Ejus *Solutæ orationis Delectus*. I. p. 56. c. 2.
- In eo frequentem vocam ſimiliter deſinentium reprehendit uſum. *Ibid.*
- ABILPHATH BEN ABI HASINAH, Aſſalami, ſive Bagdadensis. Ejus Collectionis Carminum in Calipharum Omiaditarum laudem, *Diuan* vocitæ, quam an. 445. abſolviſſe traditur, tomus primus. I. p. 65. c. 2.
- ISA BEN ALI BEN MOHAMAD, Hiſpahanenſis. Arabicè interpretatus eſt Hiſtoriam Regum Perſarum, inſcriptam *Schah Nameh*, quam Perſico carmine perſecutus eſt Manſor Ben Alhafenus Alphardaufæus. II. p. 67. c. 2. & ſeq.
- MASSUD, Rex Selgiucida. I. p. 79. c. 1.
- NASSEREDINUS, Perſa Khuarezmita, vulgò *Almatharzi*. Ejus Commentarius in *Sermones Academicos Hariræos*. I. p. 147. c. 2.
- Quo anno abſolutus. *Ibid.*
- Alterum ejusd. Comment. exemplar emendatius, cum varior. notis *Ib. p. 148. c. 1.*
- Commentatoris elogium in eodem Sermones. *Ibid.*
- OTHMANUS BEN HANNI, ſeu GENNI. Ejus Commentarii, ſeu potiùs injuſtæ conſutationis Operum Poeticor. Motanabbi Tomus poſterior. I. p. 74. c. 2.
- Quis Motanabbum ab ejus cenſura vindicaverit. *Ib. c. 1.*
- ABILPHATH THABET BEN MOHAMAD ALGIORGIANI. Ejus Commentarius in Opera inſignis Poetæ Abi Tamam Habib &c., ſic inſcripta: *Carmina heroica ad recentior. Poetar. methodum accommodata*. I. p. 69. c. 1.
- ABILRIHAN ALBIRUNI, Perſa, ex urbe Biruna. Ejus Opus de lapidum pretioſorum hiſtoria, titulo *Gemmarum Notio*. I. p. 321. c. 2. & ſeq.
- Ejus doctrina & ſcripta laudantur. *Ibid.*
- Quarto Eg. ſeculo inclaruit. *Ibid.*
- Prædicti Operis deſcriptio. *Ib. p. 322. c. 2.*
- Ptolemæi Almageſtum in epitomen redegit. I. p. 348. c. 2.
- Canones Geographiæ ſcripſit. *Ibid.*
- ABILSABAH. Vide Mohamad Ben Ali Ben Abdelaziz Ben Khair.
- ABILSCHARAPH Caſtrum. II. p. 207. c. 2.
- ABILUALID, Cordubæ Jurisprudentiæ Profeſſor. II. p. 132. c. 1.
- BEN MAICAL, Hiſpaniæ Chronicorum Scriptor. II. p. 42. c. 2.
- ABILUALIDUS BEN GEHUR, Rex Cordubæ, interficitur. II. p. 45. c. 2.
- ABILUAPHA ALBUGIANI. An. 348. claruit; Euclidemque commentatus eſt, ac Diophantem illuſtravit. I. p. 340. c. 1.
- ABIURD, urbs in Korafana, Perſiæ Regione. I. p. 110. c. 1. & p. 123. c. 1. & alibi.
- ABIURDI. Ejus Opus Poeticum, *Diuan*, ſeu *Liber probatæ nobilitatis* inſcriptum. I. p. 110. c. 1. & 123. c. 1.
- Extat hoc Opus & in Reg. Paris. Biblioth. *Ib. p. 123. c. 1.*
- Auctoris nomen integrum, vita & obitus ex Biblioth. Orientali Ebn Khalcan. *Ibid.*
- ABRAHAM. Fertur apud Arabas cum filio Iſmael, *Adami* domum diluvio ſubverſam Dei juſſu lapide & luto extruxiſſe. II. p. 10. c. 2.
- BEN ABDELUAHED BEN ABILNUR, Hiſpanus. *Regum ac militiæ Ducum Regimen* ſcripſit. I. p. 214. c. 2. & ſeq.
- Operis deſcriptio. *Ibid.*
- Eſcurialenſe exemplar ad uſum Bibliothecæ Regis Granatæ Metuakeli Ala Alla exaratum eſt. *Ibid.*
- BEN HALAL BEN ABRAHIM BEN ZAHRUN, *Abu Iſaac* dictus, Mathematicæ valdè peritus. Ejus Vita & Scripta. I. p. 405. c. 2.
- BEN HELAL. *Analekta* Ali Ben Mohamad Ben Abdelhac Alzeruli in unum collecta atque ordinata vulgavit. I. p. 470. c. 2.
- BEN KHIRAT ABU ISAC, vulgò *Ebn Alſabagi*, nobilis Poëta Hiſpalenſis, ſeculo Egir. quarto clarus. Ejus Epigramma de Nube procelloſa, latinitate donatum. II. p. 135. c. 2.
- BEN OMAR BEN ABRAHAM ALGIABARI. Ejus Commentarii in Opus de linguæ Arabicæ præceptis, *Clariffimorum Virorum Obſervationes* inſcripti, pars ſecunda. II. p. 348. c. 1.
- Obiit an. Eg. 732. *Ibid.*
- ABRAHAMUS. Alphadhelo fratre ab Arabibus occiſo, Tuneti Rex ab eiſdem ſalutatur, adhibito Adminiſtro Mohameto Ben Tapherkin. II. p. 228. c. 2.
- Abdelmaleki Ben Omar Ben Meruan Ben Alhakem ſupremi militiæ Ducis filius, Alicanti ab Abdelrahmano Hiſp. Rege præfectus. II. p. 31. c. 2.
- Regis Mauritanæ Abulhaſani filius. A Rege Abu Anano in Hiſpaniam miſſus, à Chriſtiano Hiſpaliſ Rege humaniter excipitur; ejusque navicum ſuis veſtus, ad Gomeræ appellit littora. II. p. 243. c. 2.
- Alaglabi filius, Salemi nepos, Africae Regum Aglabitarum Princeps multis nominibus commendabilis. II. p. 191. c. 2.
- Quo pacto ſibi Regnum vindicaverit. *Ibid.* p. 192. c. 1.
- Filius Alualidi, Orientis Imperator. Quarto poſtquam regnare cœperat menſe à Maruano Ben

- Ben Mohamad Ben Alhakem occisus, cruci affigitur. *II. p. 184. c. 1. & 2.*
- Filius Josephi Ben Tachsphini, Murciae Princeps. Ejus laudes recensentur. *II. p. 163. c. 2.*
- ABDALLA. Octo libros Topicorum Aristotelis Arabicè convertit. *I. p. 305. c. 2.*
- ABU ABDALLA, Africae Rex Aglabita, homo improbissimus. Peste interiit. *II. p. 192. c. 1.*
- ABU ISACUS BEN ABI ZACHARIAS, Africae Rex, Iahia Aluateki à se interfecti Successor. *II. p. 226. c. 2.*
- Eunuchus quidam Regnum ejus turbat. *Ibid. c. 2.*
- ABU SALEM, Abulhassani Ali Ben Othman Ben Iacob Regis filius, Fessae Regnum affectat, urbemque anno Eg. 760. occupat. *II. p. 311. c. 1. & 2.*
- Ibi Rex salutatus, non multo post tempore à populo tumultuante interimitur. *Ibid. c. 2.*
- BEN ALHAGIAGÆUS BEN OMAR BEN HABIB AL-LAKHAMITA, Emessinorum militum Dux. Graesantibus in Hispania factionibus, Karibam Ben Othman Ben Khalidum interficit; atque Hispali & Carmone captis, Regis sibi nomen arrogat an. Eg. 298. *II. p. 35. c. 2.*
- BEN ALI BEN PHARHUM ALIAMARÆUS, Hispanus. An. Eg. 761. Meccae edidit Bibliothecam universalem sub titulo *Doctorem Arabum Classes. II. p. 70. c. 1.*
- Bibliothecarum, è quibus suam contexuit, Catalogus. *Ibid. c. 2.*
- Aliud quoque Opus elucubravit inscriptum *Expedita & necessaria Legum explicatio. I. p. 477. c. 2.*
- BEN IAHIA BEN GANEM ALNOMERI, Harranita. Metricè conscripsit Opus *Somniorum Margarita* nuncupatum, atque è variis Auctoribus excerptum. *I. p. 401. c. 1.*
- Horum nomina. *Ibid.*
- BEN MAHMUD EBN HASSAN ALACSAREI. Varia ejus Opera Ascetica. *I. p. 538. c. 2. & seq.*
- Ubi & quo tempore claruerit. *Ibi. p. 539. c. 1.*
- BEN MOHAMAD BEN ALI EBN ABDALLA EBN ALABBAS, Pontifex, Abbasidarum parens, à Maruano Ben Mohamad Ben Alhakem occiditur. *II. p. 184. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN ALMANSOR, Almahadi filius. Caliphatus insignia sibi arrogat, & per annum in urbe Bagdado gestat. *II. p. 186. c. 2.*
- In Almamuni Imperatoris, à quo victus fuerat, potestatem venit. *Ibid.*
- Ab eodem veniam & libertatem obtinet. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN ARABSCAH ALSAPHRAINI. Ejus Commentarii in Opus Rhetoricum Alphatazani, *Fustor* dicti, tomus prior. *I. p. 55. c. 2.*
- Ejusdem Tractatus de Philosophicis disciplinis. *Ibid. p. 207. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN KHALIL SEBTH, vulgè *Ben Bent Alagemi*, Alepinus. Ejus Commentarius in Alcadi Librum de fidei articulis ad Mahometi vitam pertinentibus, *Liber exemplorum* inscriptus, editusque an. Eg. 792. *I. p. 514. c. 1.*
- BEN MOHAMAD BEN MAZIN ALAZADITA, Toleti Prætor, & Dux in arte militari versatissimus. *II. p. 32. c. 1.*
- BEN OMAR ALGIABARI, septimo Eg. seculo clarus. Ejus Poema de variâ Alcorani lectione, *Honesti animi Oblectamentum* præ se ferens titulum. *I. p. 505. c. 1.*
- Ejusdem Opus de legendi Alcorani Pausis *Legendi Methodus* nuncupatum. *I. p. 510. c. 1.*
- EBN ALI, Sectæ Schapheiticæ Doctor, *Almamari* vulgè appellatus, Ægyptius. Ejus tomus quintus Commentariorum in Codicem Traditionum, cui titulus *Addimenta. I. p. 515. c. 1.*
- EBN ALSALAT. Aristotelis librum I. de Physica auscultatione explanavit. *I. p. 244. c. 2.*
- Duo Galeni Opera Arabicè vertit. *I. p. 254. c. 2. & seq.*
- Librum Ptolemæi ad Syrum auditorem suum Arabicè etiam transtulit: quam translationem Honainus Isaaci filius emendavit. *I. p. 349. c. 1. & 2.*
- Priorem Quadripartiti ipsius Ptolemæi librum, aliaque ejusdem Opera illustravit. *I. p. 349. c. 2.*
- ECHELLENSIS. Abulphedæ Historiam alii Auctori falsè tribuit. *I. p. 15. c. 1.*
- Saracenos cum Circassis malè confundit. *II. p. 18. c. 2.*
- Latinè reddidit Archimedis librum *Assumptorum*, sive *Lemmatum. I. p. 384. c. 1.*
- It. libros V. VI. & VIII. *Conicorum* Apollonii. *Ibid. p. 386. c. 1.*
- ABRAHIM ABU OBAID ALMAMAR, Bagdadensis, Philologus. Carmina varia & Epigrammata partim faceta, partim impudica edidit. *I. p. 134. c. 2.*
- Obiit an. Eg. 209. *Ibid.*
- BEN EDRIS BEN ABI ISAC BEN GIAME, Valentinus. Poëta fuit disertissimus, Septæque anno Egiræ 621. præfuit. *II. p. 59. c. 2.*
- Cum fratre Abilhasseno Ali ad Tartessum seu Tarifa prælio superatus, an. 626. occubuit. *Ibid.*
- BEN HELAL, Historicus. *I. p. 12. c. 1.*
- BEN JOSEPH ALBULGARI, ex Bulgaria. Ejus Commentarius in Mohamad Alfamarcandi Opus Philosophicum, titulo *Disputandi Methodus. I. p. 199. c. 2.*
- BEN MOHAMAD BEN ARABSCAH ALASPHRAINI, Grammaticus. Ejus in *Caphiam* Commentarius cum Scholiis Algiami. *I. p. 36. c. 2.*
- Florebat in urbe Samarcanda nono Egiræ seculo. *Ibid.*
- BEN MOHAMAD BEN SANANID ABU ISAC ALANSARÆUS, ex urbe Segurâ, vir nobilis, præcipuusque Poëta. *II. p. 60. c. 1.*
- Urbis Badajoz Præfectus, necnon Regni Jaenensis Prætor fuit. *Ibid.*
- Anno Eg. 616. claruit. *Ibid.*
- BEN OMIAT BEN ASSAM, Jurisconsultus & Poëta. *I. p. 105. c. 1.*
- BEN SAHL, Valentinus, Odarum egregius Scriptor. *I. p. 128. c. 2.*

- ABSAL ELEPHANTINUS, Grammaticus. *I. p. 1. c. 2.*
- ABSI BEN BAGHISI, Arabum familia in Regno Illiberitano. *II. p. 252. c. 2.*
- ABSINTHIUM, Herba enecandis vermibus, vestibusque ab erodentium injuria liberandis utilissima. *I. p. 336. c. 1.*
- ABU ABDALLA BEN IARBU, Setabitanus Poeta. *I. p. 94. c. 1.*
- ABDALLA, Hispanus Illiberitanus. Commentario illustravit Poema, cujus titulus *Vestis elegans*, in Mahometi laudem à Scharaphedino Mohamad Ben Said conditum. *I. p. 67. c. 1.*
Duplex hujus Commentarii in Escorial. Biblioth. exemplum, quorum alterum ad usum Bibliothecæ Regis Marochi Abilabbas Ahmad Almanfor Billah exaratum. *Ibid.*
- ABDALLA, Granatæ Rex. *Vide* Mohametus tertius.
- ABDALLA, Hisp. Rex. *Vide* Mohamad Ben Ismael Ben Pharagi Ben Ismael Ben Joseph.
- ABDALLA, Aluateki filius, Africæ Rex. Quare *Asida* dictus *II. p. 227. c. 1.*
Opibus & virtutibus ornatus fuit, atque pium consiliis additus. *Ibid.*
Ejus Successor. *Ibid.*
- ABDALLA Valentini filius, Astrologus valdè peritus, ob idque Regi Ægypti Azizo Billah gratissimus. *I. p. 407. c. 2.*
Obiit an. Eg. 386. *Ibid.*
- ABDALLA ABILPHATH MOHAMAD SUPHITA, Hispalensis, quinto Egiræ Seculo notus. Ejus de Astronomia Opus inscriptum *Quadrans perfectus*. *I. p. 368. c. 1.*
Opusculum ipsius de puncto verticali, sub titulo *Tractus verticis*. *Ibid.*
Ejusdem Liber de Lunæ elevatione, latitudine, longitudine ac Novilunio. *Ibid.*
- ABDALLA AHMAD BEN HAGIAR, Doctor Sectæ Schapheitæ, Alhaitami, Meccanus. Commentario illustravit Poema in Mahometi laudem, *Borda* inscriptum Auctore Abu Abdalla Mohamad Ben Said. *I. p. 77. c. 2. & p. 140. c. 2.*
Octavo Eg. seculo inclaruit. *Ibid. p. 77. c. 2.*
- ABDALLA AHMAD BEN MOHAMAD ALHARUL, Persa. Ejus Lexici Alcoranici, tomis IV. distincti, & *Notabiliorum Liber* inscripti, tomus primus. *I. p. 502. c. 2. & seq.*
- ABDALLA AHMAD BEN MOHAMAD SCHEHABEDDINUS BEN ALKHALIATH. Collectionem edidit Poematum, *Diuan* vulgò vocitatum, ubi Gelalemok Regis Syriæ, aliorumque virorum illustrium præconia leguntur. *I. p. 111. c. 1.*
Quo anno Opus perfecit. *Ibid.*
- ABDALLA ALCODHAI, Judex, Hispanus, Bibliothecæ Cairensis Præfectus. *I. p. 417. c. 2.*
- ABDALLA ALGIUZANI, Avicennæ Amicus, ejusdemque perpetuus Auditor. *I. p. 269. c. 2.*
Ejus fragmentum ad Historiam literariam Avicennæ pertinet. *Ibid.*
- ABDALLA ALHASNI BEN AHMED BEN ALHOSAIN ALZUZANI. Septem veterum Arabum Poemata commentatus est. *I. p. 119. c. 2.*
- ABDALLA ALHOMAIDI. *Vide* Mohamad Ben Abi Nafferi Phatuh Ben Abdalla Alazadita.
- ABDALLA ALHOSAIN BEN AHMAD ALZUZENI. Ejus Dictionarium Arabico-Persicum, titulo *Liber Derivationum*. *I. p. 174. c. 2.*
Extat in Bibl. Reg. Paris. *Ibid.*
- ABDALLA ALHOSSAIN BEN AHMAD BEN MOHAMAD BEN ZACHARIA. Arte ac dolo bonam Africæ partem sibi subjecit. *II. p. 194. c. 1.*
Omnium primus in Africâ Pontificiæ dignitatis fundamenta jecit. *Ibid.*
Ab Obaidalla occisus est. *Ibid.*
- ABDALLA ALHOSSAIN BEN KHALUIA. Ejus explanatio XXX. Alcorani capitum secundum Grammatices præcepta, titulo *Via trita*. *I. p. 502. c. 2.*
- ABDALLA ALHOSSAIN EBN ABDALLA BEN MOHAMAD ALTHAIEBI. Ejus Liber de arte dicendi & scribendi, inscriptus *Demonstrationes*, cum ipsius scholiis & notis. *I. p. 52. c. 1.*
Quando obierit. *Ibid.*
Extat Opus in Regia Bibliotheca Parisiensis *Ibid.*
- ABDALLA ALKHALILI. Ejus Cursus Astronomicus. *I. p. 368. c. 2.*
- ABDALLA ALMOSTANSERUS BILLA MOHADITA, Poeta, Africæ ac Bæticæ Rex. *I. p. 112. c. 2.*
Nominis celebritate, fortitudine & liberalitate clarissimus extitit. *II. p. 226. c. 1. & seq.*
Cum Franci *Tunetum* occupassent, ingenti pecunia urbis libertatem redemit. *Ibid.*
Ejus in Regnum Successor. *Ibid.*
- ABDALLA ALNAGETI MAHMUD BEN OMAR, Nisaburiensis. Ejus Opus autographum, Regum Persarum Annales complectens, *Virorum Sapientum Horti* nuncupatum, cum Commentariis Mahmudi Ben Sepketkin. *II. p. 154. c. 2.*
Hujus Operis apud Arabas pretium. *Ibid. p. 155. c. 1.*
- ABDALLA ALSEKAK, Hispanus. Ejus Poema in laudem Mahometi, *Carmen Mahometicum Ascetico-Morale* inscriptum, commentatus est Said Ali Ben Vapha Ægyptius. *I. p. 113. c. 2.*
- ABDALLA ALTEGIANI, Hispanus. Opus conficit hoc titulo, *Sponsæ munus*. *I. p. 164. c. 1.*
Operis ratio. *Ibid.*
- ABDALLA AMAD BEN ALHASSENUS ALGIABARDEUS, Grammaticus. Ejus *Sana expositio*, seu Commentarius in *Caphiam*. *I. p. 6. c. 1.*
- ABDALLA BADREDDINUS MOHAMAD ALZARKASCHI. *Vide* Badreddinus Mohamad Ben Abdalla Alzarkaschi.
- ABDALLA BEN ABI ALKHOSAL DULUAZRATIN, Poeta. *I. p. 104. c. 2.*
- ABDALLA BEN ABI AMRAN. Ei à Socero suo adhuc superstite Tuneti Regnum in perpetuum delatum. *II. p. 285. c. 2.*
- ABDALLA BEN ABI BAKERUS ALCODAI, vulgò *Ebn Alabari*, Valentinus. Ejus Bibliothecæ Arabico Hispanæ, *Supplementum*, dictæ, & in III.

- III. volumina distinctæ, volumen secundum. II. p. 121. c. 1.
 Excerpta ex ea. *Ibid.* & pagg. seqq.
- ABDALLA BEN ABI SCHAKER, Granatensis. Ejus de Intercalationibus apud Arabas sententia. II. p. 24. c. 1.
- ABDALLA BEN ADHA, Granatæ Judex. II. p. 262. c. 2.
- ABDALLA BEN AHMAD MOHAMAD BEN GAZI ALOTHMANI, Hispanus. Ejus Commentarius in Alcorani Paraphrasim veribus concinnatam ab Abulcassimo Setabitano. I. p. 501. c. 2.
- ABDALLA BEN AIAD, Cordubensis, Poeta. I. p. 94. c. 2.
- ABDALLA BEN AIAS, Valentinus, Poeta. I. p. 94. c. 2.
- ABDALLA BEN ALBOCAR. Libellum scripsit de Pluviarum & Annonæ judicio. I. p. 350. c. 2.
- ABDALLA BEN ALKHATHIB BEN ABDALLA MOHAMAD. *Vide* Ebn Alkhathib.
- ABDALLA BEN ALOSCHI, Poeta celebris, Regisque Granatæ Mahometi III. à Libellis & Epistolis. II. p. 273. c. 2.
- ABDALLA BEN ALPHAGIAR, Valentinus, Poeta. I. p. 103. c. 2.
- ABDALLA BEN ALRACAM, Mathematicus præclarus, atque in Astronomicæ & Gnomonicæ Scientiæ studiis Regis Hispaniæ Nasserî Mohammedi Præceptor. II. p. 277. c. 2.
- ABDALLA BEN ASSEMUS, Mahometi III. Regis Granatæ à Libellis & Epistolis. II. p. 273. c. 2.
- ABDALLA BEN BALEG, Scriptor Hispanus. II. p. 131. c. 2.
- ABDALLA BEN CASIA, Antistes. II. p. 341. c. 2.
- ABDALLA BEN DAUD ALSANHAGI, aliàs *Agrum*. Grammaticam edidit cognominem. I. p. 23. c. 2.
- ABDALLA BEN HAMDAIN, Hispanensis, Jurisconsultus & Poeta. I. p. 105. c. 1.
- ABDALLA BEN HEBUS, Granatensis, Poeta. I. p. 93. c. 2.
- ABDALLA BEN HESHAM ALANSARI. *Vide* Abu Mohamad Abdalla Ben Joseph Ben Hesham.
- ABDALLA BEN HUD, Hispaniæ Rex. In Almostanferi Orientis Imperatoris verba jurat, & ab eodem varia munera accipit. II. p. 191. c. 1.
- ABDALLA BEN IASIM, Setabitanus, Poeta. I. p. 94. c. 2.
- ABDALLA BEN MAIMUN, Cordubensis, Poeta. I. p. 93. c. 2.
- ABDALLA BEN MALEK ALTHAL. *Vide* Ben Malek.
- ABDALLA BEN MOHAMAD, ex Loja urbe, Poeta. I. p. 105. c. 1.
- ABDALLA BEN OMAR BEN RASCID, Septanus. Ejus Opus, *Series Auditus & Animadversionum Utilitas* inscriptum. II. p. 334. c. 1. & 2.
 Operis argumentum. *Ibid.*
 Mentio ejus apud Ebn Alkhathibum in Bibliotheca Arabico Hispana. *Ibid.* c. 2.
- ABDALLA BEN RAPHE RASOH, Odarum egregius conditor. I. p. 128. c. 1.
- ABDALLA BEN SAED MOHAMAD BEN SAED, *Encyclopædiæ*, atque *Historiæ Nationum* Scriptor. I. p. 204. c. 1.
 Toleti supremus Judex fuit. *Ibid.*
- ABDALLA BEN SALAMA ALCODAI. In unum congestit Sententias ad morum doctrinam pertinentes, ex variis Auctoribus excerptas. I. p. 228. c. 2.
- ABDALLA DUALAZRATIN, idem qui *Ahmad Abu Abdalla*, Murciæ Rex; fortitudine ac multiplici eruditione conspicuus. II. p. 214. c. 2. & seqq.
 Valentia à Christianis captâ, inter captivos ducitur, & anno Eg. 508 miserè perit. *Ibid.*
- ABDALLA EBN NASSERUS, Hispaniæ Rex. Ejus ope Jacobus Ben Abdalla, Mauritanæ Rex, Cordubam aggreditur. II. p. 233. c. 2.
- ABDALLA MAHMUD BEN MOHAMAD BEN OMAR, ex opido Giamin in Provincia Kuarezmia. In ejus Tractatum Cosmographicum, *Sphæræ Syn-tagma* inscriptum, Alfaied Alschariphi Commentarius. I. p. 381. c. 2. & seqq.
 In eundem Tractatum Saphældini Alnahriri Commentarius alter figuris exornatus. *Ibid.* p. 382. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD, Pacensis, Odarum non vulgarium Scriptor. I. p. 128. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD ABDELRAHMAN ALLAKHAMI, Valentinus, Poeta. Quo anno claruerit. I. p. 95. c. 1.
 Uoi studiis operam dederit. *Ibid.*
 Ejus obitus. *Ibid.*
- ABDALLA MOHAMAD ABI BAKER, Damascenus Opus edidit de Orationis præstantia, & caritate fraterna, sub titulo *Morbus & Remedium*. I. p. 223. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD ABU BEKER BEN OMAR ALMAKHZUMI ALDAMAMINI, Ægyptius. Poema Dhiaeldini Abi Mohamad Abdallæ Ben Mohamad Alkhazragitæ de Poeticæ Legibus commentatus est. I. p. 120. c. 2.
- ABDALLA MOHAMAD ALBATHUI, vulgò *Abi Macra*, Hispanus. Ejus Poema de Doctrina temporum. I. p. 313. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD ALMOCRI ALTALMASANI, Hispanus. *Juris Mahometani Fundamenta* edidit Fessæ an. Eg. 753. I. p. 467. c. 2.
- ABDALLA MOHAMAD ALRASA, Tunetanæ urbis Cancellarius. Ejus Commentarius in Compendium Juris Canonici Abu Abdallæ Mohamadi Arphæ, *Expositio sufficiens* inscriptus. I. p. 467. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD ALSARSARI. Poema *Borda* commentatus est. I. p. 78. c. 1.
 Poematis hujusce Auctor. *Ibid.* p. 77. c. 2.
- ABDALLA MOHAMAD ALSENSI ALHASNI, Hispanus. Duo ejus Opera de Deo uno: alterum cui titulus *Fidei Fundamenta*, commentario suo; alterum verò *Unitatis & Fidei Scientia* inscriptum, Mahometi Alkobari notis illustratum. I. p. 523. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD ALSOLAMI ALMANAUI, Sectæ Schapheiticæ Jurisconsultus, & Scholiastes Libri *Quadraginta Traditiones* inscripti, cujus auctor Abu Giaphar Mohamad Ben Alhossain Ben Bazdinar. I. p. 225. c. 1.
- ABDALLA MOHAMAD ALTEGIANI. Ejus Tractatus

de Matrimonio hac inscriptione notus, *Munusculum Sponsis oblatum*. I. p. 483. c. 2.

Alterum ejusd. Tract. exemplar. *Ibid.*

ABU ABDALLA MOHAMAD ANSARÆUS, vulgò *Alrasaa*. Ejus Commentarii in Ebn Alhagebi Opus juridicum, cui titulus *Manuductio sufficiens*, an. Eg. 914. absoluti. I. p. 452. c. 1. & 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABDALLA, vulgò *Almokrafi*, Granatensis primarius Judex. Tractatum concinnavit de Officio judicis causarum criminalium, hoc titulo *Admonitiones & Documenta*. I. p. 468. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABDALLA ALHAPHED BEN ALHAKEM, Cordubensis. Ejus Collectio Traditionum. I. p. 537. c. 1. & 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELAZIZ, Setabensis, Hispaniæ Chronicorum Scriptor. II. p. 42. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELRAHMAN BEN ABRAHIM BEN ALHAKIM, ex Ronda urbe, vulgò *Alakhami* dictus, Regibus Granatæ Mahometo II. & III. à Secretis. II. p. 267. c. 2. & 273. c. 1.

Ei Mahometus III. & se & Regni administrationem omnino credidit. *Ibid.* p. 273. c. 1.

In eum die Paschatis anni Eg. 708. Regni Proceres irruunt, domumque ipsius unà cum ampla ejusdem Bibliotheca diripiunt. *Ibid.* p. 275. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABDELUALI, Heliopolitanus, Syrus. Ejus Opusculum de Dictionibus trisyllabis. I. p. 508. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABI ALKHASSAL, Jajenensis. Quinto Eg. seculo inclaruit, ediditque Opusculum de Mahometi uxoribus, ejusque consanguineis, *Nubis umbra* dictum. II. p. 335. c. 1.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABI ALPHATH NASIR BEN ABRAHIM, *Alphabrita*, Dux atque Regis Granatæ Abulualidi Consiliarius. II. p. 284. c. 1.

Quis ei in ministerio datus comes. *Ibid.*

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABI BAKER ALSCHACRATISI, Africanus. In urbe Schacrathsia, vulgò Beladulgerid, natus est an. Eg. 572. I. p. 107. c. 1.

Carmen Schacrathsicum in Mahometi laudem edidit. *Ibid.*

Id Anonymus quidam Commentario illustravit. *Ibid.*

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABILKHASAL DULUAZRATINI, nobilis Cordubensis. *Methodum viarum arduarum*, i. e. Poema de Mahometi Genealogia composuit. I. p. 117. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABRAHAMI BEN ALPHASALI, Hispalensis. De re Rusticâ scripsit. I. p. 323. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABRAHIM ALGIMIMI, *Ebn Alscheuasch* nuncupatus, Valentinus, Poeta. I. p. 98. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABRAHIM BEN ABDEL-SALAM ALTAMIMI, Granatæ Judex. II. p. 262. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ABRAHIM BEN MOHAMAD BEN ABDELGIALIL BEN GALEB ALANSARÆUS, Granatæ Judex. II. p. 262. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD, Doctor Schapheita. Vitam edidit Abilhafani Ali Alhafni Afchadhli Tunetani, & *Morborum curatio* inscripta. I. p. 140. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD ALMOCRI, Hispanus, Fessæ Judex. Ejus de universo Jure Opus, cui titulus *Liber Systematum*, an. Eg. 755. absolutum. I. p. 470. c. 1.

—ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD BEN ABDELMALEK, Judex Castellanus. Ejus *Libellus memorialis* in Tabellionum Hispanorum usum editus, quo acta publica conficiendi traditur ratio. I. p. 471. c. 1.

—ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD BEN HESCHAM LAKHAMITA, Hispalensis. Poema Abi Baker Mohamad Ben Alhassan Ben Doraid, *Regium Conclave* nuncupatum, Scholiis illustravit, ejusdemque Vitam descripsit. I. p. 139. c. 1.

—ABDALLA MOHAMAD BEN AHMAD MARZUC ALTALMASANI. Edidit Opus Canonicum *Lumen Fidei* inscriptum. I. p. 472. c. 1.

—ABDALLA MOHAMAD BEN AIADH BEN MOHAMAD BEN AIADH MUSA ALIAHSABI, Granatæ Judex. Ejus continentia, & veritatis studium laudantur. II. p. 262. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALABBASUS, Granatensis, Grammaticus. Ejus Commentarius in Poema Ben Maleki, dictum *Lamiat*. I. p. 5. c. 1. & 2. & p. 19. c. 2. & seq.

Ipsius obitus. *Ibid.* p. 5. c. 2.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALI ALTARMADHI, Persa, Jurisperitus & Philosophus celeberrimus. Ejus Comment. in Juris Canonici titulos VI. I. p. 461. c. 2.

Ejus mors in an. Eg. 665. incidisse fertur. *Ibid.*

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALI BEN ALPHAKHAR, Granatensis. Ejus Commentarii in Jus Canonicum Tomus prior. I. p. 455. c. 1.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALI BEN HEMAD ALSENAGI, ex Castello Hemad in Murcia, Poeta. I. p. 101. c. 1.

Obit anno Egir. 628. *Ibid.*

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALI BEN KHALED, vulgò *Ebn Alsacath*, Cordubensis. Commentarium elucubravit in Librum de Arte Poetica, titulo *Artis Metricæ Arcana & Quæsitæ*, cujus Auctor Khalil. I. p. 68. c. 2.

Opusculum etiam scripsit de eodem argumento *Ibid.*

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALKHATHIB. *Vide* Ebn Alkathib.

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALNABIA ALPHANDAH. Edidit Commentarium titulo *Alphanar*, id est, *Fax ad Orationes Academicas Harireas*. I. p. 143. c. 2.

Claruit septimo Eg. seculo. *Ibid.*

—ABDALLA MOHAMAD BEN ALUATEK BILLA, ex Regia Haphsitarum familia, Tuneti Rex. II. p. 274. c. 2.

Re.